

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ خَلْدُوْنَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ حَقِیْقَةِ الْاِسْلَامِ

تاریخ ابن خلدون

سلاطین ممالیک بحریہ مصر

کی مفصل تفصیل
تصنیف

رئیس المورخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون

(۱۰۸-۷۳۲)

نفس اک اُردو بازار کراچی طبعی

تاریخ ابن خلدون

نغمہ دہم

نفس اک اُردو بازار کراچی طبعی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْعَلِیْمُ السَّمِیْعُ

تاریخ ابن خلدون

حصہ نمبر

سینیل سٹیٹ

حیدرآباد الحیف آباد، پونٹ نمبر ۸-۶۹

سلاطین ممالیک بحریہ کی مفصل تاریخ

۶۲۸ھ تا ۷۷۸ھ

اس میں ممالیک بحریہ کی مصر و شام پر چند سلطنت کے حالات
مذکور ہیں نیز مصر میں اسلامی خلافت کے دوبارہ قیام تاریخی
فوجوں کی شکست فاش، صلیبی جنگوں کا خاتمہ اور سقوط بغداد
کے بعد مسلمانوں کے دوبارہ عروج و ترقی کے حالات شامل ہیں

ترجمہ ترتیب و تویب معتمد

از

حافظ سید رشید احمد ارشد ایم۔ اے

نفس اکرو بازار کراچی طبعی

کتاب العبد و دیوان المبتداء والخیر
من احوال العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من
ملوک التتیر یعنی علامہ ابن خلدون کی کتاب التواریخ

اردو ترجمہ کے مجملہ حقوق قانونی اشاعت و طباعت نامی
کے
تصحیح و ترتیب و تبویب

چوہدری ظابق اقبال گاندھری
مالک نفیس اکیڈمی - اردو بازار کراچی محفوظ ہیں

نام کتاب: تاریخ ابن خلدون
مصنف: رئیس المورخین علامہ عبدالرحمن بن خلدون
ناشر: نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی
طبع: جدید کمپیوٹر ایڈیشن جنوری ۲۰۰۳ء
ایڈیشن: آفٹ

نفیس اکیڈمی
اردو بازار کراچی

فہرست

حصہ نہم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	اقدار کا آغاز	۱۷	مقدمہ مترجم
	سلطنت میں دخیل	۲۶	
۲۳	ترک جرنیلوں کی فتح		باب: اول
	معظم کا قتل		مصر و شام میں ترکی ممالک کی سلطنت
	شجرۃ الدرد کی حکومت		ترک قبائل و اقوام
	ایوبی خاندان کا زوال	۲۷	ترکوں کا وطن
۳۳	ایوبی امراء کا اجتماع		اسلامی دور میں ترک
	اشرف موسیٰ کی حکومت		ترک غلاموں کا عروج
	مصر کی طرف فوج کشی		ترک غلاموں کی تعلیم و تربیت
	مصر و شام کا مقابلہ	۲۸	اعلیٰ مناصب پر ترقی
	امراء کے شام کا فرار		ترکوں کی خود مختاری
	ناصر کو شکست		ترک سلطنتیں
۳۴	گرقاری اور قتل		اسلامی سلطنتوں کا زوال
	دو بارہ حملہ اور صلح	۲۹	خاندان غلاماں کا آغاز
	بالائی مصر میں بغاوت		غلاموں کی تربیت
	بغاوت کی سرکوبی		مناصب پر ترقی
	اقطاری جاہدار کا قتل		تقرر کا آغاز
۳۵	بحریہ کا فرار		غلاموں کی کثرت
	بحریہ کی جماعت دمشق میں	۳۰	تھپتھپ کے قبائل
	فریقین میں مصالحت		دو قبیلوں کی لڑائی
	علاء الدین کی گرقاری		قتل کا انکشاف
۳۶	عزالدین افرم کی خود مختاری		شاہ تاتار سے فریاد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	قتل اور تعاقب قدیم حکام کی بحالی نئے حکام کی بحالی نئے حکام کا تقرر حاکم حلب برلی کا تقرر	۳۲	علانیہ بغاوت شکست اور فرار افرم کی گرفتاری صیری کا فرار سلطان معز الیک کا قتل علی جو جری کا قتل علی منصور کی تخت نشینی
۳۲	سلطان مظفر قطر کا قتل جذبہ انتقام	۳۳	شرف الدین کا قتل زہیر بن علی کی وفات بحریہ کا ناصر سے مقابلہ بحریہ کی شکست
۳۳	باب: دوم ظاہر بھرس کی تخت نشینی ترقی کا آغاز حاکم دمشق کی بغاوت تاتاریوں کے حملے بغامت کا انسداد برلی کی بغاوت مصر میں تجدید خلافت مستصر کی خلافت فتح بغداد کا ارادہ رقت انگیز خطبہ بولولو کا حال اقتدار کی بحالی خلیفہ کی شہادت فتح موصل ایوبی حکام کی اطاعت ایوبی خاندان کی تعظیم و تکریم عرب قبائل پر بخشش	۳۸	گردوں کے ساتھ اتحاد ناصر کی شکست بھرس اور قلاون کا فرار بحریہ کے امراء کی گرفتاری ہلاکو کی یلغار سلطان قطر کی حکومت ہلاکو خان کی پیش قدمی شام کی فتوحات غلط مشورہ قلندہ دمشق کی تسخیر شامی حکام کی اطاعت اہل مصر کی تیاری سلطان مصر کی فوج کشی غداروں کی شرکت عین جالوت کا معرکہ تاتاریوں کی شکست
۳۴		۳۹	
۳۵		۴۰	
۳۶			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲	پیشوم کی موت تجدید جامع از ہر فرنگیوں کے خلاف جہاد یا فا کی تعمیر	۴۷	احمد کی خلافت فرنگیوں کی مصالحت ترکمانوں کا فرار عزیزید اور اشرافیہ کی اہمیت
۵۳	انطاکیہ کی تاریخ تاریخوں سے صلح پوشیدہ سفر		ان گروہوں کی بغاوت البیرہ پر قبضہ بغاوت اور اطاعت
۵۴	صہیون کے حکام صہیون پر قبضہ حاکم مکہ معظمہ کا تقرر سلطان کا حج	۴۸	مغیث پرفوج کشی الکرک پر قبضہ سلطان حمص کا خاتمہ تاریخوں کی شکست
۵۵	اہل جاز سے حسن سلوک مصر کی طرف واپسی فرنگیوں اور تاریخوں کا متحدہ حملہ حملہ کا مقابلہ فرنگی بادشاہوں کا اجتماع سرحدوں کی حفاظت فتح حصن الاکراد	۴۹	فتح قیساریہ و حیفا فتح ارسوف مفتوحہ علاقہ کی تقسیم بلا کو کی موت انسداد قنہ و فساد جنگ طرابلس و صفد فتح صفد
۵۶	دیگر فتوحات فرقہ اسماعیلیہ کے حالات اسماعیلی قلعوں کی تسخیر تاریخوں کو مزید شکست	۵۰	ارمینیا کے حالات ارمن قوم کا نسب نامہ شاہ ارمن سے تعلقات شاہ ارمن کی شکست
۵۷	ارمینیا پرفوج کشی متبرک مقامات کی تسخیر حاکم طرابلس سے معاہدہ		سیس پر حملہ ارمنوں کی تباہی خانہ بدوش قبائل شاہ ارمن کی گرفتاری
۵۸	بلاد الروم پر تاریخی اقتدار پوشیدہ خط و کتابت تاریخوں سے مقابلہ	۵۱	ارمینیا کے قلعوں کی تسخیر اشقر کی آمد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳	افرم سے ملاقات سنقر کی شکست شاہ تاتار سے خط و کتابت شینزر پر قبضہ حملہ تاتاری کی خبر دشمن کے خلاف اتحاد	۵۹	تاتاریوں کا قتل اور گرفتاری فتح قیساریہ سازش کا علم قتل عام برونات کا قتل سلطان ظاہر بھرس کی وفات
۶۵	سلطان کی فوج کشی مساجد حلب کی تباہی حفاظتی فوج کا تقرر سنقر کی واپسی حصن مرقب میں شکست فرنگیوں سے صلح نامہ	۶۰	برکۃ سعید کی بادشاہت امراء کی گرفتاری گرفتاری اور رہائی چغشل خوروں کا تسلط لاشین ربعی کی آمد امراء کی بغاوت قلعہ کا محاصرہ
۶۶	سازشیوں کا قتل علاقوں کا تبادلہ قلعہ کرک کا معاملہ تاتاریوں کا زبردست حملہ اسلامی لشکر کا مقابلہ آسی ہزار کی تاتاری فوج	۶۱	شاہی فوج کی کمی سلطان برکۃ سعید کی برطرفی قلعہ کرک کا حاکم شلا مش کی حکومت امیر قلاؤن کا انتظام منصور قلاؤن کی اہمیت منصور قلاؤن کی تخت نشینی حکام کا تقرر
۶۷	اسلامی صفوں کے سپہ سالار تاتاریوں کو شکست تاتاریوں کا تعاقب اور تباہی ایضا کا فرار	۶۲	سعدی کی بغاوت اور وفات مسعود خسرو کی باغی حکومت محاصرہ اور صلح مسعود کی حکومت کا خاتمہ سنقر اشقر کی خود سری اعلان بغاوت
۶۸	تاتاری حکام کی موت شاہ تاتاری کی ہلاکت مغل حاکم کی گرفتاری حلب کی تباہی کا انتقام نگودار کا اعلان اسلام	۶۳	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۵	خلیل اشرف کی حکومت حکام کا تقرر نئے وزیر کا تقرر عکا کا محاصرہ فتح عظیم	۶۹	تودان کا قبول اسلام قلعہ مرتقب کی تسخیر قلعہ کرک کی تسخیر فتح صہیون شاہ قنطنیہ کی وفات نوبہ کے حالات داؤد کے خلاف جنگ
۷۶	فرنگی شہروں کی تباہی فتح قلعہ الروم حلب کا نیا حاکم لاشین کی دوبارہ گرفتاری سلطان کانیا شیر میرٹشی کی وفات	۷۰	جائز بادشاہ کا تقرر نوبہ پر فوج کشی دیگر حالات
۷۷	نائب السلطنت سے بدگمانی شاہ ارمن سے مصالحت سلطان اور بیدو کی ناچاقی سلطان کی بارانگی امراء کی سازش سلطان اشرف کا قتل	۷۱	طرابلس الشام کے حالات طرابلس کی تباہی فتح طرابلس الشام کی تاریخ روی پادری کا مرکز طرابلس کے مستقل حکام بنو عمار کی حکومت فرنگیوں کا محاصرہ فاطمی حکام کا تسلط ابن عمار کی ناکامی طرابلس کے فرنگی حکام ہسپتال اور دارالعلوم کی تعمیر
۷۸	بیدو کی عارضی بادشاہت بیدو کا قتل محمد الناصر کی پہلی بادشاہت سازشیوں کا قتل	۷۲	
۷۹	سرغنوں کی رہائی کتبخا کی بغاوت شجاعی وزیر کا قتل ممالیک کا شہر میں داخلہ ممالیک کا قتل و فساد فساد کا قلع قمع	۷۳	وقف کر دینے کا اعلان عکا پر فوج کشی منصور قلاؤن کی وفات
		۷۴	دبایب: مسموم منصور قلاؤن کے جانشین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۵	دشمن کے علاقے میں غیر وز کا قتل منکوتمر کی چغل خوری امراء کی مخالفت سلطان لاشین کا قتل منکوتمر کا قتل لاشین کا مختصر حال	۸۰	کتبغا کی بادشاہت حکام کا تقرر شام میں اقتدار تاتاری جماعت کی آمد شاہ تاتار کے باغی شام و مصر میں استقبال تاتاریوں سے تعلقات کتبغا کے خلاف سازش شام کا سفر امراء مصر کا متفقہ فیصلہ وفاداروں کا قتل لاشین المنصور کی بادشاہت دمشق میں پناہ کتبغا کی حکومت کا قطعی خاتمہ حکام مصر کی تبدیلی جامع ابن طولون کی تعمیر ناصر کی انکرک کی طرف روانگی بیسری کی وفات اراضی کا نیا انتظام نئی تقسیم علامہ نووی کا بیان منکوتمر کی امراء سے مخالفت
۸۶	حلب سے امراء کی آمد طغی کا قتل کرجی کا قتل امراء مصر کی حکومت سلطان ناصر کی دوبارہ بادشاہت نئے حکام کا تقرر تاتاریوں کی فوج کشی سپہ سالار کی بغاوت شاہ مصر کی اہواز باغی فوج کی شکست ناصر کی فوج کشی سازش کا قلع قمع تاتاریوں سے مقابلہ ناصر کی شکست اہل دمشق میں بے چینی	۸۱	
۸۷	غازان سے مشائخ کی ملاقات قلعہ دمشق کی حفاظت غازان کے نام کا خطبہ دمشق اور مضافات کی تباہی اہل دمشق پر بھاری تاوان جامع اموی کی بے حرمتی	۸۲	
۸۸		۸۳	
۸۹		۸۴	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۶	دل دل میں گرفتار جشن فتح شاہ تاتاری کی ہلاکت ارمنوں کے حالات شاہ قلیچ بن ایون شاہ ہشوم شاہ ارمن کو شکست	۹۰	مساجد و مدارس کی تباہی تفحیح کا تقرر سلطان کی دوبارہ فوج کشی سابق حکام کی آمد شام پر دوبارہ قبضہ شامی حکام کا تقرر غازان کی دوبارہ فوج کشی
۹۷	لیون کی حکومت سبباط اندین ہشوم ثانی کی دوبارہ حکومت ارمنوں کا فتنہ و فساد ارمنوں کی سرکوبی جزیریہ کی ادائیگی	۹۱	مستکفی کی خلافت بدوؤں کی سرکوبی مکہ معظمہ کے حکام کی گرفتاری جزیرہ ارداد کی فتح غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ معاہدہ کے الفاظ معاہدہ کی تصدیق
۹۸	ارغلی کا قبول اسلام ہشوم کی چٹل خوری ہشوم کا قتل نیا شاہ ارمن اظہار اطاعت سلطان مغرب کے تحائف تحائف کا تبادلہ	۹۲	حضرت عمر کا معاہدہ معاہدہ کے شرائط شرائط میں اضافہ معاہدہ کی شرعی حیثیت تاتاریوں کی زبردست شکست تاتاریوں کی فوج کشی رحبہ کا محاصرہ
۹۹	دوبارہ تحائف قافلہ پر حملہ سلطان بجاریہ کی امداد اندلس کا محاصرہ ابو یحییٰ البیانی	۹۳	مغل بادشاہ کی واپسی شاہی فوجوں کی آمد حملہ کا آغاز مرج الصفر کا معرکہ تاتاریوں کو شکست
		۹۴	
		۹۵	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۵	اس کی بے اندازہ دولت سلار کا ابتدائی حال حکام کے تقرر اور تبادلے قراسقر کی بغاوت شاہی حکم کی نافرمانی	۱۰۰	بھیرس کا عہد حکومت سلطان کالکرک میں قیام سلطان ناصر کی دستبرداری جاشنگیر بھیرس کی تخت نشینی ملک میں بے چینی
۱۰۶	شاہ تاتار کی حمایت سازش کا الزام شامی حکام کی گرفتاری سلطان کی فوج کشی فریضہ حج کی ادائیگی	۱۰۱	شامی حکام کی خط و کتابت فریاد نامہ شامی حکام کی اطاعت مصری فوج کی روانگی مصر میں ہنگامہ ناصر کی فوج کشی
۱۰۷	قندہ تاتار کا اثر منصور کی بحالی مظفر بن منصور کی حکومت دوسرے قندہ	۱۰۲	حاکم شام کی بے بسی ناصر کا دمشق پر قبضہ مصری عوام کی بغاوت تجدید بیعت کی کوشش حامیوں کا اضافہ جاشنگیر بھیرس کی معزولی
۱۰۸	مختلف حکام ابوالفداء کا تقرر ایوبی حکومت کا خاتمہ بغاوت کی سرکوبی فتح مملطیہ	۱۰۳	تیسری بار ناصر کی حکومت جشن تخت نشینی سلار کو اجازت مال و ذخیرہ ضبط حکام کا تقرر و تبادلہ نیا وزیر
۱۰۹	حکام کا تقرر اور معزولی عمارات کی تعمیر شاہی حج و زیارت دوسرا حج تیسرا حج بکتر کی وفات اہل نوبہ کے حالات	۱۰۴	بھیرس کی گرفتاری سلار کا انجام بھائی کی سازش سلار کی وفات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۷	شرفاء اور غلاموں کا بلوہ سوڈان اور مالی کے حالات مالی کی وسیع سلطنت مالی کے سلاطین کے حج شاہ نگرور کی تعظیم	۱۱۱	نوبہ کے حکام مسلمان حاکم کی حکومت اہل نوبہ کا قبول اسلام نوبہ کی سلطنت کا خاتمہ ارمینیا کے باقی حالات ارمینیا کی فتوحات فتح ایاس دیگر فتوحات تاریخوں کی دو سلطنتیں خانہ جنگیاں
۱۱۸	راہ سے بھٹکنا قرض لینا بین کے حالات خانہ جنگیاں	۱۱۲	شمالی سلطنت سے مصالحت شمالی سلطنت سے رشتہ ازدواج شادی کے قافلہ کی روانگی شاہی قافلہ کا استقبال رسم نکاح معاہدہ صلح کی تکمیل ازبک کو امداد ابوسعید سے صلح سلاطین کے درمیان مصالحت حکام حجاز کے حالات حکام کی گرفتاری بھائیوں کی خانہ جنگی سلطان کی مداخلت مکر وہ سازش کی افواہ دوبارہ خانہ جنگی خمیصہ کا قتل سلطان کی فریادری
۱۱۹	فوجی امداد کی درخواست بغاوت کا قلع قمع شہزادہ احمد کی حکمرانی جوبان اور اس کی اولاد نائب کا قتل	۱۱۳	۱۱۳
۱۲۰	جوبان کی بغاوت و قتل دمرداس کا فرار مصر میں قیام سلطان ابوسعید کا پیغام فراسٹر کا قتل سلطان ابوسعید سے مصالحت	۱۱۴	۱۱۴
۱۲۱	۱۲۱	۱۱۵	۱۱۵
۱۲۲	شام کے عرب قبائل آل فضل کا غلبہ بنو حارثہ غلط روایت سیادت کا آغاز بنو جراح کی سیادت	۱۱۶	۱۱۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۸	مغربی مہمانوں کا استقبال تحائف کا تبادلہ خلفاء کے حالات	۱۲۳	حسان کے کارنامے فضل کے حالات آل جراح سے تعلق قبیلہ طے کی سیادت قبیلہ طے کی تاریخ بنو خازرجہ سے تعلق آل فضل کی امارت عیسیٰ بن مہنا مہنا ثانی
۱۲۹	نظر بندی اور جلا وطنی واثق کا تقرر احمد کا تقرر	۱۲۳	مہنا ثانی کی مخالفت فضل کا تقرر مہنا ثانی کی بحالی آل فضل کی جلا وطنی نیاسردار دو بارہ واپسی مہنا کی خودداری دیگر امراء عرب مہناسوم خیار بن مہنا زائل کی بغاوت آخری امیر ہلاکو خاندان کا خاتمہ شاہ مغرب اقصیٰ سے تعلقات ہمشیرہ شاہ کا حج مغرب کی سوغاتیں مغربی قافلہ کی آمد
۱۳۰	تنگر کا عروج و زوال دمشق کا حاکم تنگر کی گرفتاری سلطان ناصر کی وفات ناصر کے حکام نائب السلطنت جف سیکرٹری ناصر کے کاتب ناصر کے قاضی دو حاکموں کی کشمکش	۱۲۵	
۱۳۱			
۱۳۲	باب: چہارم سلطان ناصر کے جانشین ابوبکر کی بادشاہت نئے حکام کا تقرر	۱۲۶	
	سلطان ابوبکر کی معزولی کجک اشرف کی بادشاہت امراء شام کی بغاوت احمد بن الناصر کی حمایت بادشاہت کا اعلان	۱۲۷	
۱۳۳			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۰	شاہ یمن کی گرفتاری اور رہائی سلطان حسین صالح کی حکومتِ مصر	۱۳۳	بلوہ اور فساد قوصون کی گرفتاری اور موت
۱۳۱	بیقاروس کی بغاوت دمشق پر قبضہ شاہی لشکر کشی بیقاروس کا فرار باغیوں کا تعاقب	۱۳۵	سلطان احمد کی بادشاہت امراء کی بے اعتمادی احمد کا الکرک میں قیام شام میں بے چینی صالح اسماعیل کی تخت نشینی رمضان کی بغاوت اور قتل قلعہ کرک کا محاصرہ سابق سلطان احمد کا قتل سلطان صالح کی وفات اکامل کی بادشاہت سلطان اکامل کا قتل مظفر حاجی کا عہد حکومت ظلم و استبداد کا طریقہ مکیاوی کی بغاوت نا کام سازشیں مکیاوی کا قتل کبوتر بازی پر ملامت امراء مصر کی بغاوت سلطان مظفر کا قتل
۱۳۲	بیقاروس کا قتل ترکمان سردار کا تعاقب بغاوت کا انداد عرب قبائل کی سرکوبی حسن ناصر کی دوبارہ تخت نشینی تقرر و معزولی	۱۳۶	حسن ناصر کی حکومتِ مصر قلم و استبداد کا طریقہ مکیاوی کی بغاوت نا کام سازشیں مکیاوی کا قتل کبوتر بازی پر ملامت امراء مصر کی بغاوت سلطان مظفر کا قتل
۱۳۳	تقرر و معزولی کے وسیع اختیارات شیخو کا قتل حملہ آور کا قتل سر غتمش کا اقتدار امراء کی گرفتاری سر غتمش کا قتل سلطان کی خود مختاری	۱۳۷	حسن ناصر کی حکومتِ مصر قلم و استبداد کا طریقہ مکیاوی کی بغاوت نا کام سازشیں مکیاوی کا قتل کبوتر بازی پر ملامت امراء مصر کی بغاوت سلطان مظفر کا قتل
۱۳۴	حکام کے تبادلے منجک کی معافی ہیقا کی بغاوت شاہی لشکر کو شکست سلطان کا قتل	۱۳۸	حسن ناصر کی حکومتِ مصر قلم و استبداد کا طریقہ مکیاوی کی بغاوت نا کام سازشیں مکیاوی کا قتل کبوتر بازی پر ملامت امراء مصر کی بغاوت سلطان مظفر کا قتل
۱۳۵	منصور محمد بن مظفر حاجی کی تخت نشینی	۱۳۹	حسن ناصر کی حکومتِ مصر قلم و استبداد کا طریقہ مکیاوی کی بغاوت نا کام سازشیں مکیاوی کا قتل کبوتر بازی پر ملامت امراء مصر کی بغاوت سلطان مظفر کا قتل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	اسد مر کی شکست		حاکم دمشق کی بغاوت
	اسد مر کی گرفتاری	۱۳۶	خلیفہ التوکل
	بلوایوں (اجلاب) کا خاتمہ		سلطان اشرف کا عہد حکومت
۱۵۳	قید و بند کی سزا		حکام کے تبادلے
	حکام کی تبدیلی		اہل قبرص کے حالات
	طبعاً طویل کی وفات	۱۳۷	اہل قبرص سے جنگیں
	عرب قبائل کی بغاوت		اہل قبرص کا اسکندریہ پر حملہ
۱۵۴	نئے عہدیداروں کا تقرر		جنگ کے تماشائی
	عمدہ تحائف	۱۳۸	اسکندریہ کی تباہی
۱۵۵	الجبائی یوسفی کی بغاوت اور ہلاکت		فرنگیوں کی غارتگری
	بغاوت کا آغاز		فرنگیوں کی واپسی
	دوبارہ واقعہ		مصری لشکر کی روانگی
	الجبائی کی شکست		ایک سو بجز بیڑوں کی تیاری
	الجبائی کی ہلاکت		طبعاً طویل کی بغاوت
۱۵۶	مخالفوں کو سزائیں	۱۳۹	غلاموں (ممالیک) کی بغاوت
	منجک کا استقبال اور تقرر		بغاوت کے اسباب
	شاہانہ استقبال	۱۵۰	اعلانِ بغاوت
	فتح ارمینیا		سلطان اشرف کی معزولی
۱۵۷	منجک کا جانشین		سلطانی لشکر کا مقابلہ
	طبعاً جو بانی کا بیان		پہچا کی شکست
۱۵۸	ممالیک پہچا کی بھرتی		پہچا کا قتل
	خاصگی ممالیک	۱۵۱	نئے امراء سلطنت
	ابن اسفلاص کی جلاوطنی		دخیل بیرونی افراد
۱۵۹	سفر حج میں بغاوت		بلوہ اور فساد
	حج کے لئے روانگی		بلوایوں کا محاصرہ
۱۶۰	بغاوت اور جنگ		بلوایوں کا تسلط
۱۶۱	ولی عہد کی تخت نشینی	۱۵۲	سلطان کی معزولی کا مطالبہ
۱۶۲	سلطان اشرف کا قتل		

ممالیک سلاطین مصر

کا

دورِ حکومت

از: چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

تاریخ ابن خلدون حصہ نہم و دہم دونوں کا سلیس ترجمہ بھی جناب حافظ سید رشید احمد ارشد سابق صدر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی نے کیا ہے۔ جلد نہم میں مصر و شام کی متحدہ اسلامی سلطنت کے سلاطین ممالیک بحریہ کے حالات پہلی بار اردو زبان میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اردو زبان میں اس دور کی کوئی تاریخ موجود نہ تھی۔

تاہم ممالیک سلاطین مصر کا دور اسلامی تاریخ میں اس لئے اہم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ممالیک سلاطین مصر ہی تھے جنہوں نے سقوط بغداد کے بعد ہلاکو خان اور تاتاریوں کے لشکر کو شکست فاش دی اور نہ صرف اسلامی دنیا اور مصر و شام کو ان کی تباہ کاریوں سے بچایا بلکہ یورپ اور پوری دنیا کو ان کی تباہ کن یلغار اور پیش قدمی سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ اس زمانے میں ان سلاطین مصر کے علاوہ یورپ یا ایشیا کی کوئی سلطنت فوجی حیثیت سے تاتاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

ممالیک سلاطین مصر نے نہ صرف تاتاریوں کی پیش قدمی کو روکا بلکہ انہوں نے ان صلیبی جنگوں کا قلع قمع بھی کیا جو دو سو سال سے مسلمانوں کی تباہی اور انتشار کا ذریعہ بنی ہوئی تھیں۔

ان سلاطین مصر نے اس زمانے میں مصر میں اسلامی خلافت کا احیاء کیا جب کہ سقوط بغداد کے بعد اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا گو یہ خلافت برائے نام تھی تاہم اس کی بدولت سلطنت مصر کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے دنیائے اسلام کے مشہور اہل علم و فضل ہجرت کر کے مصر و شام میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی شمعوں کو دوبارہ روشن کیا۔

تاریخ ابن خلدون کے حصہ دہم میں اسی زمانے کے ان مغل سلاطین کی سلطنتوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ایران، ترکستان، عراق اور بلاد الروم میں جداگانہ سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔

فاضل مترجم نے اصل کتاب کا ترجمہ کرنے کے علاوہ کتاب کے آخر میں ضمیمہ کے طور پر ایک نکتہ بھی شامل کیا ہے جو اپنی معلومات کے لحاظ سے ایک بلند پایہ تحقیقی مقالہ ہے جن میں ممالیک سلاطین کے قائم کردہ تعلیمی مدارس اور ان کی علمی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فن تعمیر میں ان کے یادگار کارنامے بھی بیان کئے گئے ہیں۔

تاریخ ابن خلدون
فاضل مترجم نے نہ صرف اس کتاب کا با محاورہ سلیس اور شستہ ترجمہ ہی کیا ہے بلکہ اصل عربی تاریخ کی اغلاط اور فروگزاشتوں کی کافی حد تک تصحیح بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بولاق اور بیروت کے دونوں ایڈیشنوں سے مدد لی ہے۔

اصل کتاب میں نہ پیرا گراف تھے اور نہ ذیلی عنوانات تھے اور نہ ابواب مقرر کئے گئے تھے۔ مگر مترجم موصوف نے ترجمہ کتاب میں ہر سلطنت کے حالات ایک جداگانہ باب کے تحت ترتیب دیئے ہیں اور ہر نئے مضمون کے لئے جدا پیرا گراف متعین کر کے ان کے لئے مناسب ذیلی عنوانات قائم کئے۔ نیز بڑے بڑے عنوانات کے تحت چھوٹے عنوانات قائم کئے تاکہ عام قارئین کرام بالخصوص تاریخ اسلام کے طلبہ کو تاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں سہولت میسر ہو۔

کتاب کے ابتدائی صفحات میں ان سب چھوٹے بڑے عنوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بیک نظر تاریخی واقعات کا تسلسل قائم رہے۔
ہم مولانا رشید احمد ارشد صاحب کے دلی مضمون ہیں کہ انہوں نے غیر معمولی دلچسپی اور تحقیق سے کام لے کر تمام اغلاط سے حصہ پنجم و دہم کو پاک و صاف کر دیا ہے۔

جزاہم اللہ احسن الجزاء

www.muhammadilibrary.com

مقدمہ مترجم

(از حافظ سید رشید احمد ارشد سابق صدر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی)

ہماری اس جلد نمبر کا آغاز ممالیک بحر یہ مصر کے سلاطین سے ہو رہا ہے جن کے ماتحت شام و مصر کا متحدہ علاقہ تھا۔ یہ سلطنت ایوبی خاندان کے زوال کے بعد قاہرہ (مصر) میں قائم ہوئی۔

اس متحدہ سلطنت کے سلاطین ابتداء میں غلام (ممالیک) تھے۔ وہ معمولی منصب سے ترقی کر کے اپنے زور بازو اور غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے بادشاہت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے تھے۔ اس لئے وہ شجاعت سیاسی اور فوجی صلاحیت کا اعلیٰ نمونہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ”غلام“ بادشاہوں نے ایوبی سلاطین کے زوال کے بعد جب کہ تاریخی قوم کا سیلاب اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کر رہا تھا شام و مصر کی متحدہ سلطنت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ تقریباً ڈھائی سو سال تک مصر و شام پر اس وقت تک حکومت کرتے رہے جب کہ بغدادی عباسی خلافت اور مشرق کی اسلامی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور تاریخوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور مرکزی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یوں نہ صرف مشرق میں مسلمان تباہ ہوئے بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد مغرب میں اندلس کی اسلامی سلطنت بھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔

سقوط بغداد اور عباسی خلافت کا خاتمہ اسلامی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ ہے مگر یہ مسلمانوں کی تباہی کا آخری باب تھا، کیونکہ اس سے پیشتر چنگیز خان اور اس کی اولاد ایران، خراسان اور ترکستان کی اسلامی سلطنتوں اور ان کے بارونق شہروں کو فنا کر چکی تھی۔ ان المناک حادثات کی بدولت مسلم قوم نہ صرف مادی اور سیاسی حیثیت سے تباہ ہوئی، بلکہ وہ اخلاقی، علمی اور روحانی حیثیت سے بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ ان ممالک میں ہر طرف مایوسی اور محرومی کا دور دورہ تھا اور ان تباہ شدہ اسلامی ممالک میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ باقی نہ رہا تھا۔

ایسے موقع پر ان ”ترک غلام“ بادشاہوں اور ان کی فوج نے ”قتلہ تاتار“ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف مصر و شام کو ان کی یلغار اور تباہ کاریوں سے بچایا بلکہ یورپ اور باقی ماندہ دنیا کو ان کے وحشیانہ حملوں سے محفوظ رکھا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے:

سقوط بغداد کے بعد ہلاکوں کی فوجیں برق رفتاری کے ساتھ آگے کے اسلامی علاقوں کو تباہ و برباد کرتی ہوئی شام کی سرحد تک پہنچ گئیں یہاں تک کہ یہ نڈی دل لشکر مصر کے سرحدی شہر غزہ تک پہنچ گیا تھا۔

اس وقت اہل شام پر خوف و ہراس طاری تھا، کیونکہ مشرقی ممالک کا انجام ان کے پیش نظر تھا۔ تاتاریوں کی تباہ کاریوں کے تصور سے ان کے دل لرز رہے تھے تاہم شام و مصر کے مرد مؤمن بالکل مایوس نہ تھے۔ وہ صلاح الدین جیسے ”مرد میدان“ کے منتظر تھے۔ آخر کار ”مردے از غیب بیروں آید و کارے بکند“ کے مصداق مصر کے مملوک سلطان معز الملک المنظر

قطر نے مسلمانوں کی منتشر فوجوں کو جمع کر کے عین جالوت کے مقام پر تاتاریوں کے ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ کیا۔ فریقین میں گھسان کارن پڑا۔ یہاں تک کہ سلطان معز الملک قطر نے بنفس نفیس معرکہ جنگ میں شریک ہو کر مسلمان سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور شوق شہادت کی طرف مائل کیا۔ چنانچہ سلطان کی حوصلہ افزائی اور دعوت جہاد سے متاثر ہو کر مسلمان مجاہدین نہایت سے سرشار ہو گئے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے داد شجاعت دیتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تاتاریوں کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ وہ دوبارہ کسی جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے۔

یہ وہ تاتاری فوج تھی جو ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ کیونکہ اس نے ایران و خراسان اور ترکستان کی عظیم الشان سلطنتوں کو نہایت آسانی کے ساتھ فنا کر دیا تھا۔ مگر قادر مطلق کا یہ ادنیٰ کرشمہ تھا کہ یہی ناقابل تخریب ٹڈی دل لشکر مصر کے ترک غلاموں کے سامنے بے دست و پا ثابت ہوا۔ ان کا سپہ سالار اعظم کعبغا میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کا لشکر جزار (بڑی) طرح بھاگنے لگا۔ یہاں تک کہ مسلمان فوج نے اس کا تعاقب کر کے ان کا قتل عام کیا۔

اس فتح عظیم نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان قوم زندہ ہے اور وہ ہر دور میں نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کر سکتی ہے بلکہ تمام دنیا کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتی ہے چنانچہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مؤرخ تحریر کرتا ہے:

”عین جالوت کی فتح نے تمام دنیا کو تاتاریوں کے حملوں سے اس وقت محفوظ رکھا جب کہ یورپ کے کسی ملک کے لئے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔“

بہر حال مصر و شام کے مسلمان اس فتح عظیم پر بہت خوش ہوئے اور جب سلطان معز الملک المنظر قطر دمشق میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوا تو اس کے چاروں طرف اسلامی علم لہلہا رہا ہے تھے اور اس فتح کے بعد شام و مصر کے ممالک دوبارہ متحد سلطنت میں تبدیل ہو گئے اور شام میں ترک ممالیک سلاطین کی طرف سے نائب حاکم مقرر ہو کر آنے لگا۔

عہد ممالیک کا آغاز: مصر کا پہلا ترک غلام (مملوک) بادشاہ المعز الدین ایک تھا۔ وہ ماہ ربیع الآخر کے اختتام پر ۶۲۸ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ یوں اس خاندان کی سلطنت کا آغاز سقوط بغداد سے پہلے ہو گیا تھا۔

سلطان قطر ۶۵۷ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک سال تک حکومت کی تاہم عین جالوت کی فتح عظیم کے واقعہ نے اسے زندہ جاوید بنا دیا۔ کیونکہ اس نے تاتاریوں کی پیش قدمی کو روک کر دنیا کو ان کی تباہ کاریوں سے بچالیا تھا۔

اسلامی خلافت کا احیاء: سلطان قطر کے بعد سلطان طاہر بیہر س بندقداری مصر و شام کا بادشاہ ہوا۔ وہ ممالیک خاندان کا عظیم بادشاہ تھا اور اس نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بغداد کی عباسی خلافت کو مصر میں منتقل کیا۔ مصر کی یہ خلافت برائے نام تھی اور اسے مستقل اقتدار حاصل نہ تھا تاہم اس کے ذریعے مصر کے ممالیک کی سلطنت کو مذہبی اور سیاسی طور پر استحکام حاصل ہوا اور خلیفہ کے وجود سے اس سلطنت کو عالم اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اور وہ مصیبت زندہ مسلمانوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ نیز حجاز کے مقامات مقدسہ کی خدمت اور نگرانی کا کام بھی اسی سلطنت کے ذمے رہا۔ مصر کے ممالیک سلاطین اپنے غیر محدود اختیارات انہی خلفاء کے ذریعے حاصل کرتے تھے اور دشمنوں کے خلاف جنگوں میں ان خلفاء کو لے جا کر انہی کے ذریعے مسلمان فوجوں میں شوق جہاد و شہادت کے جذبات پیدا کرتے تھے۔

اس قسم کے خلفاء ممالیک بحریہ و چرا کہہ دونوں زمانوں میں برقرار رہے اور جب ترکی کے عثمان سلطان سلیم نے مصر پر قبضہ کر کے ان کی متحدہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا تو اسلامی خلافت ترک سلاطین کی طرف منتقل کر دی گئی۔

دو مشہور سلاطین: علامہ ابن خلدون نے صرف ۹۶ء تک کے حالات تحریر کئے ہیں کیونکہ اس کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں میں مصروف رہا اور پھر ۸۰۸ھ میں فوت ہو گیا تھا، اس لئے وہ چرکسی ممالیک مصر میں سے صرف سلطان برقوق الظاہر کے نامکمل حالات اس وقت تک کے تحریر کر سکا جب کہ سلطان برقوق تاتاریوں کے متوقع حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے دمشق میں مقیم تھا۔

ابن خلدون نے ممالیک بحریہ سلاطین کے سیاسی حالات مکمل تحریر کئے ہیں تاہم وہ ان کے دور کے علمی اور سماجی کارناموں کا حال نہیں تحریر کر سکا اور قدیم تاریخوں کی طرح وہ جنگوں اور درباری جوڑ توڑ سازشوں اور خانہ جنگیوں کے حالات ہی بیان کر سکا ہے۔ لہذا ہم اس دور کی دیگر تواریخ اور تذکرہوں کی مدد سے ممالیک بحریہ کے دو مشہور سلاطین کا وہ پہلو نمایاں کر رہے ہیں جو ابن خلدون کے تحریر کردہ حالات میں پوشیدہ رہ گیا ہے۔

یہ دو مشہور سلاطین سلطان ظاہر بھیرس اور سلطان ناصر محمد بن قلاؤن ہیں۔ ان دونوں سلاطین کا دور حکومت نسبتاً طویل رہا اور یہ دونوں سلاطین عوام پسند تھے اور انہوں نے رافہ عام کے لئے بے شمار کام انجام دیئے اور ان کے دور میں تعلیمی اداروں میں بھی اضافہ ہوا اور فنِ تعمیر نے بھی ترقی کی۔

سلطان ظاہر بھیرس: سلطان ظاہر بھیرس بہت بہادر فیاض اور عوام دوست بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بہادری، شجاعت اور فیاضی کی بدولت تخت شاہی حاصل کیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ کسے نہیں تاتاریوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتا تھا۔ چنانچہ اس عہد کے مشہور مؤرخ ابوالحسن ابن تفری بردی نے اپنی کتاب ”انجوم الظاہرہ“ میں اس کی بہادری اور شجاعت کے ایک واقعہ کا حال اس طرح بیان کیا ہے:

”پھر سلطان ظاہر بھیرس نے بذات خود حملہ کیا۔ جب سپاہیوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی متحدہ طور پر اسی طرح جاں فروشی کے ساتھ حملے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری فوج اپنے گھوڑوں سے اتر آئی اور پیادہ لڑنے لگی۔ وہ نہایت بہادری کے ساتھ موت کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ مگر تاتاری فوجوں کی کوششیں بے سود رہیں کیونکہ سلطان ظاہر بھیرس اور اس کا لشکر بھی بے مثل شجاعت اور صبر و استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ سلطان ظاہر بھیرس بذات خود حملہ آور شیر کی طرح دشمن پر بھرپور حملے کر رہا تھا اور خطرناک مقامات کے اندر خود گھس جاتا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے سامنے جہاد اور شہادت کی اہمیت کو واضح کرتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح و نصرت نازل کی۔“

رافہ عام کی خدمات: سلطان ظاہر بھیرس جو بعض تاریخی واقعات سے بے رحم اور سنگدل بادشاہ ظاہر ہوتا ہے۔ درحقیقت عوامی مفادات کا بہت خیال رکھتا تھا اور غریب عوام پر بے حد بخشش اور سخاوت کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ”انجوم

الظاہرہ“ کا مؤلف یوں رقم طراز ہے:

”وہ ہر سال دس ہزار من (اروپ) گیبوں غریبوں، مسکینوں اور خانقاہ نشینوں پر صرف کرتا تھا (جنگلوں میں شہید ہونے کی وجہ سے) فوجیوں کے یتیم بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، تاہم سلطان بھیرس نے معقول گزارہ کے لئے ان کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ (اس کے علاوہ) اس نے ایک مخصوص وقف اس کام کے لئے مقرر کیا تھا کہ اس کے ذریعے ان مسافروں کی چھبیر و تکفین کی جائے جو قاہرہ اور مصر کے دیگر حصوں میں (لاوارث ہو کر) فوت ہو جاتے ہیں۔

سلطان موصوف نے ایک دوسرا وقف اس کام کے لئے مخصوص کر دیا تھا کہ اس کی آمدنی سے روٹیاں خرید کر (فائدہ کش) غریب مسلمانوں میں تقسیم کی جائیں۔“

علماء کی حق گوئی: سلطان بھیرس مذہبی علماء کا جو رائے عامہ کے ترجمان ہوتے تھے، بہت احترام کرتا تھا اور ان کے فتوؤں کے بغیر کوئی اہم کام انجام نہیں دیتا تھا۔ اس زمانہ کے علماء بھی بلا خوف و خطر فتوے دیتے تھے اور شرعی معاملات کو حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے میں حکومت سے نہیں ڈرتے تھے:

اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ علماء کی ایک جماعت نے سلطان ظاہر بھیرس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیا تو امام محی الدین نووی (شرح صحیح مسلم) اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے: ”انہوں نے تمہارے لئے جھوٹا فتویٰ دیا ہے۔“

امام نووی کی صداقت اور حق گوئی کا دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”جب سلطان ظاہر بھیرس، تاتاریوں کے خلاف جہاد کرنے کے لئے شام روانہ ہوا تو اس نے علماء سے یہ فتویٰ حاصل کیا کہ ”دشمن سے جنگ کرنے کے لئے رعایا کا مال زبردستی حاصل کرنا جائز ہے۔“ یہ فتویٰ شام کے علماء اور فقہاء نے دیا تھا۔ آخر میں سلطان بھیرس نے پوچھا:

”کیا اور کوئی مفتی باقی رہ گیا ہے جس نے اس فتوے پر دستخط نہ کئے ہوں؟“

لوگوں نے کہا ”امام محی الدین نووی باقی رہ گئے ہیں۔“

لہذا سلطان نے ان کو بلوا کر کہا:

”آپ بھی علمائے کرام کے اس فتویٰ پر دستخط کر دیں!“

مگر امام نووی نے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ جب سلطان نے انکار کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:

کلمہ حق: ”مجھے معلوم ہے کہ تم امیر بندقدار کی غلامی میں رہے تھے اور تمہارے پاس مال و دولت نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہزار غلام ہیں اور ہر غلام کے سنہری پٹکے ہیں۔ نیز تمہاری ملکیت میں دو سو لوٹیاں ہیں اور ہر لوٹی کے پاس زیورات کے صندوقے ہیں۔ اگر تم یہ مال و دولت صرف کر لو اور

۱ ایضاً کتاب مذکور ج ۷ صفحہ ۱۶۲۔

۲ حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ از جلال الدین سیوطی جلد ۲ صفحہ ۶۶۔

تاریخ ابن خلدون حصہ ہفتم
تمہارے غلام سنہری پٹکوں کے بجائے اونی پٹکے باندھیں اور لوٹدیوں کے پاس صرف کپڑے رہ جائیں اور زیورات باقی نہ رہیں تو اُس وقت میں رعایا کا مال حاصل کرنے کا فتویٰ دوں گا۔“

سلطان ظاہر امام نووی کی اس گفتگو سے ناراض ہوا اور کہنے لگا:
”میرے شہر سے نکل جاؤ۔“ شہر سے اس کی مراد دمشق کا شہر تھا۔ امام نووی نے جواب دیا: ”بہت بہتر“ یہ کہہ کر وہ نووی (اپنے دیہاتی وطن) چلے گئے۔ بعد میں علما نے کرام نے بادشاہ سے درخواست کی:
”یہ ہمارے بڑے عالم اور بزرگ شخصیت کے مالک ہیں بلکہ یہ ہمارے رہنما اور پیشوا ہیں۔ اس لئے آپ انہیں دمشق بلوائیں۔“

چنانچہ بادشاہ نے اُن کے واپس آنے کی اجازت دے دی مگر وہ دمشق واپس نہیں آئے اور کہنے لگے:

”جب تک ظاہر بھرس اس ملک کے بادشاہ ہیں میں دمشق نہیں آؤں گا۔“ اس واقعہ کے ایک مہینہ کے بعد سلطان ظاہر بھرس کا انتقال ہو گیا۔^۱

شیخ عز الدین بن عبد السلام مصر کے شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام بھی حق گوئی میں بڑی جرأت سے کام لیتے تھے ان کی حق گوئی کا ایک مشہور واقعہ ہے جو اس طرح مذکور ہے:

”سلطان قطز کے قتل کے بعد جب سلطان ظاہر بھرس نے اپنی بادشاہت کے لئے بیعت لینی چاہی اور اس کی بیعت کے تمام انتظامات تقریباً مکمل ہو گئے تھے کہ اتنے میں یہ پتہ چلا کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام نے (جو مصر کے شیخ الاسلام تھے) اس کی بیعت سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ سلطان بھرس کے پاس اپنی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا کوئی شرعی ثبوت نہ تھا۔ انہوں نے سلطان سے مخاطب ہو کر یہ کہا:
”اے رکن الدین! مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم بندقدار کے غلام ہو۔“

اس پر سلطان بھرس نے کئی معتبر گواہ حاضر کئے جنہوں نے یہ شہادت دی کہ ”بھرس بندقدار کی غلامی سے آزاد ہو گیا تھا۔“ لہذا ان گواہوں کی شہادت کے بعد شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام نے سلطان کے ہاتھ پر بیعت کی۔^۲

شیخ عز الدین بن عبد السلام احکام شریعت نافذ کرانے میں کسی بڑے سے بڑے جابر حکمران کی پروا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب انہیں معلوم ہوا کہ بعض امراء ابھی تک غلام ہیں تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر کے بعض امراء ابھی تک غلام ہیں لہذا ان کے تمام تصرفات اور کاروبار ناجائز ہیں جب تک انہیں فروخت کر کے انہیں آزاد نہ کرایا جائے اور انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں داخل کی جائے۔“

اس قسم کے امراء میں مصر کے نائب السلطنت کا نام بھی شامل تھا۔ وہ (اس فتوے سے) بہت مشتعل ہوا اور ہنگامہ

۱ ایضاً ج ۲ ص ۷۱۔

۲ ”ممالک سلاطین کا عہد اور ان کی عیسیٰ اور ادبی پیداوار“ (عربی) از محمود زرق سلیم ج ۳ ص ۱۸۲۔

برپا کرنے لگا، مگر اس کی کوششیں (مخالفت) بے سود رہیں (مصری عوام نے شریعت کے مقابلہ میں اس کی کوئی بات نہیں مانی) آخر کار شیخ عزالدین کی تجویز مان لی گئی اور عوام کھلم کھلا نیلام میں فروخت کی بولی لگانے لگے چنانچہ نائب السلطنت کی قیمت فروخت بہت زیادہ لگائی گئی۔ پھر وہ قیمت بیت المال میں داخل کی گئی۔^۱

ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کے مقابلے میں مسلمان عوام بڑے سے بڑے بادشاہ یا حاکم سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ انہیں شرعی احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرتے تھے۔ مصری حکام بھی عوام اور مذہبی علماء کا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان طاہر بیہس کا یہ حال تھا کہ اگر شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام کسی معاملے میں اس کی مخالفت کرتے تھے تو اسے ان کا حکم ماننا پڑتا تھا

..... یہی وجہ ہے کہ جب شیخ عزالدین بن عبدالسلام کی وفات کی خبر اس کو موصول ہوئی تو اس نے فوراً یہ کہا:

”میری حکومت اب قائم ہوئی ہے۔ پہلے (ان کے زمانے) میں میری اپنی حکومت نہ تھی۔“

یہ چند واقعات ہم نے اس لئے بیان کئے ہیں کہ سلطان طاہر بیہس کا روشن پہلو بھی سامنے آجائے اور اس کے رفاہ عام اور علمی ترقی کے کاموں کو مختصر طور پر بیان کر دیا جائے۔

سلطان موصوف نے صلیب پر حسرت فرنگیوں کے مقابلے میں قیسا ریہ کے مقام پر فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی۔ اس نے صلیب پرستوں کے مستحکم مرکز اناطولیہ پر بھی حملہ کیا جو تباہ و برباد ہو گیا۔

سلطان ناصر محمد بن قلاوون: ممالیک بحر یہ کے اہم ممالطین میں سے جنہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ سلطان ناصر محمد بن قلاوون کا نام نمایاں ہے وہ بھی عوام پسند بادشاہ تھا۔ اس کا دور ہنگامہ خیز تھا۔ وہ دوسرے معزول ہوا اور تین مرتبہ بادشاہ بنا۔ تاہم اس نے رفاہ عام کے ایسے کام انجام دیئے کہ وہ عوام میں مقبول ہو گیا تھا، اسی لئے مصری عوام نے اسے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھایا اور جب وہ دوبارہ بادشاہ بن کر ۶۹۸ھ میں مصر آیا تو مصری عوام نے نعرہ بکبیر کے ساتھ اس کا زبردست استقبال کیا۔ اس موقع کا حال مشہور مورخ ابوالحسن ابن تفری بردی یوں بیان کرتا ہے:

”جب امراء اور عوام اس کے استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے تو اس وقت ہر شخص بے حد مسرور تھا اور قاہرہ کا

کوئی شخص (سلطان کے) استقبال کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ عوام نے بادشاہ کے دوبارہ آنے پر جس قدر خوشی

اور مسرت کا اظہار کیا وہ ناقابل بیان ہے اس کی آمد پر شہر قاہرہ کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ آراستہ کیا

گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیئے اور بادشاہ کے واپس آنے کی خوشی میں عمدہ شکر ادا کیا اور

دعائیں مانگیں۔“

سلطان ناصر اپنی قوم میں اس قدر مقبول تھا کہ قوم مختلف تقریبوں پر اسے مبارک باد پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ ایسا ایک موقع اس وقت آیا جب کہ سلطان ناصر ایک جنگی معرکہ سے فتح یاب ہو کر مصر واپس آیا تو مصری عوام

۱ طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۲-۱۸۵۔ مطبع الحسینیہ مصر۔

۲ انجم الزاہرہ ج ۸ ص ۱۱۶۔

کثرت کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے شان دار فتح و نصرت پر مبارکباد پیش کی اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے پر اظہار مسرت کیا۔^۱

ایک دوسرے موقع پر جب عوام کو پتہ چلا کہ چند مصری امراء سلطان کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو سب لوگ سلطان کے آستانے پر جمع ہو گئے اس وقت انہوں نے ان امراء کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ چلا کر کہہ رہے تھے:

”اے ناصر! اے منصور! اللہ غداروں کو تباہ کرے گا۔ اللہ اُس کو غارت کرے گا جو ناصر بن قلاوون کے ساتھ غداری کرے گا۔“

جب ان امراء کو معلوم ہوا کہ عوام سلطان کے زبردست حامی ہیں تو انہوں نے عوام کی رضامندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اسی وقت وہ سلطان ناصر کے پاس گئے اور زمین بوسی کے بعد (اظہار اطاعت اور وفاداری کے لئے) اس کی دست بوسی کی۔^۲

سلطان ناصر نے بھی رفقاء عام کے بے شمار کام انجام دیئے اور مساجد، مدارس، خانقاہوں اور مقابر کی تعمیر کرا کے فن تعمیر کے نادر نمونے پیش کئے، جو اس کی زندہ جاوید یادگار ہیں۔ اس کے عہد میں سیاسی کشمکشوں، جوڑ توڑ اور سیاسی سازشوں اور رقابتوں کے باوجود علوم و فنون کی بہت ترقی ہوئی اور مشہور علماء و فضلاء کا چشمہ فیض تعلیمی درگاہوں کی صورت میں مصر و شام میں جاری رہا۔

مصر کی سیاسی تاریخ: ممالیک سلاطین کے اس روشن پہلو کے باوجود جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان سلاطین کی سیاسی تاریخ، اندرونی خانہ جنگیوں، امراء کے جوڑ توڑ اور ان کی سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں ان واقعات کا ترجمہ کرتے وقت دلی کوفت اور ذہنی پریشانی ہوتی تھی۔ نیز ہم بار بار افسوس کرتے تھے کہ مؤرخ اعظم ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں جو اصول وضع کئے تھے، اس پر خود عمل نہیں کیا۔ کیونکہ بالعموم اس نے مسلمان سلاطین کی تاریخ تحریر کرتے وقت ان کی خانہ جنگیوں اور ان کے امراء کی سازشوں کا تاریک پہلو ہی ظاہر کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا طالب علم ان حالات کو پڑھ کر اپنے سلاطین اور اسلاف سے بدظن ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ غیر مسلم سلاطین روم و یونان اور یورپ کی تاریخوں میں بھی جہاں شخصی حکومتیں قائم تھیں، اسی قسم کے واقعات ملتے ہیں ان کے ہاں بھی درباری سازشوں اور خانہ جنگیوں کے واقعات بکثرت مذکور ہیں۔

قدیم زمانے میں تاریخ کا مفہوم صرف یہی ہوتا تھا کہ سلاطین کے سیاسی حالات اور ان کی جنگوں کے واقعات بیان کئے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم تاریخیں جن میں اسلامی تاریخیں بھی شامل ہیں، سلاطین کے تعمیر اور رفقاء عام کے کاموں سے خالی ہوتی ہیں نیز ان میں عوام کے سماجی، تعلیمی اور اقتصادی حالات کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔

تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون غالباً اپنے دور کا پہلا مؤرخ ہے جس نے تمام تاریخوں کے ان نقائص کو محسوس کیا اور

۱۔ انجم الزاہرہ ج ۸ ص ۱۶۸

۲۔ انجم الزاہرہ ج ۸ ص ۱۷۱-۱۷۲

ان کا ذکر اپنے مقدمہ تاریخ میں کیا ہے، مگر اپنے دور کے ہنگامہ خیز حالات سیاسی مصروفیات اور سرکاری مشاغل کی وجہ سے وہ خود اپنی تاریخ میں ان اصولوں پر عمل نہیں کر سکا جو خود اس نے اپنے مقدمہ تاریخ میں وضع کئے تھے بلکہ اس کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ نہایت عجلت اور بے سروسامانی کی حالت میں تحریر کی ہے جس کی طرف وہ کہیں کہیں اشارے بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس جلد میں وہ یہ تحریر کرتا ہے کہ جب وہ مصر منتقل ہوا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو افریقہ سے بلوایا وہ بحری راستے سے سوار ہوئے تھے اور بد قسمتی سے وہ شاہی جہاز جس میں شاہ مصر کے لئے تحائف بھی تھے غرق ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بھی ہلاک ہو گئے۔

ابن خلدون کی مجبوریاں: یہ ایسا المناک واقعہ تھا جس نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا۔ اس کے علاوہ افریقہ اور مصر میں درباری امراء کی سازشوں کی وجہ سے اسے مختلف ممالک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا پڑا اور آخر میں امیر تیور جس کا تذکرہ اس نے اسی جلدی میں کیا ہے اسے گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا۔ جہاں وہ کافی عرصے تک جس بے جا میں رہا۔

ترجمہ کی مشکلات: بس یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ میں متعلقہ سلاطین کے حالات مختصر ہیں اور مختلف شاہی خاندانوں کی ترتیب کی وجہ سے تاریخی حالات بالعموم مکرر تحریر ہو گئے ہیں۔ اس تکرار کو دور کرنے کے لئے وہ جا بجا اختصار سے کام لیتا ہے اور اس اختصار کی وجہ سے عبارت مبہم اور غیر واضح ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مترجم کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عجلت نگاری کی وجہ سے کہیں کہیں سنین اور نام بھی غلط لکھے گئے ہیں اور جا بجا خالی جگہ (بیاض) ہے اس وجہ سے آگے پیچھے کی عبارتوں کا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ ہم اس معاملے میں اسے اپنی بُرا شوب زندگی کے حالات کی وجہ سے معذور سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ بعد کے علماء کا فرض تھا کہ وہ اس کی تاریخ کے نسخوں کی نقل کراتے وقت اس کی مناسب تصحیح کراتے یا موجودہ دور میں جب کہ یورپ اور عرب ممالک میں نسخوں کی تحقیق و تصحیح کا کام مغربی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ لہذا اس تاریخ کی تصحیح محقق علماء سے کراتے مگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ہم بولا ق اور بیروت کے ایڈیٹروں کا حال بیان کر چکے ہیں۔ ان مطابع کے محققین نے نام اور سنین کی وہ معمولی اغلاط بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاق و اسباق کے مطالعہ سے بہ آسانی درست ہو سکتی تھیں جیسا کہ ہم نے ترجمہ کرتے وقت درست کی ہیں۔

علمی دور: ممالک مصر کا عہد افسوسناک خانہ جنگیوں بغاوتوں جوڑ توڑ اور سیاسی سازشوں کے باوجود مسلمانوں کا شان دار علمی دور ہے۔ کیونکہ یہی متحدہ سلطنت مصر و شام مسلمان اہل علم و فضل کی پناہ گاہ تھی۔ کیونکہ ایران و خراسان اور ترکستان کے مشرقی ممالک، تاجاری حملوں اور یلغار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے اور وہاں کے دارالعلوم، علمی مدارس، کتب خانے مساجد اور خانقاہیں بھی نیست و نابود ہو گئی تھیں۔ نیز بغداد، عراق، عرب اور الجزائر و دیار بکر کے علاقے بھی تباہ ہو گئے تھے اور اب صرف شام اور مصر کے علاقے ہی ایسے تھے جہاں ان مذکورہ ممالک کے علماء کو پناہ ملی اور وہ فراغت کے ساتھ تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ یہاں بے شمار تعلیمی مدارس، مساجد، خانقاہیں اور کتب خانے قائم ہو گئے تھے۔ چونکہ مصر و شام کی اس متحدہ سلطنت نے صلیب پرستوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور تاجاریوں کے حملے کا مقابلہ نہایت

جرات و ہمت کے ساتھ کر رہی تھی۔ اس لئے اس سلطنت میں بڑی حد تک امن و امان رہا اور اہل علم و فضل ان سلاطین کی قدر دانی اور سہولتوں کی بدولت تعلیم و تدریس میں مشغول رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی انہوں نے مختلف علوم و فنون کی معیاری کتب تحریر کیں جو نہ صرف مدارس میں نصابی کتب کا کام دیتی تھیں بلکہ علمی طبقے میں بھی بہت مقبول ہوئیں۔ اس وقت فتنہ تاتار کے بعد مسلمانوں کا جو علمی نژاد باقی رہ گیا تھا، انہیں اس دور کے علماء و فضلاء نے سمیٹا اور مختلف علوم و معارف پر جامع کتب موجودہ انسائیکلو پیڈیا قسم کی کتابوں کی طرز پر لکھتے رہے۔ چنانچہ آج کل جو مشہور و مستند ضخیم عربی کتب نظر آتی ہیں وہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں۔ ہم نے اس دور کے نقلی مدارس، خانقاہوں، محدثین اور دیگر علماء و فضلاء کے بارے میں مختصر حالات ایک الگ مستقل مضمون میں تحریر کئے ہیں جو اس تاریخ کے لئے ضمیمہ اور مکملہ کا کام دے سکتا ہے۔

ہمارا ترجمہ: ہمارا یہ ترجمہ بھی جلد ہشتم کے ترجمہ کی طرح ہے۔ اس حصہ کا ترجمہ کرتے وقت بھی اصل کتاب کے بولاق اور بیروت ایڈیشن سے مدد لی گئی ہے اور ہمیں وہی دقتیں درپیش آئیں جو جلد ہشتم کا ترجمہ کرتے وقت پیش آئی تھیں۔ اس دور کے تاریخی حالات میں بھی جا بجا خالی جگہ (بیاض) موجود ہے اور بیروت کے بہتر ایڈیشن کے منتظمین نے بھی اصل کی تصحیح کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ سنین کی ان واضح اغلاط کو بھی درست نہیں کیا ہے جو اصل کتاب کے سیاق و سباق کے مطالعہ سے بہ آسانی درست کی جاسکتی تھیں۔ چنانچہ ہم نے سیاق و سباق کا مطالعہ کرنے کے بعد یادگیر مقامات میں ان کے تذکرہ سے مقابلہ کر کے ان اغلاط کو درست کیا ہے نیز ہم نے مقدور بھر یہ کوشش کی ہے کہ دیگر کتب تاریخ کی مدد سے خالی جگہ (بیاض) اور دیگر اغلاط کو درست کیا جائے۔

تبویب و ترتیب: اصل کتاب میں صرف چند طویل عنوانات تھے نہ اس میں پیرا گراف تھے اور نہ ذیلی عنوانات اور نہ جداگانہ ابواب مقرر کئے گئے تھے۔ اس لئے ہم نے افادہ عوام کے لئے ہر نئے مضمون کے لئے جداگانہ پیرا گراف متعین کئے ہیں اور پھر ان کے لئے ذیلی عنوانات قائم کئے ہیں اور انہیں تاریخ کے اہم واقعات کے بڑے عنوانات کے ماتحت رکھا ہے تاکہ عام قارئین کرام اور بالخصوص تاریخ اسلام کے طلبہ کو تاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں سہولت ہو۔

ہم نے کتاب کی ابتداء میں سب چھوٹے بڑے عنوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرتب کی ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بیک نظر تاریخی واقعات کا تسلسل قائم رہے۔

کراچی۔ ۱۳ اگست ۱۹۷۴

رشید احمد ارشد

باب: اولی

مصر و شام میں ترکی ممالیک کی سلطنت

کتاب کے آغاز میں ہم ترکوں کا نسب نامہ بیان کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے سلجوقی اقوام کا حال بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں القصبہ عرب ماہرین انساب یہ کہتے ہیں کہ وہ عامور بن مسویل بن یافث کی اولاد سے ہیں (ان کے برخلاف) رومی ماہرین انساب کی رائے یہ ہے کہ وہ طیراش بن یافث کی اولاد سے ہیں اور تورات میں بھی ایسی مذکور ہے۔ بظاہر عرب ماہرین انساب کی رائے غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عامور کو مر کا معرب ہے۔ کیونکہ اس کا کاف کا حرف معرب بناتے وقت عین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اکثر اسے بھی عین مہملہ (بلا نقطہ) میں بدل دیا جاتا ہے یا وہ حرف اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ سویل کا اضافہ بھی غلط ہے۔

رومی عالموں نے ترکوں کو طیراش کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ اسرائیلی روایت کے مطابق ہے۔ البتہ تورات کی روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ رائے ضعیف ہے۔

ترک قبائل و اقوام: ترکوں کے قبائل اور قومیں بہت سے ہیں ہم نے کتاب کے شروع میں ان کا شمار کیا ہے (ان سے قابل ذکر) تفرغ ہے جو تاتار اور خطا کی قومیں ہیں۔ وہ طغماح کی سرزمین میں آباد تھے۔ یہ ترکستان اور کاشغر کا علاقہ کہلایا جبکہ ان ترکوں کے بادشاہ مسلمان ہوئے تھے۔

ترکوں کی ایک شاخ خزنخہ اور غر بھی ہے۔ سلجوقیہ بھی اسی قوم سے تھے۔ ایک شاخ ہیاطلہ کی ہے، خلیجی قوم انہی کی شاخ ہے اور سمرقند کے قریب صغد کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ صغدی بھی کہلاتے تھے۔

انہی ترک اقوام میں غوری، خزر اور قچاق کی قومیں ہیں، انہیں خفشاخ و میک و المعلان بھی کہا جاتا ہے۔ افغان، شرکس اور ارکش بھی انہیں کہا جاتا ہے۔

کتاب زبار کے مؤلف نے ان کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے کہ ترکوں کی تمام اقوام (ترکستان) کے ماوراء النہر کے علاقے سے لے کر بحر ظلمات تک پھیلی ہوئی تھیں (ان کے مختلف قبائل کے نام یہ ہیں) عسیہ، تفرغیہ، خرنیریہ، کیماکیہ، خزنخہ، خزر، حلسان، ترکش، ارکش، خفشاخ، خلیج، غزیہ، بلغار، خجاکت، میماک، برطاس، سمجرت، خرجان، انکر۔ دوسرے مقام پر یہ مذکور ہے کہ انکر ترک قوم ہے اور وہ رومی علاقے وینس میں رہتی تھی۔

ترکوں کا وطن: ترک دنیا کے شمالی حصہ کے نصف مشرقی حصے کے مالک تھے وہ ہندو عراق کے اگلے علاقوں میں تین اقالیم

میں آباد تھے یعنی وہ اقلیم پنجم، ششم اور ہفتم میں رہتے تھے (ان کے برخلاف) عرب اقوام کرۂ ارض کے جنوبی حصے میں آباد تھے اور وہ جزیرہ عرب اور اس کے متعلق علاقوں یعنی شام و عراق میں آباد تھے۔

عربوں کی طرح ترک قوم بھی خانہ بدوش جنگ جو اور لوٹ مار کرنے والی قوم تھی۔ ان کا ذریعہ معاش لوٹ مار تھا۔ البتہ ان کی قلیل تعداد کا یہ پیشہ نہ تھا۔

اسلامی دور میں ترک: جب مسلمانوں نے مختلف ممالک فتح کئے تو اموی سلطنت کے عہد میں وہ بہت زیادہ فوجی حملوں کے بعد مغلوب اور مطیع ہوئے تھے اور عباسی دور کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ (ترکوں کے ساتھ ان جنگوں میں) عربوں کو ایسے (ترک) جنگی قید بہت ملے اور انہوں نے ان جنگی قیدیوں کو مختلف صنعت و حرفت کے پیشوں میں مشغول رکھا۔ مسلمانوں نے مذہبی جنگوں میں ایران، روم اور دیگر اقوام کی عورتوں کو لونڈی بنا کر نسل کشی کا کام لیا تھا۔ یہی طریقہ انہوں نے ترک خواتین کو لونڈی بنا کر جاری رکھا۔

(آغاز اسلام میں) عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے فوجی کاموں اور فتوحات میں ان غلاموں سے مدد نہیں لیتے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے تھے انہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی اور رجحان کے مطابق جو چاہے ذریعہ معاش اختیار کرے۔ کیونکہ اُس زمانے میں عربوں میں قومیت کا جذبہ مستحکم تھا اور وہ اپنے سلطنت کے کاموں میں متحد تھے اور وہ اپنا اقتدار اور برتری قائم رکھنے کے لیے متحد و متفق ہو جاتے تھے۔

ترک غلاموں کا عروج: تاہم جوں جوں عربی اور شاہی اقتدار کا جذبہ بڑھتا گیا اور استبداد اور مطلق العنانی کے رجحانات قوی ہوتے گئے اسی قدر بادشاہوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے حریفوں اور مخالفوں کے مقابلے میں اپنی شان و شوکت اور شاہی رعب و دبدبہ قائم کریں تاکہ مخالفوں کو ان کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہ ہو لہذا اس مقصد کے لئے مہدی اور ہارون الرشید کے عہد میں ترک روم اور بربر اقوام کے سوانی پر مشتمل ایک معتبر فوج تیار کی گئی جنہیں عیدین شاہی تقریبات اور اہم جنگوں میں شان و شوکت بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور ان سے بادشاہ کی حفاظت کے لئے ہاڈی گارڈ کے دسے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ زمانہ امن میں ان سے زیب و زینت بڑھانے اور بادشاہ کے مخصوص وفاداروں کی تعداد بڑھانے کا کام بھی لیا جاتا تھا (ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ) خلیفہ معتصم نے سامرا کا شہر تعمیر کرایا۔ کیونکہ ان کی سواروں کے تصادم سے (بغداد کی) رعایا کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس لئے انہیں تکلیف سے بچانے کے لئے ان کے لئے الگ یہ شہر بسایا گیا (بغداد میں) ان کی آمد و رفت سے لڑائی جھگڑا برپا ہوتا تھا اور ان کی بھیڑ سے راہ گروں کے لئے گلیاں اور سڑکیں تنگ ہو جاتی تھیں۔

ترک غلاموں کی تعلیم و تربیت: (موالی کے اُن خاص دستوں پر) ترکوں کا نام غالب تھا کیونکہ (دیگر اقوام کے موالی) ان کے تابع ہوتے تھے اور انہی میں شامل سمجھے جاتے تھے اُس زمانے میں مسلمانوں کی جنگیں دور دراز کے علاقوں میں ہو رہی تھیں اور ترکوں سے بھی ان کی جنگیں لگا تار ہو رہی تھیں اور بالعموم انہیں فتح حاصل ہوتی تھی اُس لئے ہر طرف سے ان کے جنگی قیدیوں کی بے شمار تعداد موصول ہونے لگی۔ لہذا ایسی صورت میں مسلمان خلفاء اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد

ان غلاموں کی فوج میں مخصوص جانثاروں کی فوج کا انتخاب کرتے تھے اور منتخب افراد کو سپہ سالار اور افسروں کے عہدے پر ترقی دی جاتی تھی۔ وہ اس انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور جنگی قیدیوں میں سے خوبصورت غلام اور لوہڈی کا انتخاب کرتے تھے۔ ایسے چیدہ چیدہ غلاموں کو شاہی محلوں کا درواغہ یا اپنے دفاتر کا افسر مقرر کرتے تھے۔ انہیں شریعت اسلامی کے احکام و قوانین اور ملک و سیاست کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ انہیں تیر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی، شہسواری اور دیگر فنونِ حرب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نیز انہیں ہتھیاروں کے استعمال اور سیاسی چالوں سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔

اعلیٰ مناصب پر ترقی: جب ان کی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تھی اور یہ غلام مہذب اور شائستہ بن جاتے تھے تو انہیں خواص افراد میں شامل کیا جاتا تھا اور شاہی دربار میں انہیں مناسب مناصب و مراتب پر سرفراز کیا جاتا تھا، انہیں نہ صرف شاہی تقریبات اور شاہی جلوسوں کے موقع پر اعلیٰ مراتب پر سرفراز کیا جاتا تھا بلکہ اہم حادثات اور بغاوتوں کے موقع پر بھی انہیں ان کے انسداد کے لئے بھیجا جاتا تھا اور سابقہ عنایات و نوازش کے ساتھ ساتھ انہیں سرحدوں کی حفاظت کے لئے بھی مقرر کیا جاتا تھا اور جنگ کے موقع پر فوج کی قیادت بھی انہیں تفویض کی جاتی تھی۔

ترکوں کی خود مختاری: یوں غلغلاء (ترک) غلاموں کے ساتھ اس قسم کی عنایت و نوازش کرتے رہے۔ کیونکہ ان کا شاہی تخت ان کے ستونوں سے مستحکم ہو رہا تھا اور ان کی خلافت ان کے تعاون سے قائم ہو رہی تھی لہذا یہ سلطنت و خلافت کا لازمی حصہ بن گئے۔ پھر جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کے خون جمل بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ (ترک غلام) بھی خود مختار ہو کر سلطنت پر چھا گئے تا آنکہ (ایک وقت ایسا آیا کہ) انہوں نے نغلاء کو سلطنت سے اتار کر خود سلطنت پر قبضہ کر لیا اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ اب سلطنت کی باگ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس لئے انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ ”سلطان“ کے لقب کا اضافہ کر لیا۔

ترک سلطنتیں: (ترک غلاموں کی خود مختاری کا) آغاز متوکل کے واقعہ (قتل) سے ہوا، اس کے بعد موالی سلطنت اور سلاطین و خلفاء پر غالب آتے رہے چنانچہ ان کے سلف نے خلف (بعد میں آنے والوں) کو (خود مختاری کا) راستہ دکھا دیا اور انہوں نے اپنے پیشروؤں کی پیروی کی۔ یوں مسلمانوں کی متعدد (چھوٹی) سلطنتیں قائم ہونے لگیں، جن کی بنیاد قومیت اور اعلیٰ نسب پر تھی۔ جیسے ماوراء النہر (ترکستان) کی سامانی حکومت قائم ہوئی اور ان کے بعد سلجوقیوں کے خاندان کی حکومت آئی اسی طرح مصر میں خاندان طولون اور خاندان طغ کی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اور سلجوقی سلطنت قائم ہونے کے بعد ماوراء النہر میں خوارزم شاہی سلطنت قائم ہوئی اور دمشق میں طغرلکین کی سلطنت اور مار دین میں بنو اتق کی سلطنت۔ موصل و شام میں زنگی سلطنت قائم ہوئی۔ ان کے علاوہ دیگر سلطنتیں بھی قائم ہوئیں جن کا حال ہم بیان کر چکے ہیں۔

اسلامی سلطنتوں کا زوال: یہ سلطنتیں عیش و عشرت سے مستغرق ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمزور ہوتی گئیں اور آخر کار طغ تارکوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو گیا جنہوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور ملک کی شان و شوکت ختم کر دی چونکہ ان ممالک کے باشندے عیش و عشرت میں غرق ہو گئے تھے اس لئے ان کی ہمتیں پست ہوتی گئیں اور وہ اپنے وطن کی حفاظت

کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ان میں بہادری اور مردانگی کے جوہر باقی نہیں رہے تھے اس لئے مسلمانوں کی بجائے کفار (تاتاری) ان پر مسلط ہو گئے تھے۔

خاندان غلاماں کا آغاز: ان ہولناک حادثات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اس نے ایمان کی اس ریش (مسلمانوں کی بگھری ہوئی طاقت کو) اس صورت میں باقی رکھا کہ اس نے مسلمانوں کی شیرازہ بندی، ان کے نظام کی حمایت اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کی یہ صورت نکالی کہ اس نے ترک قوم اور ترکی قبائل میں سے ایسے بہادر حکمران مصر میں پیدا کر دیئے جو دارالحرب سے دارالاسلام میں غلاموں کی صورت میں لائے جاتے تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت پوشیدہ ہوتی تھی اور ایمانی قوت برقرار تھی۔ ان غلاموں کے بدویانہ اخلاق کیلگی سے خالی ہوتے تھے اور وہ تہذیب و تمدن کی عیاشی اور کدر و قوتوں سے پاک و صاف ہوتے تھے۔

غلاموں کی تربیت: بردہ فروش سوداگر ان غلاموں کو مصر لا کر مصری حکام کو پیش کرتے تھے وہ انہیں گراں قیمت پر اس لئے نہیں خریدتے تھے کہ انہیں محض غلام بنا کر رکھا جائے بلکہ وہ انہیں اپنی طاقت اور شان و شوکت بڑھانے کے لئے خریدتے تھے۔ وہ قومی غیرت سے متاثر ہو کر ایسے غلاموں کا انتخاب کرتے تھے۔ جن میں ان کی قومی جرأت اور بہادری کے آثار نظر آتے تھے۔ پھر وہ ان غلاموں کی شاہی مملوں میں اس طرح پرورش کرتے تھے کہ وہ مخلص افراد بن کر نکلیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے انتہائی کوشش صرف ہوتی تھی انہیں قرآنی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ جب وہ جوان ہوتے تھے تو انہیں تیر اندازی، شہسواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور دیگر فنون سپہ گری سکھائے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مضبوط اور طاقتور انسان بن جاتے تھے اور وہ اپنے آقاؤں کی مدافعت کرنے اور اپنی جان بٹاری کے جوہر دکھانے کے قابل ہو جاتے تھے۔

مناصب پر ترقی: جب (یہ غلام) اس مقام پر پہنچ جاتے تھے تو سلاطین ان کی تنخواہیں دوگنی کر دیتے تھے اور انہیں بکثرت جاگیریں دیتے تھے اور ان کے لئے لازمی قراردادیں تھے کہ وہ ہتھیاروں کا اپنی طرح سے استعمال کریں (جنگی مقاصد کے لئے) گھوڑوں کے اصطبل قائم کریں اور اس مقصد کے لئے انہیں اپنے ہم جنسوں کو بکثرت اپنے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ اکثر شاہی علاقے ان سے آباد رہتے تھے اور انہیں سلطنت کے اعلیٰ مناصب پر ترقی دی جاتی تھی۔ چنانچہ آگے چل کر وہ تخت نشینی کے امیدوار بنتے تھے اور اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کے امور سلطنت کو (خوش اسلوبی کے ساتھ) سرانجام دیتے تھے۔ چنانچہ ان غلاموں کے ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہی اور ان کی بدولت مسلمانوں کو عروج اور خوش حالی حاصل ہوئی رہی۔

تقرر کا آغاز: اس قسم کے غلاموں کی پرورش اور ترقی کا آغاز سلطان صلاح الدین یوسف سلطان مصر و شام اور اس کے بھائی ملک عادل ابو بکر کے دور میں ہوا۔ پھر ان کی اولاد کے زمانے میں اس سلسلہ میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان کے آخری بادشاہ ملک صالح نجم الدین ایوب کے عہد میں (غلاموں کی پرورش و ترقی کا) یہ سلسلہ اپنی انتہائی درجے تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس کی اکثر فوج انہیں غلاموں پر مشتمل تھی۔

غلاموں کی کثرت: جب اس کا (صالح ایوب) کا خاندان منتشر ہو گیا اور اس کے مددگاروں نے اس کے ساتھ غداری

کی اور اس کے ساتھیوں اور فوج نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے انہیں غلاموں کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس نے (بردہ فروش) تاجروں سے دوگنی قیمت پر انہیں خریدا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ترکی غلاموں کی کثرت ہو گئی تھی، کیونکہ تاتاریوں نے شمالی حصے کے مغربی علاقوں کو (جو ترکوں کا وطن تھا) روند ڈالا تھا اور یہاں کے ترک قبائل یعنی قچاق، روس، علان، مولات اور چرکسی قبائل کو تباہ کر رکھا تھا اس زمانے میں شمال میں تاتاریوں کا بادشاہ دوشی خان بن چنگیز خان تھا۔ اس نے ان ترک قبائل کو یا تو قتل کر دیا تھا یا جنگی اسیر بنا لیا تھا۔ اس لئے مصر کے علاقے میں (خریداری کے لئے) بہت سے غلام پہنچ گئے تھے اور غلام سوداگروں کے لئے سب سے زیادہ نفیس اور قیمتی سامان بن گئے تھے۔

قچاق کے قبائل: (ان ترک ممالیک سلاطین مصر کا بانی بھرس بندقداری ہے، وہ قبائل قچاق پر تاتاریوں کے حملے کی وجوہات اس طرح بیان کرتا ہے:)

”قچاق کے گیارہ مندرجہ ذیل قبائل ہیں (۱) طغصبا (۲) ستا (۳) برج اعلا (۴) الیولی (۵) قصر اعلیٰ (۶) ادلی (۷) دورت (۸) قلابا اعلیٰ (۹) اجرشان (۱۰) قدر کارکلی (۱۱) کنن۔“

(مورخ ابن خلدون کہتا ہے کہ):

”ان گیارہ قبائل میں ان دس قدیم قبائل کا تذکرہ نہیں ہے جن کا ماہرین انساب شمار کرتے ہیں اور جن کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غالباً یہ صرف قچاق کی شخصیں ہیں جو شمالی علاقے کی مغربی سمت میں مقیم تھے کیونکہ بھرس کے انداز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی علاقے کے ترکوں کا ذکر کر رہا ہے۔ خوارزم اور ماوراء النہر کے علاقے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔“

دو قبیلوں کی لڑائی آگے چل کر بھرس کہتا ہے: ”جب تاتاری ۱۲۶۶ء میں ان کے ملک پر غالب آ گئے تو اس وقت چنگیز خان کا لڑکا دوشی خان بادشاہ تھا۔ اسی زمانے میں اتفاق سے یہ واقعہ ہوا کہ قبیلہ دورت کا ایک شخص منقوش بن کتر کار کے لئے نکلا۔ اس وقت اس کی بیٹی طغصبا کے ایک شخص سے ہوئی جس کا نام آقا کبک تھا۔ ان دونوں اشخاص کے قبیلوں میں سخت دشمنی تھی اس لئے منقوش بن کتر کو آقا کبک نے قتل کر دیا۔“

قتل کا انکشاف: جب مقتول کے اہل و عیال کو دیر تک اس کی خبر نہیں ملی تو انہوں نے اس کا حال معلوم کرنے کے لئے ایک شخص کو جس کا نام جلقر تھا، بھیجا جب وہ اس کا حال معلوم کر کے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے قاتل کا نام بھی بتایا۔ چنانچہ اس کا قبیلہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور دونوں قبیلوں میں جنگ ہونے لگی۔ آخر کار طغصبا کے قبیلہ کو شکست ہوئی اور قاتل آقا کبک بھاگ نکلا اور اس کی جماعت منتشر ہو گئی۔

شاہ تاتار سے فریاد: اس نے اپنے بھائی اقرص کو تاتاریوں کے بادشاہ دوشی کے پاس بھیجا، اس نے جا کر قچاق کے قبیلہ دورت کی شکایت کی اور کتر اور اس کی قوم نے اس کے بھائی (مقتول) کے ساتھ جو مظالم کئے تھے اس کا حال بیان کیا اور ان پر حملہ کرنے کا آسان طریقہ بھی بتایا۔ دوشی خان نے (اس کی شکایت سن کر) اپنا جاسوس بھیجا تا کہ وہ ان کا حال معلوم کرے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ ان پر آسانی سے حملہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ

وہ کتوں کی طرح اپنے شکار کو پکڑے ہوئے ہیں چنانچہ جب وہ انہیں بھگا دے گا تو وہ ان پر غالب آ جائے گا۔
اس خبر سے شاہ تاتار کو قچاق کے علاقے پر حملہ کرنے کی جرأت ہوئی۔ اقصیٰ نے جو فریاد کرنے کے لئے آیا تھا اُسے مزید جرأت دلائی۔ اس نے جو بات کہی تھی اس کا مفہوم یہ ہے

”ہمارے ایک ہزار سر ہیں جو صرف ایک دم کو کھینچ رہے ہیں اور آپ کا ایک سر ایک ہزار دموں کو کھینچ رہا ہے۔“

اس گفتگو سے بادشاہ کو مزید تقویت پہنچی اور وہ تاتاری فوجوں کو لے کر علاقہ قچاق پر حملہ آور ہوا اور ان کا صفایا کر دیا۔ بہت سے افراد مارے گئے اور ایک بہت بڑی تعداد جنگی قیدی بنائی گئی جو مختلف ممالک میں فروخت ہونے لگے (ان کی خرید و فروخت سے) بردہ فروش مالا مال ہو گئے اور وہ ان (ترک غلاموں) کو مہر لے گئے (ان میں بیہوش بند قنداری بھی شامل تھا) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس غلامی) کے بدلے میں اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور (اس ملک کی) بادشاہت اور تخت و تاج عطا کیا۔“

یہاں پر بیہوش کی گفتگو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دورت کا قبیلہ قچاق سے تعلق رکھتا تھا اور طغصبا کا قبیلہ تاتاری تھا۔ (کیونکہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے اس قبیلہ کی شکایت پر تاتاری بادشاہ حملہ آور ہوا تھا۔ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مذکورہ بالا قبائل کی جنگ شاخوں کا شمار کیا گیا تھا وہ ایک قوم سے نہیں ہیں۔ نیز اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ترک ممالک (سلاطین) جو مصر میں آ کر حکمران ہوئے ان میں سے اکثر علاقہ قچاق سے آئے تھے۔

اقتدار کا آغاز: یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ملک صالح بنجہم الدین ایوب بن کامل نے ترک ترکمان ارمن اور چرکسی غلاموں کو (اپنی فوج) میں بکثرت شامل کر رکھا تھا، مگر چونکہ ان غلاموں میں ترک غلاموں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ (اپنے کارناموں کی وجہ سے بھی) نمایاں تھے۔ اس لئے ان سب گروہوں پر ترک کا لقب العموم غالب تھا۔ ان غلاموں کے بھی مختلف بادشاہوں سے منسوب ہونے کی وجہ سے کئی گروہ تھے چنانچہ ایک گروہ کا نام عزیز یہ تھا یہ ملک عزیز عثمان بن صلاح الدین کی طرف منسوب تھے۔ دوسرا گروہ صالحیہ کے نام سے منسوب تھا، ان کا تعلق ملک صالح ایوب سے تھا۔ تیسرا گروہ بحر یہ سے تھا، ان کا تعلق اس قلعہ (بحر) سے تھا جو ملک صالح نے مہیاس کے بالمقابل دریائے نیل کی دونوں شاخوں کے درمیان تعمیر کرایا تھا۔ یہ لوگ اس قلعہ کی محافظ فوج میں شامل تھے اور سلطان کے محل کی خاص فوج میں شمار کئے جاتے تھے اور اس کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ تھے۔ اس کے سربراہوں میں عزالدین ابیک چاشنیر ترکمانی، فارس الدین اقطائی، جامد ار اور رکن الدین بیہوش بند قنداری تھے۔

سلطنت میں دخیل: جب (صلیبی) فرنگی ۶۴۷ھ میں دمیاط کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور ملک صالح نے منصورہ میں وفات پائی تو (ان ترک سرداروں نے) اس کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور سلطنت کے امور ملک صالح کی بیوی اور اس کے فرزند خلیل کی والدہ شجرۃ الدر کے سپرد کر دیئے۔ اس عرصے میں انہوں نے اس کے فرزند معظم توران شاہ کو بھی بلوا بھیجا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔

ترک جرنیلوں کی فتح: فرنگیوں نے ملک صالح کی موت کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس لئے وہ پوشیدہ طور پر بدرتج مسلمانوں کے خیموں میں گھستے گئے اور ہراول دستے کا مقابلہ کر کے انہوں نے فخر الدین اتابک کو قتل کر دیا۔ (اس عارضی شکست کے بعد) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر و استقامت عطا کی اور وہ ثابت قدم رہے۔ اس دن ترک جرنیلوں نے زبردست بہادرانہ کارنامے انجام دیئے اور وہ سلطان کی بیگم شجرۃ الدر کے ساتھ (مصری) علم کے نیچے کھڑے رہے اور یہ آگاہ کرتے رہے کہ (ملکہ) بنفس نفیس وہاں موجود ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ (مسلمانوں) نے پلٹ کر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ اس کے بعد معظم توران شاہ کیفا سے وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور قیادت اس کے سپرد کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات درست ہو گئے اور مسلمانوں نے بحری اور بری دونوں راستوں سے حملے کئے۔ آخر کار فرنگیوں کو کامل شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ فرسیس گرفتار ہو گیا۔

معظم کا قتل: معظم توران شاہ کو وہاں آئے ہوئے دو مہینے ہوئے تھے اور اس نے اس فتح کے بعد مصر کی طرف کوچ کیا۔ اس عرصے میں اس کے خواص ساتھیوں نے اس کے باپ کے موالی پر بہت ظلم و ستم کیا اور ان کی گردہ بندی کر کے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لئے جب وہ مصر جانے کے لئے فارس کوڑ میں مقیم تھا تو بحر یہ جماعت کے افسروں نے اسے متفقہ طور پر قتل کر دیا۔

شجر الدر کی حکومت: ان کے سر کردہ یہ حضرات تھے ایک اقطاعی بھروس انہوں نے (شاہی تخت پر) ام خلیل ملکہ شجرۃ الدر کو بٹھایا اور منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا بلکہ سکے پر بھی اس کا نام کندہ ہوا اور شاہی احکام پر اس کا طغرا ام خلیل نصب ہوتا تھا۔ اس وقت ایک ترکمانی اس کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ بعد ازاں (فرنگیوں کے بادشاہ) فرسیس نے دمیاط کا علاقہ زندگیہ کے طور پر حوالے کر کے رہائی حاصل کی اور ۶۳۸ھ میں مسلمانوں نے اس پر (دوبارہ) قبضہ کر لیا۔ جب فرسیس (فرنگی بادشاہ) نے حلف اٹھا کر یہ وعدہ کیا کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ نہیں کرے گا تو مسلمانوں نے اسے بحری راستے سے اس کے ملک روانہ کر دیا۔

ایوبی خاندان کا زوال: اب مصر میں ترک (ممالیک) کی مصر پر مستقل حکومت قائم ہو گئی اور ایوبی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب ایوبی خاندان کے افراد کو معظم کے قتل اور ایک عورت کی تخت نشینی کی خبر ملی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ فتح الدین عمر بن العادل کو اس کے چچا صالح ایوب نے قلعہ الکراک میں قید کر دیا تھا اور اس کا خادم بدر الدین صوابی جسے اس نے قلعہ الکراک اور شوہک کی فتح کے بعد ان دونوں علاقوں کا حاکم بنا دیا تھا۔ اس کا نگران تھا (جب اسے یہ خبر ملی) تو بدر الدین نے اسے قید خانے سے رہا کر دیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چنانچہ اس نے اپنا لقب مغیث رکھا اور حکومت کی باگ سنبھال لی۔

جب مصر میں یہ خبر پہنچی اور (ارکان سلطنت) کو معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ عورت کو حاکم بنانے پر ناراض ہیں تو انہوں نے ام خلیل کو معزول کر دیا اور چونکہ ان کا سپہ سالار ایک ملک صالح اور ملک عادل کا پسندیدہ شخص تھا۔ اس لئے انہوں نے متفقہ طور پر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے المعز کا لقب عطا کیا۔ اب وہ تنہا مصر کا خود مختار بادشاہ ہو گیا اس نے اپنے مولیٰ سیف الدین قطر کو اپنا نائب مقرر کیا اور ترک افسروں کو مختلف مناصب و مراتب پر مقرر کیا۔

ایوبی امراء کا اجتماع: ملک صالح ایوب نے اپنی وفات سے پہلے ابن مطروح کے بجائے جمال الدین ابن یغور کو دمشق میں اپنا نائب حاکم مقرر کیا تھا۔ وہاں ایوبی خاندان کے شہزادے (امراء) بہت موجود تھے۔ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مصر میں ترک امراء خود مختار ہو گئے ہیں اور ایک مصر کا حاکم ہو گیا ہے اور (دوسری طرف) الکراک میں مغیث کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ ایسی حالت میں ان ایوبی امراء نے گزشتہ واقعات کی تلافی کرنے کی تدابیر پر غور و خوض کیا۔ اس زمانے میں شام میں ایوبی خاندان کے اکابر مندرجہ ذیل تھے:

(۱) ناصر یوسف بن عزیز (۲) محمد بن ظاہر غازی بن صلاح الدین حاکم حلب و حمص لہذا انہوں نے ناصر کو بلوا کر دمشق میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے آمادہ کیا کہ وہ مصر کی حکومت بھی حاصل کر لے۔

اشرف موسیٰ کی حکومت: ادھر مصر کے امراء کو بھی یہ اطلاع ملی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایوبی خاندان کے کسی شخص کو بادشاہ مقرر کریں تاکہ عوام ان کی مذمت نہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا والد یوسف اطہر بن کامل یمن کا حاکم تھا۔ وہ اس زمانے میں چھ سال کا بچہ تھا تاہم اس کا لقب اشرف رکھا گیا (اور اسے بادشاہ بنا دیا گیا) اور ایک نے اس کے حق میں بادشاہت کی کرسی چھوڑ دی اور اتابک نے (نائب سلطان) کے منصب کو قبول کر لیا۔

مصر کی طرف فوج کشی: (اس تدبیر کے باوجود) ناصر نے مصر کے حملہ کے ارادہ کو برقرار رکھا۔ اس نے ایوبی خاندان کے بادشاہوں کو بلوایا چنانچہ اس کے پاس مندرجہ ذیل ایوبی حکام آئے:

(۱) موسیٰ اشرف حاکم حمص (۲) اسماعیل بن صالح بن عادل حاکم بعلبک (۳) معظم توران شاہ بن صلاح الدین (۴) اس کا بھائی ناصر الدین (۵) داؤد ناصر حاکم الکراک کا نرزند امجد حسن (۶) اس کا دوسرا فرزند ظاہر شادی۔ ناصر دمشق سے ۵۴۸ھ میں (مصر کی طرف) روانہ ہوا۔ اس کی اگلی فوج کا سردار اس کا نائب لؤلؤ ارمنی تھا۔

مصر و شام کا مقابلہ: جب یہ خبر مصر پہنچی تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ اس موقع پر انہوں نے عباسی خلافت اور خلیفہ مستعصم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا اور اشرف موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کی اور اپنی فوجیں تیار کر کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ ان کی اگلی فوجوں کا سپہ سالار اقطائی جامدار تھا۔ اس فوج میں تمام بحر یہ جماعت شامل تھی۔ ان کے پیچھے ایک (باقی ماندہ) فوجوں کی قیادت کر رہا تھا۔ عباسیہ کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں مصری فوجوں کو شکست ہوئی اور اہل شام نے ان کا تعاقب کیا مگر المعز ثابت قدم رہا اور جنگ کی چکی اس کے گرد گھومنے لگی۔

امراء شام کا فرار: اسی عرصے میں ناصر کے بہت سے جنگی افسر (محاذ سے) بھاگ گئے۔ ان میں عزیز یہ فوج کے امراء شامل تھے جن کے نام یہ ہیں (۱) جمال الدین لایدعمون (۲) شمس الدین اتسر الیرمی (۳) شمس الدین اتسر حسامی۔

ناصر کو شکست: یہ لوگ لؤلؤ ارمنی کی قیادت سے ناراض ہو کر بھاگ گئے تھے اب معرکہ میں لؤلؤ تن تہارہ گیا۔ لہذا المعز نے ناصر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف زبردست حملہ کیا جس میں انہیں شکست ہوئی اور ان کا لشکر منتشر ہو گیا جب لؤلؤ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ایوبی خاندان کے امراء کو قید کر دیا۔

جب ایک جنگ سے فارغ ہو کر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ناصر کی فوجیں عباسیہ میں موجود ہیں اور وہ یہ سمجھ رہی

تھیں کہ وہ غالب ہو رہے ہیں (تاہم وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ) وہ بلیس کی طرف مڑ گیا اور پھر وہ قلعہ چلا گیا۔ جب شام کے لشکر کو معلوم ہوا کہ انہیں شکست ہو گئی ہے تو وہ لوٹ گئے اور ناصر کے پاس دمشق آ گئے۔

گرفتاری اور قتل: جب ایک قاہرہ پہنچا تو اس نے ابوبی خاندان کے افراد کو قلعہ میں مقید رکھا۔ پھر اس نے ان میں سے اسماعیل صالح اور اس کے وزیر ابن یغموک کو قتل کر دیا جو اس سے پہلے وہاں مقید تھے۔

دوبارہ حملہ اور صلح: جب ناصر دمشق پہنچا تو اس نے اپنی فوجوں کی خامیوں کو دور کیا اور جلدی سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ۶۵۰ھ میں غزہ کے مقام پر پہنچا اور مصر کی فوجیں بھی اس کا مقابلہ کرنے کیلئے نکلیں۔ فریقین نے کچھ عرصے تک توقف کیا پھر غلیفہ مستصم باللہ کا قاصد نجم الدین بادرانی پہنچ گیا اور اس نے فریقین کے درمیان اس طرح صلح کرا دی کہ بیت المقدس اور ساحل شام تائب تک المعز کے قبضے میں رہے گا اور دریائے اردن ان دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحد کا کام دے گا۔

جب ان شرائط پر مصالحت ہو گئی تو ہر ایک اپنے وطن چلا گیا اور المعز نے ان امرائے بنو ایوب کو چھوڑ دیا جو اس نے جنگ میں قید کر دیئے تھے۔

بالائی مصر میں بغاوت: جب ملک صالح فرنگیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھا تو مصر کے بالائی حصہ (صعید) میں عربوں نے بہت فساد برپا کیا۔ وہ شریف خضر الدین جعفری کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے، جو جعفر بن ابوطالب کی اُن اولاد میں سے تھا جو مدینہ میں ان کے پچازاد بھائیوں کے غلبہ کے بعد حجاز سے گزر کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ بالائی مصر کے تمام عرب بدوؤں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا تھا اس لئے ان کی بغاوت برقرار رہی۔

جب ملک صالح فوت ہو گیا اور مصر میں ترک خود مختار ہو گئے تو ابھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ بنو ایوب کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔

بغاوت کی سرکوبی: جب المعز ایک ناصر کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو گیا اور اس کے ساتھ مصالحت ہو گئی تو اس نے ان (عربوں) کے مقابلہ کے لئے فارس الدین اقطائی اور عز الدین ایک اقرم کو جو بحریہ جماعت کا سردار تھا روانہ کیا لہذا وہ (فوج لے کر) وہاں پہنچے اور اُفیم کے علاقے میں ان سے جنگ کر کے انہیں شکست دی۔ (ان کا سپہ سالار) شریف بیچ نکلا۔ اس کے بعد گرفتار ہو کر مارا گیا۔ لہذا (اس بغاوت کو دور کرنے کے بعد) یہ فوجیں قاہرہ واپس آ گئیں۔

اقطائی جامدار کا قتل: اقطائی جامدار بحریہ جماعت کا امیر اور ان کی عظیم شخصیت تھا۔ اس کا لقب فارس الدین تھا اور وہ سلطنت مصر میں معز ایک کا ہم پلہ اور اس کا نائب تھا۔ وہ بحریہ جماعت کے ساتھ بہت لطف و عنایت سے پیش آتا تھا تا کہ وہ اس سے مانوس ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ایک سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت مقبول اور طاقتور ہو گیا۔ اس نے معز ایک سے اسکندریہ کا علاقہ حاصل کر لیا اور اس کے بیت المال میں حسب منشاء تصرف کرنے لگا۔ اس نے فخر الدین محمد بن ناصر کو حماة کے حاکم مظفر کے پاس بھیجا تا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح

اس سے کر دیا۔

اقتضائی جامدار نے اس کے بعد داد و دہش کے لئے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ یوں اس کے طرفداروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جس سے معز ایک کو بہت خطرہ لاحق ہوا۔

آخر کار ایک نے اقتضائی جامدار کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا چنانچہ اس نے ۶۵۲ھ میں اسے اپنے محل میں مشورہ کے لئے بلوایا۔ اس سے پیشتر اس نے اس کی گزرگاہ پر ستونوں والے ہال میں اپنے تین موالی کو چھپا دیا تھا۔ ان کے نام یہ تھے: قطر، بہاول، سخر۔ جب وہ ان کے پاس سے ہو کر گزرا تو انہوں نے اس پر حملہ کیا اور لپک کر تلواروں کے وار سے اسی وقت اس کو قتل کر دیا۔

بحریہ جماعت کو جب اس کی خبر ملی تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور قلعہ کا چکر لگایا۔ اس نے اس کا سر (قلعہ کے باہر) ان کی طرف پھینک دیا تو وہ منتشر ہو گئے۔

بحریہ کا فرار: بحریہ کی جماعت کے امراء کو خطرہ لاحق ہوا تو مندرجہ ذیل امراء اکٹھے ہوئے (۱) رکن الدین بھرس بند قداری (۲) سیف الدین قلدان صالحی (۳) سیف الدین سنقر الاشرق (۴) بدر الدین بنرشمی (۵) سیف الدین بلبان رشیدی (۶) سیف الدین سنکر (۷) اس کا بھائی سیف الدین موافق۔ یہ لوگ بحریہ جماعت کے ساتھ شام چلے گئے اور جو لوگ نہیں جاسکے تھے وہ چھپ گئے تاہم ان کا مال، دولت اور ذخیرے سب ضبط کر لئے گئے اور اقتضائی نے (اسکندر یہ کے) بیت المال سے جو لیا تھا وہ لوٹ لیا گیا اور اسکندر یہ کی سرحد کا علاقہ (جو اقتضائی کو دیا گیا تھا) سلطان کی عملداری میں شامل ہو گیا۔

اب سلطان المعز ایک مصر کے انتظام سلطنت کے لئے تھا خود مختار حکمران ہو گیا۔ اس نے موسیٰ اشرف کو بھی معزول کیا اور اس کے نام کا خطبہ (مساجد میں) بند کر دیا بلکہ اب اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس نے ملک صالح کی بیوی شجرۃ الدر سے بھی نکاح کر لیا جو اس سے پہلے ملکہ مصر مقرر کی گئی تھی۔ اس نے علاؤ الدین ایدغدی عزیزی اور جماعت عزیزیہ کو اپنا مددگار کیا اور علاء الدین کو دیماط کا علاقہ جاگیر کے طور پر دیا۔

بحریہ کی جماعت دمشق میں: جب بحریہ اور اس کے امراء غزہ پہنچے تو انہوں نے ناصر سے خط و کتابت کر کے اس سے وہاں آنے کی اجازت طلب کی اور پھر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ناصر نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے اس کو مصر پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا چنانچہ ناصر نے ان کی تجویز منظور کر لی اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان معز ایک نے ناصر کو ان کے بارے میں تحریر کیا، مگر ناصر نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔

فریقین میں مصالحت: انہوں نے اس سے بیت المقدس اور ساحلی شہروں کا مطالبہ کیا تو ناصر نے یہ علاقے انہیں دے دیئے۔ پھر ناصر غور کی طرف روانہ ہوا اور عباسیہ کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں پہنچ کر فریقین نے کچھ عرصے تک توقف کیا پھر انہوں نے مصالحت کر لی اور ۶۵۳ھ میں ہر ایک اپنے وطن لوٹ گیا۔

علاء الدین کی گرفتاری: اب سلطان ایک نے خلیفہ عباسی مستعصم کے پاس اپنا قاصد بھیج کر اظہارِ اطاعت کیا اور

حصہ صمیر (خلیفہ سے) علم اور تقرر نامہ طلب کیا جب وہ قاصد مصر واپس آیا تو اس نے علاء الدین ایدغدی کو گرفتار کر لیا۔ کیونکہ اس کا معاملہ مشتبہ تھا۔ پھر اس نے دمیاط (جو اس نے اسے دے دیا تھا) سرکاری عملداری میں شامل کیا علاء الدین اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

عزالدین افرم کی خود مختاری: عزالدین ایک افرم صالحی قوس و انجم اور ان سے متعلقہ علاقوں کا حاکم تھا۔ اس کی طاقت بڑھ گئی تھی اور اس نے خود مختار ہونے کا ارادہ کیا۔ سلطان معز اسے معزول کرنا چاہتا تھا مگر ایسا نہ کر سکا۔ پھر اس نے ایک خوارزمی شخص کو اس کی امداد کے لئے بھیجا۔

اس کے بعد عزالدین صمیری نے اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسے مصر بلوایا۔ کچھ عرصے تک وہ اس کے پاس رہا پھر اس کو اقطائی کے ساتھ مصر کے بالائی حصے کی طرف (عربوں کی بغاوت دور کرنے کے لئے) بھیجا گیا۔ چنانچہ وہ شریف ابو ثعلب اور عرب (کے باغیوں) کو لے کر آیا۔ اقطائی نے آکر اپنا عہدہ سنبھال لیا مگر سلطان معز ایک افرم کو کہا کہ وہ مصر کے بالائی حصے کا انتظام کرنے کے لئے وہاں مقیم رہے۔ صمیری اس کی خدمت میں رہے گا۔

علائیہ بغاوت: جب افرم وہاں تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ معز نے اقطائی پر ظلم کر کے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی بحریہ جماعت کے ساتھی شام کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ تو (یہ خبر سن کر) وہ بہت پریشان ہوا اور کھلم کھلا باغی ہو گیا۔ اس نے شریف ابو ثعلب کو بلوایا اور اپنے ساتھ ملا لیا اور ہزمت سے عرب بدوؤں کو اکٹھا کر کے فتنہ و فساد برپا کرنے لگا۔

شکست اور فرار: سلطان معز ایک نے ۶۵۳ھ میں شمس الدین برلی کو فوج دے کر بھیجا جس نے ان باغیوں کو شکست دی۔ شریف کو قید کر لیا گیا اور وہ قید خانے میں بند رہا یہاں تک کہ سلطان ظاہر نے اسے قتل کرا دیا۔ مگر افرم اپنی موالی کی جماعت کے ساتھ بیچ نکلا اور وہ نخلستان کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے شام جانے کا ارادہ کیا مگر وہ مصر کے بالائی حصے کی طرف قبیلہ جزام کے بدوؤں کے ساتھ جو سولیس اور کوہ طور کے علاقے سے گزر رہے تھے مصر کے بالائی حصے کی طرف لوٹ گیا وہاں سے اس کے موالی مصر کی طرف لوٹ گئے۔

افرم کی گرفتاری: جب افرم غزہ پہنچا تو اس کی ملاقات ناصر سے ہو گئی۔ اس نے اسے دمشق آنے کی اجازت دے دی چنانچہ وہ دمشق پہنچ گیا۔ ناصر نے اسے خلعت عطا کیا اور پانچ ہزار دینار دیئے۔ وہ دمشق ہی میں مقیم رہا مگر جب بحریہ کی جماعت الکرک سے مصر بھاگ گئی تو اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ناصر اسے گرفتار نہ کر لے۔ اس لئے اس نے مصر میں اتا بک قطز کو خط لکھ کر اجازت طلب کی اور اس کے پاس پہنچ گیا، شروع میں اس نے اس کا استقبال کیا مگر بعد ازاں اسے گرفتار کر کے اسکندریہ میں مقید کر دیا۔

صمیری کا فرار: افرم کے بعد صمیری مصر کے بالائی حصے میں مقیم رہا۔ جہاں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا آخر کار اس نے بھی خود مختار ہونا چاہا، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لئے وہ بھی ۶۵۴ھ میں بھاگ کر ناصر کے پاس چلا گیا۔

سلطان معز ایک کا قتل: جب سلطان معز ایک کی سلطنت میں توسیع و ترقی ہوئی اور اس کا نظم و نسق درست ہوا اور اس

تاریخ ابن خلدون نے دشمنوں کو اپنے علاقے سے نکال دیا تو اس نے ارادہ کیا کہ حاکم حماة منصور اور حاکم موصل لؤلؤ سے تعلقات استوار کر لے تاکہ ان دونوں علاقوں پر بھی وہ غالب آسکے۔ لہذا اس نے اس مقصد کے لئے ان دونوں بادشاہوں کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کیا۔ اس خبر سے اس کی بیوی شجرۃ الدر کے دل میں حسد اور غیرت کے جذبات پیدا ہوئے اور اس نے خواجہ سراؤں (خصیوں) کی ایک جماعت کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، جن میں محسن الخرزوی اور خصی العزیزی جیسے سخر خادمان بھی کتے تھے (شامل) تھے۔ چنانچہ انہوں نے محل کے ایک حمام میں رات کے وقت اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ۶۵۵ھ کا میں رونما ہوا جب کہ اس کی مدت حکومت تین سال تھی۔

علی جو جری کا قتل: اس کے موالی کو آدھی رات کے وقت اس کے قتل کی خبر معلوم ہوئی تو وہ سیف الدین قطز، سخر غتمی اور بہادر کے ساتھ شاہی محل پہنچے۔ محل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے علی الجوجری کو گرفتار کر کے قتل کر دیا مگر سخر عزیزی شام کی طرف بھاگ گیا۔ انہوں نے ملکہ شجرۃ الدر کو بھی قتل کرنا چاہا تھا مگر موالی صالحیہ نے اسے بچالیا اور اسے قید کر دیا۔

علی منصور کی تخت نشینی: انہوں نے معز ایک کے فرزند علی کو تخت نشین کیا اور اس کا لقب منصور رکھا۔ اس کا نائب (اتابک) علم الدین سخر علی تھا، مگر سلطان معز کے موالی نے مل کر علم الدین کو معزول کر کے اسے مقید کر دیا اور اس کے بجائے اقطائی المعری الصالحی کو جو عزیز کا موالی تھا، سلطان کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ یہ (تقرر) ۶۵۶ھ میں ہوا۔

شرف الدین کا قتل: منصور کی والدہ نے اسے صاحب شرف الدین غازی کے خلاف بھڑکایا کیونکہ وہ معز کا بہت راز دان تھا۔ لہذا اس نے اس کو قتل کر دیا۔

زہیر بن علی کی وفات: اسی سال زہیر بن علی المہلبی فوت ہوا جو ملک صالح کا مرسلہ نگار تھا اور الککرک کے قید خانے میں بھی اسی کے ساتھ رہا تھا اور پھر وہ اس کے ساتھ مصر چلا گیا تھا۔

بحریہ کا ناصر سے مقابلہ: یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بحریہ جماعت بھاگ کر ناصر کے پاس چلی گئی تھی اور پھر اسے لے کر مصر گئے تھے۔ اس کے بعد سلطان ایک عباسیہ کے مقام پر پہنچا اور فریقین میں صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو ناصر دمشق چلا گیا اور بحریہ جماعت اپنے قلعہ کی طرف واپس چلی گئی، مگر وہ اس مصالحت سے خوش نہ تھی۔ اس لئے ناصر کان پر سے اعتماد جاتا رہا اور اس نے انہیں الگ کر دیا، اس لئے وہ غزہ اور نابلس چلے گئے اور حاکم الککرک کے پاس اپنی اطاعت اور وفاداری کا پیغام بھیجا (یہ خبر سن کر) ناصر نے اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ وہ ان پر حملہ کریں۔ جب (وہ وہاں پہنچیں تو) انہوں نے ان فوجوں کو شکست دے دی۔

اس کے بعد ناصر بذات خود فوج لے کر پہنچا تو انہوں نے اس کی فوج کو شکست دے کر بقاء تک اس کا تعاقب کیا اور پھر وہ الککرک پہنچ گئے۔ (یہاں آ کر) انہوں نے مغیث کو مصر پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا اور اس سے امداد طلب کی۔ اس نے اپنا لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔

بحریہ کی شکست: بحریہ کے مندرجہ ذیل سردار فوج لے کر مصر پہنچے (۱) بھیرس بندقداری (۲) قلاذون صالحی (۳) بلیان رشیدی۔ (ان کے مقابلہ کے لئے) امیر سیف الدین قطز مصر کی فوجوں کو لے کر صالحیہ کے مقام پر پہنچا اور انہیں شکست دی۔ اس میں بلغاراشرف مارا گیا اور قلاذون صالحی گرفتار ہوا۔ اس کے ساتھ بلیان رشیدی بھی گرفتار ہوا۔

چند دنوں کے بعد قلاذون رہا ہوا اور اسے استاذ الدار کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا مگر وہ پوشیدہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مغیث کو دوبارہ (جنگ کے لئے) آمادہ کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر ۶۱۵ھ میں مصر پہنچا اور صالحیہ میں مقیم ہوا۔ اس کے پاس عزالدین ردی۔ کافوری اور ہواشتر آئے۔ یہ وہ امرائے مصر تھے جن سے وہ خط و کتابت کرتا تھا۔ اب امیر سیف الدین قطز مصر کی فوجوں کو لے کر مقابلہ کے لئے آیا اور فریقین میں جنگ ہوئی۔ مغیث کو شکست ہوئی اور وہ شکست خوردہ فوج کو لے کر الکرک بھاگ آیا۔

گردوں کے ساتھ اتحاد: بحریہ جماعت غور بھاگ گئی وہاں انہیں گردوں کے قبیلے طے جو تاتاریوں سے ڈر کر شہر زور کے پہاڑوں سے بھاگ کر وہاں پہنچے تھے۔ یہ جماعت ان کے ساتھ مل گئی اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر کے ان سے گھل مل گئے۔ ان کے ان اختلاط سے ناصر کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس لئے اس نے دمشق سے ان پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں بھیجیں۔

ناصر کی شکست: غور کے مقام پر ان کا مقابلہ ہوا تو اسکی فوجیں ہار گئیں۔ دوبارہ وہ خود جنگی تیاری کر کے وہاں پہنچا تو بحریہ جماعت نے مقابلہ سے گریز کیا اور یہ لوگ منتشر ہو گئے (یہ الت دیکھ کر) کرد قبائل مصر روانہ ہو گئے۔ راستے میں عریش کے مقام پر ترکان قوم نے ان کی مزاحمت کی تو وہ ان کا مقابلہ کر کے ہرے مصر پہنچ گئے۔

بھیرس اور قلاذون کافرار: بحریہ جماعت مغیث کی فوجوں کے ساتھ الکرک پہنچ گئیں۔ اس نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر ناصر نے دمشق سے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ بحریہ جماعت کو اس کے سپرد کر دے۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ انہیں قتل کر دے گا۔ اس لئے وہ (بحریہ کے سردار) گھبرا گئے۔ چنانچہ بھیرس اور قلاذون جنگل اور صحرا میں گھس گئے اور وہاں رہنے لگے۔ پھر وہ مصر پہنچ گئے جہاں اتابک قطز نے ان کا استقبال کیا اور انہیں جاگیریں دیں اور وہ اس کے پاس رہنے لگے۔

بحریہ کے امراء کی گرفتاری: جب بھیرس اور قلاذون مغیث کے پاس سے بھاگ گئے تو مغیث نے باقی ماندہ بحریہ کے امراء کو گرفتار کر لیا ان میں سنقر اشقر، شکر اور برانق شامل تھے۔ اس نے انہیں ناصر کے پاس بھیج دیا۔ ناصر نے انہیں قلعہ حلب میں قید کر دیا۔ جب تاتاری اس قلعہ پر قابض ہوئے تھے ہلاکوخاں انہیں اپنے ملک لے گیا۔

ہلاکوخاں کی یلغار: (مذکورہ بالا واقعات کے بعد) ہلاکوخاں نے بغداد پر فوج کشی کر کے اسے فتح کر لیا اس کے بعد وہ فرات تک پہنچا اور اس نے میاقارقین اور اربل کو بھی فتح کر لیا۔ حاکم موصل لولو اس کے پاس گیا اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی۔ ناصر کے فرزند نے اپنے والد کی طرف سے تحائف دے کر ایک قاصد بھیجا تا کہ دوستانہ تعلقات کا اظہار ہو اس نے ناصر کی طرف سے یہ معذرت بھی پیش کی کہ وہ بذات خود اس کی خدمت میں اس لئے حاضر نہیں ہو سکا کہ اسے سواصل شام پر

(صلیبی) فرنگیوں کے حملے کا خطرہ ہے۔

سلطان قطر کی حکومت: (یہ حالات دیکھ کر) امرائے مصر کو بھی اپنے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کے خیال میں ان کا بادشاہ منصور علی بن المعز ایک اس قدر نو عمر تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا اور اسے فوجی قیادت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ سیف الدین قطر المعری کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ وہ اپنی دلیری اور پیش قدمی کے لئے بہت مشہور تھا۔ لہذا انہوں نے اسے مصر کے تخت پر ۶۵۶ھ میں بٹھایا اور اس کا لقب مظفر رکھا۔ انہوں نے منصور کو معزول کر دیا جس نے صرف دو سال تک حکومت کی۔ امرائے مصر نے اسے اور اس کے دونوں بھائیوں کو دمیاط کے مقام پر قید کر دیا۔ اس کے بعد سلطان ظاہر نے ان دونوں کو قسطنطنیہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔

(سلطان قطر کو بادشاہ بنانے کے) یہ سب انتظامات صالحیہ، عزیز یہ اور سلطان قطر سے متعلقہ معز یہ گروہ نے انجام دیئے۔ اس موقع پر (دوسر دار) بہادر اور سنجر غمی غائب تھے جب وہ دونوں آئے تو سلطان قطر کو ان دونوں کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوا اور اس نے ان کی مخالفت اور مزاحمت کا اندیشہ پیدا ہوا، اس لئے اس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے انہیں مقید کر دیا پھر اس نے سلطنت کا انتظام درس اور مستحکم کر لیا۔

سلطان قطر شاہان خوارزمیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خوارزم شاہ کا بھانجا تھا اور اس کا نام محمود بن مودود تھا۔ ان پر جب تاریخوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا، اس کے بعد اسے فروخت کر دیا گیا تھا اور ابن الزعیم نے اسے خرید لیا تھا۔ یہ واقعہ نووی نے مؤرخین کی ایک جماعت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

ہلاکو خاں کی پیش قدمی: ہلاکو خاں نے ۶۵۶ھ میں دریائے فرات کو عبور کیا (اس کی آمد کی خبر سن کر) ناصر اور اس کے بھائی الظاہر بھاگ کر جنگل اور بیابانوں میں گھس گئے، حاکم حماة منصور اور بحر یہ یہ جماعت جو عرب قبائل کے ساتھ بیابانوں میں مقیم تھی مصر چلی گئی۔

شام کی فتوحات: ہلاکو خاں نے وہاں پہنچ کر ایک ایک کر کے شام کے شہروں کو فتح کر لیا اور ان شہروں کی فضیلتیں گروا کر وہاں اپنے حکام مقرر کئے اس نے حلب میں بحر یہ جماعت کے قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں سنقر الاشقر اور بدائق شامل تھے اس نے ان سے کام لیا اور پھر وہ عراق کی طرف لوٹ گیا۔ کیونکہ اس کے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے ایک بڑے حاکم کتبغا کو علاقہ شام کا نائب حاکم مقرر کیا اور اس کے ماتحت بارہ ہزار فوج چھوڑی۔ حمص کے حاکم اشرف ابراہیم بن شیر کوہ نے بھی اس سے ملاقات کی۔

غلط مشورہ: ہلاکو خاں نے (جب ناصر اس کے پاس آیا) تو اس سے اہل مصر کے مقابلے میں شام کی فوجی تیاریوں کے بارے میں مشورہ کیا تو ناصر نے اہل مصر کی اہمیت گھٹا کر بیان کی اور انہیں حقیر ظاہر کیا۔ لہذا اس نے اس (مشورہ) کے مطابق کتبغا اور اس کے ساتھیوں کو جنگی تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔

قلعہ دمشق کی تسخیر: جب ہلاکو خاں وہاں سے رخصت ہوا تو کتبغا نے قلعہ دمشق کی طرف فوج کشی کی وہ ابھی تک فتح

نہیں ہو سکا تھا لہذا اس نے اس کا محاصرہ کر کے اسے بزور شمشیر فتح کر لیا اور اس کے نائب حاکم بدر الدین بربک کو قتل کر دیا۔

شامی حکام کی اطاعت: اس کے بعد وہ دمشق کی چراگاہ میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے پاس حاکم صرخدناصر کا بھائی الظاہر آیا (اور اطاعت قبول کی تو) اس نے اسے اپنی عملداری کی طرف لوٹا دیا۔ حاکم الکوک مغیث نے اپنے فرزند عزیز کی قیادت میں ایک وفد اظہار اطاعت کے لئے بھیجا۔ اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اسے بھی اپنے والد کے پاس لوٹا دیا۔

اہل مصر کی تیاری: ادھر مصر میں وہاں کی فوجیں اکٹھی ہونے لگیں اور سلطان مظفر قنطر نے عربوں اور ترکمانوں کو فوج میں بھرتی کیا اور انہیں بخشش سے مالا مال کیا اور ان کی خامیاں اور کمزوریاں دور کیں۔

سلطان مصر کی فوج کشی: اب کتبغا (حاکم شام) نے سلطان مظفر قنطر کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اہل مصر کو سلطان ہلا کو خان کا مطیع اور فرمانبردار بنائے سلطان مصر نے قاصدوں کی گردنیں اڑا دیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج لے کر شام روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حاکم حماة منصور اور اس کا بھائی افضل بھی تھے۔

غداروں کی شرکت: ادھر (نائب حاکم شام) کتبغا تاتاری فوجوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اشرف حاکم حمص اور سعید بن عزیز بن عادل حاکم ضمیمہ بھی (مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ) تھے۔ سلطان قنطر نے ان دونوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ دونوں اس کی حمایت کریں۔ اشرف (حاکم حمص) نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جنگ کے روز بھاگ کر اس کے پاس چلا آئے گا۔ مگر سعید ابن العزیز نے اس کے قاصد کو برا جواب دیا، لہذا اس پر حملہ بھی کیا۔

عین جالوت کا معرکہ

تاتاریوں کی شکست: فریقین میں غور کے قریب عین جالوت کے مقام پر جنگ ہوئی اشرف گھسان کی جنگ کے موقع پر (مسلمانوں کے پاس) چلا گیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کو شکست ہوئی اور ان کا سپہ سالار کتبغا عین میدان جنگ میں مارا گیا۔

قتل اور تعاقب: (جنگ کے بعد) سعید بن عزیز حاکم ضمیمہ کو جب گرفتار کر کے (سلطان کے پاس) لایا گیا تو سلطان نے اسے زہر توخ کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ عزیز بن مغیث (حاکم الکوک) کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس جنگ میں وہ شخص (ظاہر بیہر س؟) بھی گرفتار ہوا جو بعد میں مصر کا بادشاہ ہوا۔ عادل بیہر س نے ترک فوج کے ساتھ شکست خوردہ فوجوں کا تعاقب کیا اور انہیں چن چن کر قتل کیا۔ وہ (تعاقب کرتے ہوئے) حمص تک پہنچ گیا تھا وہاں کتبغا کے لئے تاتاریوں کی امدادی فوج آئی ہوئی تھی۔ اس نے ان سب کی بیخ کنی کی۔

قدیم حکام کی بحالی: حاکم حمص اشرف تاتاری لشکر سے اس کے پاس واپس آیا (اور اظہار اطاعت کیا تو) اسے اس کے شہر کا حاکم برقرار رکھا گیا۔ منصور کو بھی اس کے شہر حماة کا حاکم بحال کر کے بھیجا گیا۔ اس نے معرکہ کا علاقہ بھی اسے لوٹا دیا۔

البتہ اس سے سلمیہ کا علاقہ لے کر عربوں کے ایک حاکم بھصا بن مانع بن جدیلہ کو دے دیا۔

نئے حکام کا تقرر: بعد ازاں (سلطان) دمشق پہنچا وہاں جو تاتاری تھے وہ سب بھاگ گئے۔ ان میں سے جو وہاں رہ گئے تھے وہ مارے گئے۔ اب سلطان نے مختلف شہروں میں فوجیں متعین کیں۔ پھر دمشق پر علم الدین شجر علی صالحی کو مقرر کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو علی بن ابیہ اور نجم الدین ابوالہیجاہ ابن شہر بن کردی کا اتا بک تھا۔

حاکم حلب: سلطان نے حلب پر سعید کو حاکم مقرر کیا، اسے مظفر علاء الدین بن لولو (حاکم موصل) بھی کہا جاتا ہے وہ ناصر کے پاس پہنچا تھا جب کہ وہ تاتاریوں کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ جب ناصر (دوبارہ شام) آیا تو وہ مصر چلا گیا تھا جہاں سلطان قطر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر ناصر نے اسے حلب کا حاکم بنا دیا تھا تاکہ وہ اس کے بھائی صالح سے جو موصل میں تھا تاتاریوں کے حالات معلوم کرتا رہے۔

برلی کا تقرر: سلطان نے نابلس، غزہ اور سواحل شام پر شمس الدین دانشیر برلی کو حاکم مقرر کیا۔ یہ عزیز محمد کے امراء میں سے تھا جو ناصر کا باپ تھا یہ شخص ناصر کے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ جب اس نے عزیز یہ کی جماعت کے ساتھ مصر پر فوج کشی کی تھی۔ اور یہ اتا بک کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر اسے ان پر شک و شبہ ہوا تھا اور اس نے بعض لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ برلی باقی لوگوں کے ساتھ ناصر کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اس کو قلعہ حلب میں مقید کر دیا تھا یہاں تک کہ اسے تاتاریوں نے فتح کیا۔ برلی اس کے بعد فوجوں کے ساتھ مصر چلا گیا جہاں سلطان مظفر نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر اس نے اسے سواحل شام اور غزہ کا حاکم مقرر کیا۔

سلطان مظفر قطر دمشق میں بیس دن رہا اس کے بعد مصر چلا گیا۔

ہلا کو خاں کو جب شام میں اس کی شکست کا حال معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ ترک (سلاطین) شام پر قابض ہو گئے ہیں تو اس نے (سابق) حاکم دمشق (ناصر) پر یہ الزام لگایا کہ اس نے مشورہ دینے میں اسے دھوکا دیا ہے بعد ازاں اس نے اسے (ناصر کو) قتل کر دیا۔

اس کے بعد شام کے تمام علاقے سے ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقہ پر مصر کے ترکی سلاطین کا قبضہ ہو گیا۔

سلطان مظفر قطر کا قتل: جب بحریہ جماعت کا سردار اقطائی جامدار مارا گیا تھا اس وقت سے بحریہ جماعت اس کا انتقام لینے کے درپے تھی۔ چونکہ سلطان قطر نے اسے قتل کرایا تھا اس لئے وہ اس جماعت کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مگر جب

وہ تاتاریوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا تو ہر ایک نے اپنے ذاتی اختلافات بھلا دیئے تھے چنانچہ بحریہ جماعت کے ممتاز سردار جو حاکم الکرک سے بھاگ کر بیابانوں میں چلے گئے تھے وہ بھی سلطان کے پاس چلے آئے۔ اس نے ان کی جان بخشی کی۔ کیونکہ اسے اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ان جیسے افراد کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس لئے اس نے انہیں اپنے لشکر اسلام میں شامل کر لیا اور بحریہ جماعت تاتاریوں کے خلاف عین جالوت کے معرکے میں شریک ہوئی اور اس (فیصلہ کن) جنگ میں زبردست کارنامے انجام دیئے اور مندرجہ ذیل (بحریہ جماعت کے) سرداروں نے آگے بڑھ کر جنگ میں حصہ لیا

(۱) بھرس بندقداری (۲) انزا صفہانی (۳) بلبان رشیدی (۴) بکتون جو کنداری (۵) بند و نماز ترکی۔

جذبہ انتقام: جب شام میں تاتاریوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے شام کو فتح کر لیا اور (فتنہ و فساد کا) یہ سیلاب دور ہوا تو خوف زدہ (مسلمانوں) کو چین نصیب ہوا اور اس وقت بحریہ جماعت کا جذبہ انتقام بھی زندہ ہو گیا۔

جب سلطان قطر ۶۵۸ھ میں دمشق سے (مصر کی طرف) روانہ ہوا تو بحریہ کے سرداروں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ راستے میں اس پر حملہ کریں گے۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچا تو وہ ایک دن شکار کے لئے (جنگ کی طرف) گیا۔ سواروں کا باقی قافلہ (مقررہ) راستے پر چلتا رہا (اس موقع پر) بحریہ کے سرداروں نے اس کا تعاقب کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے کسی ساتھی کی سفارش کی۔ اس نے اس کی سفارش قبول کی۔ جب وہ دست بوسی کے لئے جھکا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فوراً سمیرس نے تلوار سے حملہ کیا اور وہ ہاتھوں اور منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت دوسرے لوگوں نے تیروں سے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ پھر وہ جلدی سے سمیرس کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں علی ابن المعز ایک کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا:

”تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟“ انہوں نے کہا ”سمیرس نے“۔ لہذا اس نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی فوجیوں نے اس کی پیروی کی اور انہوں نے اس کا لقب النظار رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایدمر علی کو یہ خبر پہنچانے کے لئے مصر کے قلعہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر کے وہاں لوگوں سے (سمیرس کی بادشاہت کی) بیعت حاصل کی۔

باب : دوم

طاہر بھیرس کی تخت نشینی

سلطان الظاہر اسی سال کی پندرہویں ذوالقعدہ کو (قاہرہ) پہنچا اور بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مختلف طبقات کے لحاظ سے ان پر نائب مقرر کئے اور تمام مملکت میں (اس قسم کی ہدایات) لکھ بھیجیں۔ اس نے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور حکام کا تقرر کیا۔ سلطان تاج الدین عبدالوہاب ابن بنت الاعز کو قاضی کے عہدہ کے ساتھ ساتھ وزیر بھی مقرر کیا۔ اور اپنے استاد صالح نجم الدین کی ہدایت پر عمل کیا۔

ترقی کا آغاز: سلطان ظاہر بھیرس کی ترقی کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہ ملک صالح کے مولیٰ علاء الدین ایبکن کامولی (غلام) تھا۔ جب ملک صالح علاء الدین پر ناراض ہوا تھا تو اس نے اسے قید کر دیا تھا اور اس نے اس کی تمام مال و دولت اور موالیٰ و غلام سب چھین لئے تھے انہی میں بھیرس بھی تھا۔ اس نے اسے جاہداریہ میں مقرر کر دیا جہاں اس کا مرتبہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اسے جنگی محکمہ میں مقرر کیا گیا اور سواروں کا افسر بنا دیا گیا۔ ملک صالح کے بعد بھیرس نے ترقی کی۔ اس کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حاکم دمشق کی بغاوت: جب علم الدین سنجر کو (جو دمشق کا حاکم تھا) سلطان قطر کے قتل کی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ ظاہر بھیرس حاکم ہو گیا ہے تو اس نے علم بغاوت بلند کیا وہ خود بادشاہ بن بیٹھا اور دمشق میں تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا لقب مجاہد رکھا اور اپنے نام کا خطبہ مساجد میں پڑھوایا بلکہ اپنے نام کا سکہ بھی تیار کرایا۔

حماة کے حاکم منصور نے سلطان ظاہر کی حمایت کی۔ اس کے بعد جب تاتاری فوجیں شام کی طرف روانہ ہوئیں اور المیرہ کے قریب پہنچیں تو سعید بن لؤلؤ نے حلب کا لشکر ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ تاتاریوں نے اس لشکر کو شکست دی اور ان کا کام تمام کر دیا۔

امراء عزیزیہ اور ناصریہ نے اس کا الزام ابن لؤلؤ پر لگا کر اسے مقید کر دیا۔ انہوں نے اپنا حاکم حسام الدین جو کنڈاری کو مقرر کیا جس کی تائید سلطان ظاہر نے بھی کی۔

تاتاریوں کے حملے: پھر تاتاریوں نے حلب پر فوج کشی کر کے اسے فتح کر لیا۔ حسام الدین حماة کی طرف بھاگ گیا۔ پھر تاتاریوں نے حماة پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کا حاکم منصور اور اس کا بھائی علی افضل حمص چلے گئے۔ وہاں اشرف بن شیرکوہ حاکم تھا اس کے پاس عزیزیہ اور ناصریہ کے گروہ اکٹھے ہو گئے تھے انہوں نے ۶۵۹ھ میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا اور پہلے شکست کھانے کے بعد انہیں شکست دی اور حماة کی مدافعت کی۔

منصور اور حمص کے حاکم اشرف سنجر علی کے پاس دمشق گئے مگر انہوں نے اس کی اطاعت قبول نہیں کی، کیونکہ وہ کمزور تھا۔ تاتاری فوج حماة سے اقامیہ پہنچیں۔ انہوں نے ایک دن اس کا محاصرہ کیا اور پھر دریائے فرات کو عبور کر کے اپنے وطن واپس چلے گئے۔

بغاوت کا انسداد: سلطان بیہر س ظاہر حاکم مصر نے اپنے استاذ علاء الدین بندقداری کو فوج دے کر حاکم دمشق سنجر علی سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو جنگ میں اسے شکست ہوئی اور اس نے قلعہ دمشق میں جا کر پناہ لی، پھر وہاں سے رات کے وقت نکل کر وہ بعلبک کی طرف روانہ ہوا۔ مگر اس کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اسے سلطان ظاہر کے پاس بھیج دیا گیا، اس نے اسے قید کر دیا اور ایدکن کو دمشق میں برقرار رکھا۔ اس کے بعد حمص اور حماة کے دونوں حکام اپنے اپنے شہر لوٹ گئے۔

برلی کی بغاوت: سلطان ظاہر نے ایدکن کو پیغام بھیجا کہ وہ عزیز یہ گروہ کے بہاء الدین بقری اور شمس الدین اقوس البرلی وغیرہ کو گرفتار کر لے چنانچہ اس نے بقری کو گرفتار کر لیا، مگر عزیز یہ اور ناصر یہ کے افراد اقوس البرلی کے ساتھ بھاگ گئے انہوں نے حمص اور حماة کے دونوں حکام کو بھی بغاوت پر آمادہ کیا۔ مگر ان دونوں نے ان کی حمایت نہیں کی (پھر وہ حلب پہنچا جہاں فخر الدین حمصی موجود تھا) برلی نے فخر الدین سے کہا ”ہم سلطان ظاہر کے مطیع ہونا چاہتے ہیں“۔ چنانچہ وہ اسے سلطان کے پاس لے جا رہا تھا کہ اچانک برلی حلب کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں اس نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس نے عربوں اور ترکمانوں کو اکٹھا کر کے انہیں جنگ کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ مصری فرجین جنگ کرنے کے لئے آئیں اور اسے شکست دی لہذا وہ المیرہ پہنچ گیا اور اس مقام پر قابض ہو گیا اور وہاں رہنے لگا۔

جب سلطان ظاہر نے اپنی فوجیں ۶۶۰ھ میں سفر رومی کی قیادت میں حلب کی طرف روانہ کیں تو اس کے ساتھ حمص اور حماة کے دونوں حکام انطاکیہ پر حملہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ روانہ ہوئے اس عرصے میں برلی نے ان سے ملاقات کر کے ان سے اطاعت کا اقرار کیا۔ لہذا سلطان ظاہر نے اسے المیرہ کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وہ اس سے بدگمان ہو گیا تو اسے قید کر دیا۔

سلطان نے علاء الدین ایدکن کو بھی مقید کر دیا اور بیہر س وزیر کو دمشق کا حاکم بنا کر مصر واپس آ گیا۔

مصر میں تجدید خلافت: جب بغداد میں خلیفہ عبداللہ مستعصم شہید ہوئے تو تمام اسلامی ممالک میں خلافت کا عہدہ خالی رہا۔ سلطان ظاہر اسلامی خلافت کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ۶۵۹ھ میں اتفاق سے خلیفہ مستعصم کا بیٹا مصر پہنچا، اس کا پورا نام ابو العباس احمد بن النظار تھا۔ وہ بغداد کے شاہی محلوں میں رہتا تھا اور بیعت کے دن وہ بغداد سے بھاگ گیا تھا اور اس وقت کے مختلف قبائل میں قیام کرتا ہوا وہ مصر پہنچا تھا۔ سلطان النظار اس کی آمد سے بہت خوش ہوا اور وہ خود سوار ہو کر (شہر کے باہر) اس سے ملاقات کے لئے پہنچا اور مسلمانوں کے مختلف طبقتوں کو قلعہ کے شاہی دروازوں پر (اس کا استقبال کرنے کے لئے) بلوایا۔ پھر ادب و احترام کے طور پر تنہا محفل میں اس سے ملاقات کی اور قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے عباسی خاندان سے ان کے صحیح النسب ہونے کے سلسلے میں ان عربوں سے شہادتیں طلب کیں جو وہاں موجود تھے

اور محل خلافت کے سابق خادموں سے بھی اس کی تصدیق حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے (ان کے صحیح النسب ہونے اور جائز وارث ہونے کا) فیصلہ دیا۔

مستنصر کی خلافت: اس کے بعد سلطان الظاہر اور عام مسلمانوں نے حسب مراتب ان کے ہاتھ پر بیعت (خلافت) کی۔ پھر سلطان نے سلطنت کے مختلف حصوں میں (لوگوں کو) لکھا کہ (نئے خلیفہ کے لئے) بیعت حاصل کی جائے اور (مساجد کے) منبروں پر ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور سکنوں پر بھی ان کا نام نقش کیا جائے۔ ان کا لقب مستنصر رکھا گیا۔ خلیفہ نے مجمع عام میں حکومت کا انتظام سلطان ظاہر کو سپرد کر دیئے کا اعلان کیا اور اس مقصد کے لئے ایک تحریری فرمان بھی تحریر کیا گیا جسے فخر الدین بن لقمان نے تحریر کیا جو خط و کتابت کے میرثی تھے۔

فتح بغداد کا ارادہ: اس کے بعد سلطان اور تمام مسلمان سوار ہو کر ایک ایسے خیمے کی طرف گئے جو شہر کے باہر نصب کیا گیا تھا۔ (وہاں پہنچ کر) سلطان نے اپنے خواص اور منصب داروں کو خلعت عطا کئے اور اعلان کیا کہ وہ خلیفہ کو اپنے دار الخلافہ میں واپس پہنچانے میں ان کی مکمل امداد کرے گا۔

رقت انگیز خطبہ: پھر اس (نئے) خلیفہ نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا اور منبر پر نہایت ہی رقت انگیز تقریر کی جس سے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے۔ پھر اس نے نماز پڑھائی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

بنو لؤلؤ کا حال: اس کے بعد صالح اسماعیل بن زکریا حاکم موصل اور اس کا بھائی اسحاق حاکم الجزیرہ بھی (مصر) پہنچے۔ ان کے والد لؤلؤ ہلاکو کے ماتحت ہو گئے تھے۔ چنانچہ ہلاکو نے انہیں موصل اور اس کے متصل علاقوں کی حکومت پر برقرار رکھا۔ لؤلؤ ۶۵ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا فرزند اسماعیل موصل کا حاکم مقرر ہو گیا تھا اور اسماعیل مجاہد جزیرہ ابن عمر کا حاکم ہو گیا تھا اور دوسرا فرزند سعید سنجار کا حاکم تھا۔ سلطان ہلاکو نے انہیں اپنے علاقوں پر برقرار رکھا تھا مگر سعید حاکم دمشق ناصر کے ساتھ مل گیا تھا اور اس کے ساتھ مصر چلا گیا تھا۔ پھر وہ سلطان قطر کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس نے اسے حلب کا حاکم مقرر کیا تھا اور پھر اسے مقید کر دیا تھا۔

اقتدار کی بحالی: اس کے بعد ہلاکو کو ان دونوں بھائیوں پر شک و شبہ ہوا تو وہ دونوں بھائی بھاگ کر مصر پہنچ گئے۔ سلطان ظاہر نے ان کی تعظیم و تکریم کی پھر انہوں نے اپنے قیدی بھائی کو چھوڑنے کی درخواست کی تو سلطان نے اسے قید سے رہا کر دیا اور ان کے علاقوں پر ان کی حکومت کے بارے میں تحریری حکم لکھا اور انہیں (حکومت کے) جھنڈے عطا کئے۔

اب سلطان نے خلیفہ کو اپنے دار الخلافہ پہنچانے کے انتظامات شروع کر دیئے۔ اس نے اس مقصد کے لئے فوجیں تیار کیں اور خیمے اور شامیانے نصب کرائے اور ان سب کے لئے وظائف مقرر کئے ان کی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان نے اس مقصد کے لئے دس لاکھ دینار صرف کئے۔

پھر سلطان اسی سال مصر سے ماہ شوال میں دمشق سے روانہ ہوا تاکہ وہاں سے خلیفہ کو اپنے دار الخلافہ بھجوائے اور لؤلؤ کے دونوں فرزندوں کو ان کے علاقوں کی طرف روانہ کرے جب سلطان دمشق پہنچا تو اس نے قلعہ میں قیام کیا اور بلبان رشیدی اور شمس الدین سنقر کو دریائے فرات کی طرف بھیجا۔ چنانچہ خلیفہ نے (بغداد پہنچنے) کا پختہ ارادہ کر لیا اور وہاں سے

رخصت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صالح اسماعیل اور اس کے دونوں بھائی بھی موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔

خلیفہ کی شہادت: جب ہلاکو کو یہ اطلاع ملی تو اس نے خلیفہ کے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجیں اور نماز و خدیقہ کے مقام پر اسے شکست دی خلیفہ نے تھوڑی دیر صبر و استقلال سے کام لیا اور پھر جام شہادت نوش کر لیا۔

فتح موصل: ہلاکو نے موصل کی طرف بھی فوجیں بھیجیں جنہوں نے موصل کا نو مہینے تک محاصرہ کیا۔ آخر کار اہل موصل محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ تاتاریوں نے موصل کو فتح کر کے صالح اسماعیل کو قتل کر دیا۔ اس عرصے میں سلطان ظاہر دمشق میں مقیم تھا۔

ایوبی حکام کی اطاعت: (جب سلطان دمشق میں مقیم تھا تو) اس کے پاس شام کے مختلف علاقوں سے بنو ایوب کے افراد آئے اور انہوں نے اطاعت اور فرماں برداری کا اظہار کیا۔ ان میں منصور حاکم حماة اور اشرف حاکم حمص بھی شامل تھے۔ سلطان نے ان دونوں کا استقبال کیا اور انہیں ان کے علاقوں پر دوبارہ حاکم مقرر کیا اور ان دونوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی حکومت کا دائرہ بلاد اسماعیلیہ تک وسیع کر سکتے ہیں اور منصور تل باشر کا قلعہ بھی حاصل کر سکتا ہے جو اسے حمص کے بدلے میں ملا تھا جب کہ یہ علاقہ حاکم حلب ناصر نے اس سے چھین لیا تھا۔

ایوبی خاندان کی تعظیم و تکریم: سلطان ظاہر کے پاس مندرجہ ذیل (ایوبی) امراء بھی آئے (۱) الزاہد اسد الدین شیر کوہ (سابق) حاکم حمص (۲) حاکم بعلبک (۳) صالح اسماعیل بن عادل کے فرزند منصور (۴) ان کے بھائی سعید (۵) امجد بن ناصر و اواد (۶) ظاہر بن معظم۔

سلطان ظاہر نے دمشق میں ان کے وفد کی تعظیم و تکریم کی اور ان کی اطاعت کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی تنخواہیں اور وظائف مقرر کئے۔

سلطان جب مصر جانے لگا تو اس نے مغیث کے فرزند عزیز کو رها کر دیا جسے سلطان قطز نے الکرک کی جنگ میں قید کر دیا تھا۔

عرب قبائل پر بخشش: سلطان نے شام کے عرب قبائل پر عیسیٰ بن مہنا کو سردار مقرر کیا جو ان کا خاص آدمی تھا۔ اس نے ان (عربوں) کو بکثرت جاگیریں عطا کیں تاکہ وہ عراق کی سرحد تک راستوں کی حفاظت کریں۔

احمد کی خلافت: جب سلطان مصر واپس آیا تو بغداد کے خلیفہ مسترشد کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام احمد تھا۔ اس کے پاس آیا۔ پہلے خلیفہ کی طرح قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز نے اس کے صحیح النسب ہونے کی تصدیق کی۔ لہذا سلطان ظاہر نے لوگوں کو حسب مراتب بلوایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی نئے خلیفہ نے بھی سلطنت کے تمام اختیارات سلطان کے سپرد کر دیئے اور اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گیا۔ یہ بیعت (خلافت) ۶۶۰ھ میں ہوئی۔ اس خلیفہ کا نسب نامہ عباسیوں کے شجرہ نسب میں یوں ہے

”احمد بن ابی بکر علی بن ابی بکر بن احمد بن امام المسترشد“

مصر کے ماہرین انساب کے نزدیک اس طرح ہے:

”احمد بن حسین بن ابی بکر بن الامیر ابی علی القتیبی بن الامیر حسن بن الامام الراشد بن الامام المسترشد“۔ چنانچہ

حاکم حماة (ابوالفداء) نے اپنی تاریخ میں شجرہ اسی طرح بیان کیا ہے۔

فرنگیوں کی مصالحت: جب تاتاری شام میں گھس آئے تو تمام ترکمانی قبائل ساحل شام کی طرف بھاگ گئے تھے اور ان کے قبیلے صغد کے قریب جوکان کے مقام پر اکٹھے ہو گئے تھے۔

جب سلطان ظاہر نے شام کی طرف فوج کشی کی تو یاقا بیروت اور صغد سے فرنگیوں کے ایلچی آئے۔ وہ سلطان صلاح الدین کے زمانے کی طرح صلح کے خواہاں تھے لہذا ان سے صلح کر لی گئی اور مملکت فرانس کے بادشاہ کے نام یہ صلح نامہ لکھا گیا جو سمندر پار تھا۔ یوں معاہدہ کی رو سے یہ فرنگی سلطان ظاہر کی حفاظت میں آگئے تھے۔

ترکمانوں کا فرار: اس اثناء میں صغد کے فرنگیوں اور ترکمانی قبائل کی درمیان جھڑپ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اہل صغد نے پہلے ان ترکمانی قبائل پر حملہ کیا تھا۔ پھر ان ترکمانوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے متعدد افسروں کو گرفتار کر لیا اور زرفد یہ وصول کر کے انہیں چھوڑا تھا پھر وہ سلطان ظاہر کے ڈر سے بلا دروم کی طرف کوچ کر گئے اور شام کا علاقہ ان سے خالی ہو گیا۔

عزیز یہ اور اشرفیہ کی اہمیت: عزیز یہ اور اشرفیہ کے گروہ ترک غلاموں کے سب سے بڑی طاقتور جماعت تھی۔ اشرفیہ گروہ کا سردار بہاء الدین بقری تھا اور عزیز یہ گروہ کا سردار شمس الدین اقوش تھا۔ سلطان مظفر قطز نے اسے نابلس، غزہ اور سواحل شام کی حکومت عطا کی تھی۔ جب سلطان ظاہر بادشاہ ہوا تو دمشق کے حاکم شجر اعلیٰ نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ لہذا اس نے اپنے استاد علاء الدین بندقداری کو فوج دے کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔

ان گروہوں کی بغاوت: اشرفیہ اور عزیز یہ کے گروہ حلب میں تھے۔ انہوں نے بھی وہاں کے نائب سعید بن لؤلؤ کے خلاف بغاوت کر دی تھی اس لئے بندقداری ان کی درخواست پر اس کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ پھر سلطان ظاہر نے برلی کے مقبوضات میں بیسان کا اضافہ کیا۔ وہ گیا اور اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔

البیرہ پر قبضہ: پھر سلطان ظاہر نے بندقداری کو ہدایت کی کہ وہ عزیز یہ اور اشرفیہ کے گروہوں کو گرفتار کر لے۔ مگر وہ صرف اشرفیہ کے سردار بقری کو گرفتار کر سکا باقی لوگ بھاگ گئے اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا بلکہ شرف الدین برلی نے البیرہ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں اس نے محاذ بنا کر ان تاتاریوں پر حملے کرنے شروع کئے جو فرات کے مشرقی کنارے پر تھے۔ اس نے انہیں کافی نقصان پہنچایا۔

بغاوت اور اطاعت: سلطان ظاہر نے اس کے خلاف فوجیں جمال الدین یا موحوی کی سرکردگی میں بھیجیں۔ اس نے انہیں شکست دی۔ اس کے بعد سلطان ظاہر سختی اور نرمی دونوں طریقوں سے برلی کو اپنا جامی بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ اطاعت کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اس نے آنے کی اجازت مانگی۔ لہذا البکباس فخری اس سے ملاقات کرنے کے لئے روانہ ہوا اور وہ ۶۶۱ھ میں دمشق میں اس سے ملا۔ پھر اس نے سلطان سے ملاقات کی۔ سلطان نے اسے بخشش سے مالا مال کر دیا

اور اس کے ساتھیوں کو بھی حسب مراتب عطیات دیئے اور اسے اپنا مشیر اور مصاحب بنایا۔ اس کے بعد اسے ہدایت کی کہ وہ المیرہ کے علاقہ سے دست بردار ہو جائے چنانچہ اس نے یہ علاقہ سلطان ظاہر کے حوالے کر دیا اور سلطان نے اس کے معاوضہ میں دوسرا علاقہ دیا۔

مغیث پر فوج کشی: سلطان ظاہر جب ۶۶۰ھ میں شام سے واپس جا رہا تھا تو اس نے بدر الدین ایدمری کی قیادت میں ایک لشکر شوبک کی طرف بھیجا، جس نے شوبک کو فتح کر لیا۔ سلطان نے اس کا حاکم بدر الدین بلیان خصی کو مقرر کیا اور پھر وہ مصر کی طرف واپس چلا گیا۔

اس وقت الکرک میں اس کے حاکم مغیث کے پاس گردوں کا ایک گروہ تاجاریوں کے حملوں سے شہر زور سے بھاگ کر آ گیا تھا۔ اس نے ان گردوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور انہیں شوبک اور اس کے گرد و نواح کے مقامات پر حملہ کرنے کے لئے بھیج رکھا تھا۔ لہذا سلطان ظاہر نے مغیث کی سرکوبی کے لئے الکرک فوجیں بھیجیں۔ اس نے اظہار اطاعت کیا اور گردوں کے لئے پناہ طلب کی۔ لہذا سلطان نے ان کی اطاعت قبول کر کے گردوں کو پناہ دے دی اور وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔

مغیث کا قتل: پھر سلطان نے ۶۶۱ھ میں الکرک کی طرف فوج کشی کی۔ اس نے مصر پر اپنا نائب سخر علی کو بنایا اور غزہ پر بھی اپنا نائب مقرر کیا وہاں سلطان سے مغیث کی دلدلہ نے ملاقات کی اور اس سے اپنے فرزند کے لئے رحم اور جاں بخشی کی درخواست کی اور اس کی ملاقات کے لئے اجازت طلب کی۔ سلطان نے اس کی باتیں مان لیں اور بیسان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد مغیث ملاقات کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو سلطان نے اسے گرفتار کر لیا اور اسی وقت اقسقر فارقانی کے ساتھ اسے قاصرہ روانہ کر دیا جہاں کچھ عرصے کے بعد اسے قتل کر دیا۔

الکرک پر قبضہ: سلطان نے الکرک پر عز الدین ایدمر کو حاکم مقرر کیا (اس سے پہلے) اس نے نوری الدین بیسری کو وہاں بھیجا تاکہ وہ الکرک کے باشندوں کے لئے امن و امان کا اعلان کرے اور وہاں کا نظم و نسق درست کرے۔ سلطان خود طور کے علاقے میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب بیسری نے وہاں کا انتظام درست کر لیا تو وہ اس کے پاس لوٹ آیا۔ سلطان وہاں سے بیت المقدس پہنچا اور مسجد کی تعمیر کا حکم دے کر مصر روانہ ہو گیا۔

سلطنت حمص کا خاتمہ: (یہاں آ کر) سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ حمص کا حاکم موسیٰ الاشراف بن ابراہیم فوت ہو گیا ہے۔ جو اسد الدین شیر کوہ اعظم کی اولاد میں سے تھا۔ یہ سلطنت اسے اپنے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملی تھی یہ علاقہ نور الدین عادل زنگی نے اس کے جد امجد اسد الدین شیر کوہ کو عطا کیا تھا اور اس وقت سے اس کی اولاد اس پر حکومت کرتی رہی۔ البتہ ۶۴۶ھ میں ناصر یوسف حاکم حلب نے یہ علاقہ اس سے چھین کر اس کے بدلے میں تل باشر کا علاقہ دے دیا تھا مگر ہلاکونے (فتح کرنے کے بعد) یہ علاقہ حمص اسے لوٹا دیا تھا۔ سلطان ظاہر نے بھی اس کی حکومت بحال رکھی اور جب وہ ۶۶۱ھ میں فوت ہو گیا تو یہ علاقہ سلطان ظاہر کی عملداری میں شامل ہو گیا اور اس علاقے سے بھی ایوبی خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

تاتاریوں کی شکست: ۶۶۳ھ میں تاتاریوں کی فوجیں ایک مغل سپہ سالار کی قیادت میں المیرہ پر حملہ آور ہوئیں اور اس

حصہ نمبر
کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے مجانبق (قلعہ شکن آلات) بھی نصب کر دیے تھے (یہ حالت دیکھ کر) سلطان ظاہر نے ایک ترک جرنیل کی سرکردگی میں جس کا نام لوغان تھا (ان کے مقابلے کے لئے) فوجیں روانہ کیں۔ چنانچہ وہ اسی سال کے موسم بہار میں روانہ ہوئیں۔ ان کے پیچھے سلطان بھی (فوجیں لے کر) روانہ ہوا اور غزہ پہنچ گیا۔ جب وہ فوجیں البیرہ پہنچیں اس وقت دشمن اس کا محاصرہ کر رہا تھا۔ سلطانی فوجوں کے مقابلے میں تاتاریوں کا لشکر بھاگ گیا اور اسے شکست ہوئی۔ یہ اچانک سب سزا و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جسے (سلطانی) لشکر نے لوٹ لیا تھا۔

فتح قیساریہ و حیفاف: اس وقت سلطان نے غزہ سے کوچ کیا اور قیساریہ کا قصد کیا۔ جو فرنگیوں کے قبضہ میں تھا۔ سلطان وہاں اسی سال کے دس جمادی الاول کو پہنچا اور وہاں کے باشندوں کو جنگ کی دعوت دے کر شہر پر مجانبق نصب کرادیں پھر وہ شہر کے اندر گھس گیا تو وہاں کے لوگ بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہوئے اس نے قلعہ کا پانچ دن تک محاصرہ کیا، پھر قلعہ کو بھی بزور شمشیر فتح کر لیا اور فرنگی وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر سلطان ایک معمولی لشکر لے کر گردونواح کے علاقے پر غارت گری کرنے لگا اور ایک لشکر حیفاف کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے اسے بھی فتح کر لیا اور شہر حیفاف اور اس کے قلعے کو ایک دن کے اندر تباہ و برباد کر دیا گیا۔

فتح ارسوف: سلطان نے پھر ارسوف پر فوج کشی کی اور کیم جمادی الآخر کو اس پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ وہاں جو فرنگی فوجیں مقیم تھیں انہیں گرفتار کر کے الکرک کی طرف بھیج دیا۔ اس کی فیصلوں کا کام (مرمت کرنے کے لئے) اس نے اپنے امراء میں بانٹ دیا اور انہوں نے ان کی مرمت اور درستی کی۔

مفتوحہ علاقوں کی تقسیم: سلطان نے ان جنگوں میں جو دیباہاں جاگیریں اور اراضی حاصل کی تھیں وہ سب اپنے ان امراء میں تقسیم کر دیں جو اس کے ساتھ تھے۔ ایسے امراء کی تعداد باون تھی۔ اس بارے میں سلطان نے ایک تحریری حکم بھی صادر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مصر لوٹ گیا۔

ہلاکو کی موت: اسی سال کے موسم بہار میں سلطان کو تاتاریوں کے بادشاہ ہلاکو کی موت کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا فرزند ابغا اس کے بجائے بادشاہ ہوا ہے اور اس کے شمالی علاقہ کے حاکم سلطان برکہ کے درمیان خانہ جنگی ہو رہی ہے۔

انسداد فتنہ و فساد: سلطان نے مصر پہنچتے ہی شمس الدین سنقر رومی کو گرفتار کر کے اسے مقید کر لیا۔ اس کی فوج کشی سے پہلے عیسیٰ بن مہنا کے درمیان فتنہ و فساد ہو رہا تھا اور اس کے بعد زائل ہلاکو کے پاس پہنچ گیا بعد ازاں اس نے سلطان ظاہر سے پناہ کی درخواست کی۔ چنانچہ سلطان نے اسے پناہ دے دی اور وہ اپنے قبائل کے پاس لوٹ آیا۔

جنگ طرابلس و صعد: طرابلس (شام) فرنگیوں کے قبضے میں تھا وہاں کا حاکم سمند بن البرنس اشتر تھا۔ انطاکیہ پر بھی اس کی حکومت تھی سلطان ظاہر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہے۔ چنانچہ سلطان کے نائب علم الدین سبخر باشقر نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان میں سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس لئے سلطان نے خود جہاد کرنے کی تیاری کی اور مصر سے ماہ شعبان ۶۶۳ھ میں فوج لے کر روانہ ہوا۔ (اس لئے سلطان نے خود جہاد

کرنے) کی تیاری کی اور مصر سے ماہ شعبان ۶۱۳ھ میں فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے فرزند سعید علی کو قلعہ میں عزالدین ایدمرحلی کی نگرانی میں چھوڑا۔ سلطان نے اپنے فرزند سعید کو ۶۱۲ھ میں اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔

جب سلطان غزہ پہنچا تو اس نے سیف الدین قلاؤن کی قیادت میں وہاں سے فوجیں بھیجیں اس نے طرابلس کے قلعوں اور قلعہ حلب و عراق پر حملہ کیا۔ آخر کار وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور فوجوں نے کوچ کیا۔

فتح صغد: سلطان نے خود صغد کی طرف فوج کشی کی اور اس کا دس دن تک محاصرہ کیا۔ پھر اسی سال کی ۲۰ رمضان المبارک کو اس کے اندر گھس کر حملہ کیا اور وہاں جو فرنگی موجود تھے انہیں جمع کیا اور پھر ان سب کا صفایا کر دیا اور وہاں محافظ فوجیں مقرر کیں اور ان کے لئے سرکاری رجسٹر میں باقاعدہ تنخواہیں مقرر کیں۔ پھر وہ دمشق لوٹ آیا۔

ارمینہ کے حالات

اس قوم کا نسب نامہ یہ ارمنی باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کی نسل سے ہیں۔ وہ تو میل بن ناہور کی اولاد سے ہیں اور ناہور تاریخ کا فرزند ہے جنہیں قرآن کریم میں آذر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ناہور حضرت ابراہیم کے بھائی تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرج قوم ارمینیوں کے بھائی ہیں۔ ارمینہ کا علاقہ انہی ارمن قوم کی طرف منسوب ہے۔ ان کا آخری علاقہ وہ درے اور راستے ہیں جو حلب کے علاقہ کے قریب ہیں۔ اس کا مرکزی مقام سیس ہے اور ان کے بادشاہ کا لقب نکلور ہے۔

شاہ ارمن سے تعلقات: ملک کامل اور صلاح الدین کے زمانے میں ان دروں اور راستوں کا حاکم انہی کا بادشاہ تھا جس کا نام قلیج بن ایون تھا۔ سلطان عادل نے اس سے امداد طلب کی تھی اور اس کے لئے جاگیر مقرر کی تھی اور وہ اس کے ساتھ فوج کشی میں شامل ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کے ساتھ مصالحت کر رکھی تھی۔

شاہ ارمن کی شکست: ہلاکو اور تاتاریوں کے زمانے میں ان کا بادشاہ بیٹوم بن قسطنطین تھا۔ غالباً وہ قلیج کی اولاد میں سے تھا یا اس کا رشتہ دار تھا۔ جب ہلاکو نے عراق اور شام کو فتح کر لیا تو بیٹوم نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس لئے اس نے اس کی سلطنت برقرار رکھی۔ پھر اس نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ شام کے شہروں پر حملہ کرے۔ بلا دروم کے حاکم نے بھی اسے امداد دی اور وہ ۶۱۲ھ میں عرب کے قبیلہ بنو کلاب کو لے کر فوج کشی کے لئے روانہ ہوا اور یہ سب لوگ سیس پہنچ گئے۔ لہذا سلطان ظاہر نے حماة و حمص کی فوجوں کو تیار کر کے ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ یہ لشکر انہیں شکست دے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔

سیس پر حملہ: جب سلطان ۶۱۳ھ میں طرابلس کی جنگ سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس نے سیس اور ارمن شہروں پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں بھیجیں۔ اس کے سپہ سالار سیف الدین قلاؤن اور حاکم حماة منصور تھے۔ چنانچہ وہ فوج لے کر روانہ ہو گئے۔

ارمنوں کی تباہی: ارمنوں کا بادشاہ بیٹوم بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے اپنے فرزند کیقوس کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ خود راہب بن گیا تھا چنانچہ کیقوس نے ارمنوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا

بھائی اور چچا بھی تھے۔ مسلمانوں نے ان پر سخت حملہ کیا اور ان کے بہت سے افراد قتل کر دیئے گئے اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ کا بھائی اور چچا بھی مارے گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے ان کے شہروں کا صفایا کر دیا اور سیس کے شہر میں گھس کر اسے تباہ کر دیا۔ انہوں نے بہت سامان غنیمت اور جنگی قیدی حاصل کر لئے تھے۔ اس لئے جب وہ لوٹ کر پہنچے تو سلطان ظاہر نے قارا کے مقام پر ان کا استقبال کیا اور ان کے پاس بے شمار مال غنیمت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔

خانہ بدوش قبائل کا صفایا: وہاں کی رعایا نے سلطان سے یہ شکایت کی کہ خانہ بدوش گزرنے والے قبائل ان پر بہت مظالم کرتے ہیں اور وہ عکا کے فرنگیوں سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں اسے وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ اس پر سلطان نے حکم دیا کہ ان قبائل کا صفایا کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان فوجیوں نے انہیں قتل کر دیا اور باقی جو بچے انہیں گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا۔

شاہ ارمن کی گرفتاری: پھر سلطان ظاہر مصر آیا اور اس نے کیتومن شاہ ارمن کو رہا کر دیا اور اس سے اس کے شہر کے بارے میں مصالحت کر لی، مگر وہ سلطان کے پاس ہی رہا۔ آخر کار اس کا زرفد یہ بھیجا گیا اور اس کے بدلے میں بہت مال و دولت اور قلعے دینے کی پیشکش کی گئی۔ مگر سلطان ظاہر نے انہیں لینے سے انکار کیا اور یہ شرط رکھی کہ ان مسلم امراء کو رہا کیا جائے جنہیں ہلاکو خلب کے قید خانے سے نکال کر لے گیا تھا۔ ان میں سنقر اشقر اور اس کے ساتھی شامل تھے۔ لہذا تکفور نے ہلاکو کو ان کی (رہائی) کے بارے میں پیغام بھیجا تو ہلاکو نے انہیں بھیج دیا۔

ارمینہ کے قلعوں کی تسخیر: اس کے بعد سلطان ظاہر نے اپنے فرزند کو بھیجا کہ وہ شوال کی پندرہویں تاریخ کو ان قلعوں پر قبضہ کر لے جو زرفد یہ کے طور پر دیئے گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑے اور مستحکم قلعے مرزبان اور رعبان کے قلعے تھے۔

اشقر کی آمد: (اتنے میں) سنقر اشقر (اچانک) سلطان ظاہر کی خدمت میں دمشق پہنچ گیا اور اس کے جلوس میں شریک ہو گیا (اس سے پیشتر) اس کی آمد کسی کو علم نہیں ہو سکا تھا۔ سلطان نے اس کا جوت اعزاز و اکرام کیا اور اس کے منصب کو بلند کر کے ترقی دی اور اس کی گزشتہ خدمات کا لحاظ رکھا۔

پشوم کی موت: پشوم (شاہ ارمن) ۶۶۰ھ میں فوت ہو گیا تھا۔

تجدید جامع ازہر: جب سلطان طرابلس کی جنگ سے (فارغ ہو کر) مصر لوٹا تو اس نے جامع ازہر کی از سر نو تعمیر کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ وہاں خطبہ جمعہ پڑھا جائے۔ یہ جامع ازہر ایک سو سال سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب (فاطمی) شیعوں نے قاہرہ کا شہر بسایا تو ان کی یہ پہلی مسجد تھی جو انہوں نے تعمیر کرائی تھی۔

فرنگیوں کے خلاف جہاد: (اتنے میں) سلطان کوتاتاریوں (کے حملے) کی خبر ملی تو وہ دمشق روانہ ہوا، مگر یہ خبر صحیح نہیں نکلی۔ اس لئے وہاں سے وہ صغد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت اس نے ازہر کی تعمیر کا حکم دے دیا تھا۔ اسی زمانے میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شقیف نے سرحدوں پر یلغار کر دی ہے۔ اس لئے وہاں پہنچا اور عکا پر حملے کے اور وہاں کے میدانوں کو روند ڈالا۔ آخر کار فرنگیوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ جس طرح چاہے صلح کر لے۔ سلطان نے یہ شرط

رکھی کہ صیدا کی تقسیم کی جائے یا شقیف کا قلعہ تباہ کر دیا جائے اور جن مسلمان تاجروں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے انہیں رہا کیا جائے اور جن مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے ان کی دیت (خون بہا) ادا کی جائے۔ یہ صلح دس سال کے لئے ہوئی تھی مگر انہوں نے (مذکورہ) شرائط پر عمل نہیں کیا، اس لئے وہ ان کے خلاف جہاد کے لئے روانہ ہوا اور ماہ جمادی الاولیٰ ۶۶۶ھ میں فلسطین پہنچا اور وہاں سے شقیف کا محاصرہ کرنے کے لئے اس نے فوجیں روانہ کیں۔

اس کے بعد یہ خبر ملی کہ یافا کا فرنگی حاکم مر گیا ہے اور اس کے بجائے اس کا فرزند حاکم ہوا ہے چنانچہ اس کے قاصد سلطان کے پاس اس مقصد کے لئے آئے کہ وہ اس کے ساتھ صلح کر لے۔ مگر سلطان نے انہیں قید کر کے صبح سویرے یافا پر حملہ کر دیا اور اس میں گھس گیا۔ شہر والے قلعہ میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ آخر کار سلطان نے ان کو پناہ دی (اور قلعہ کو فتح کر کے) اسے تباہ و برباد کر دیا۔

یافا کی تعمیر: جب فرنگیوں نے ۴۹۳ھ میں سواحل شام اور اس کے شہروں کو فتح کیا تھا تو اس وقت ایک فرنگی بادشاہ صنمل نے یافا کا شہر تعمیر کرایا۔ اس کی عمارتوں کی تکمیل ریدافرنس نے کی جو دمیاط کی جنگ میں گرفتار ہو گیا تھا اور پھر اس نے مصر میں دارا بن لقمان کے قید خانے سے رہائی حاصل کی تھی۔

سلطان پھر قلعہ شقیف کی طرف واپس آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر پناہ دے کر اس کو فتح کر لیا۔ بعد ازاں سلطان نے طرابلس کے گرد و نواح میں فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے ان علاقوں کا صفایا کر دیا اور ان کی بستیوں اور گرجوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

طرسوں کے حاکم نے نہایت عجلت کے ساتھ سلطان کی اطاعت قبول کی اور اس کی فوجوں کے لئے خوراک کا ذخیرہ بھیجا اور اس کے پاس جو تین سو یا اس سے زیادہ (مسلمان) قیدی تھے انہیں رہا کر دیا۔

اس کے بعد سلطان انطاکیہ پر حملہ کرنے کے لئے حمص اور حماة آیا اور اس نے سیف الدین قلاوون کو فوجیں دے کر بھیجا۔ چنانچہ اس نے ماہ شعبان میں انطاکیہ پر حملہ کیا حماة کا حاکم منصور اور بحر یہ کہ وہ جماعت بھی اس حملہ میں شریک ہوئی جو جنگل پہانوں میں عرب قبائل کے ساتھ رہتی تھی۔

انطاکیہ کی تاریخ: اس وقت انطاکیہ کا حاکم سمند بن تیمند تھا۔ اسلام سے پہلے یہ شاہ روم کا مرکزی مقام تھا، اس کی بنیاد یونان کے ایک بادشاہ انطیس نے ڈالی تھی۔ اس کی نسبت سے یہ ”انطاکیہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد یہ شہر رومیوں کے قبضے میں آ گیا (اسلامی فتوحات کے آغاز میں) مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تھا۔ جب فرنگی فوجیں ۴۹۰ھ میں ساحل شام پر پہنچیں تو یہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے پرنس ارنات سے یہ شہر چھین لیا تھا جب کہ سلطان (مذکور) نے اسے جنگِ ہلین میں قتل کر دیا تھا۔ جیسا کہ اس کا حال بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرنگیوں نے پرنس اشتر کی قیادت میں جو میرے خیال میں صنمل ہے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔

جب سلطان ظاہر طرابلس کے مقام کا محاصرہ کر رہا تھا تو شاہ ارمن ینمور کا چچا کنداصطبل وہاں تھا، وہ اس واقعہ کے بعد دارا بند بھاگ گیا تھا اور اب انطاکیہ میں (اس کے حاکم) سمند کے پاس مقیم تھا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر سلطان ظاہر سے جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ کنداصطبل کو اس مقصد کے لئے گرفتار کیا گیا کہ وہ اہل انطاکیہ کو

اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ محاصرہ سے نکل آ گئے تو مسلمان زبردستی شہر میں گھس آئے اور وہاں خوب قتل و غارت کی۔ وہاں کے بچے کچھے لوگوں نے قلعہ میں پناہ لی اور آخر کار پناہ حاصل کر کے وہاں سے نکل گئے۔

سلطان ظاہر نے انطاکیہ کے حاکم کو جو طرابلس میں تھا اس کی اطلاع دی، کندا صطیل اور اس کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں شاہ ارمن بیٹوم کے پاس سیس بھیج دیا گیا۔ اب سلطان نے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے اسے تقسیم کر دیا۔ پھر قلعہ انطاکیہ میں آگ لگا کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ بغراس کے حاکم نے پناہ طلب کی تو اس کے پاس سلطان نے اپنے (استاد الدار) سنقر قارتی کو بھیجا۔ جس نے بغراس پر قبضہ کر لیا۔

عکا کے حاکم نے جو حاکم قبرص کا بھانجا تھا، سلطان ظاہر کو صلح کا پیغام بھیجا۔ لہذا سلطان نے اس سے دس سال کی مدت کے لئے صلح کر لی۔ پھر سلطان مصر چلا گیا۔ وہاں وہ بقرعید کے دوسرے دن پہنچا۔

تاتاریوں سے صلح ۶۶۷ھ میں سلطان نے سواحل شام پر صلیبی فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لئے مصر سے فوج کشی کی۔ اس نے مصر میں عز الدین ایبہر حلی کو اپنے فرزند اور ولی عہد سعید کا مگران مقرر کیا۔ وہ ارسوف کے مقام تک پہنچا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ابغا بن ہلاکو کی طرف سے قاصد بھیجے گئے ہیں کہ وہ شاہ روم نقفور کے پاس پہنچے تھے اس نے انہیں ان کی طرف بھیج دیا۔ سلطان نے حلب کے ایک امیر کو بھیجا کہ وہ ان قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کرے (جب وہ قاصد خط لے کر آئے تو) سلطان نے ابغا (بن ہلاکو) کا خط پڑھا۔ جس میں نقفور کی مصالحانہ کوشش کا ذکر تھا۔ سلطان نے خط کا جواب دے کر قاصدوں کو لوٹا دیا اور اپنے امراء کو مصر جانے کی اجازت دے دی اور خود دمشق لوٹ گیا۔ پھر وہ اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ قلعوں پر حملہ کرنے کے لئے گیا۔

پوشیدہ سفر: اس عرصے میں سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ ایبہر حلی مصر میں فوت ہو گیا ہے لہذا وہ خربتہ الصوص میں خیمہ زن ہوا اور پوشیدہ طور پر بھیس بدل کر وہ ترکمانوں کی تھوڑی سی فوج کے ساتھ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو سرعت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے (مصر جانے) کی یہ خبر اپنے محاذ کی فوج سے پوشیدہ رکھی تھی۔ وہاں اس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ بیماری کی وجہ سے وہ خیمہ کے اندر آرام کرے گا۔ سلطان بدھ کی رات کو مصر کے قلعہ پہنچ گیا۔ قلعہ کے محافظ اسے نہیں پہچان سکے۔ آخر کار (کسی تدبیر سے) وہ داخل ہوا تو اس وقت انہوں نے شناخت کر لیا۔ جمعرات کے دن سلطان میدان میں پہنچا تو لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پھر سلطان نے وہاں جو ضروری کام کرنا تھا وہ پورا کیا اور دو شب کی رات شام کو روانہ ہو گیا۔ وہاں وہ جمعہ کی شب کو ۱۹ شعبان کو اپنے خیمے میں (پوشیدہ طور پر) پہنچ گیا۔ اس کی آمد پر امراء بہت خوش ہوئے۔

بعد ازاں سلطان نے مختلف سمتوں کی طرف فوجیں بھیجیں انہوں نے صوبہ پر حملہ کیا اور ایک مقام پر قبضہ کر لیا۔ وہ کرکو کے میدانوں میں پہنچے۔ اور اس کا صفایا کر دیا۔ یہ فوجیں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کر کے لوٹ آئیں۔

صہیون کے حکام: سلطان صلاح الدین نے جب صہیون کو فتح کیا تھا تو اس وقت ۵۸۴ھ میں ناصر الدین منکمرس کو یہ

مقام دے دیا تھا اور اس کی وفات تک یہ اس کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مظفر الدین عثمان اس کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند سیف الدین عثمان صیہون کا حاکم رہا۔ اس عرصے میں مصر میں ترک خود مختار حاکم بن گئے تو سیف الدین نے اپنے بھائی عماد الدین کو ۶۶۰ھ میں تحفے دے کر سلطان ظاہر بیہس کی خدمت میں بھیجا سلطان نے اس کے تحائف قبول کر لئے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

صیہون پر قبضہ: سیف الدین ۶۶۹ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے (مرنے سے پہلے) اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ صیہون سلطان ظاہر کے حوالے کر دیں چنانچہ اس کے دو فرزند سابق الدین اور نضر الدین سلطان کے پاس مصر آئے۔ سلطان نے ان دونوں کی تعظیم و تکریم کی اور انہیں انعام دیا۔ پھر سلطان نے ایک فرزند سابق الدین کو اپنی طرف سے صیہون کا حاکم مقرر کیا۔ وہ بدستور وہاں حکومت کرتا رہا تا آنکہ جب سفر اشقر نے سلطان منصور کے زمانے میں دمشق میں بغاوت اختیار کی تو اس نے اس وقت صیہون پر بھی قبضہ کر لیا۔

حاکم مکہ معظمہ کا تقرر: سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ ابونبی بن ابوسعید بن قنادہ اپنے چچا ادریس بن قنادہ پر غالب آ گیا ہے اور وہ مکہ معظمہ کا خود مختار حاکم بن گیا ہے مگر اس نے سلطان ظاہر کے نام کا خطبہ (مساجد میں پڑھوانے) کا حکم دیا ہے۔ لہذا سلطان نے اپنی طرف سے اسے مکہ معظمہ کا حاکم مقرر کر دیا۔

سلطان کا حج: سلطان نے ۶۶۷ھ میں حج کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی خامیوں کو دور کیا اور ان کی ضرورتیں پوری کیں اور اپنے استاد الدان قسفر فارقانی کی قیادت میں فوجیں دمشق کی طرف روانہ کیں پھر سلطان نے سیر و شکار کا بہانہ کر کے الکرك کا قصد کیا اور شوبک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے بتاریخ اذوالقعدہ (حج کا) سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد احرام باندھا۔ سلطان بتاریخ ۵ ذوالحجہ مکہ معظمہ پہنچا۔ اس نے خانہ کعبہ کا غسل اپنے ہاتھ سے کرایا اور اس کے لئے پانی اپنے کندھے پر لے کر گیا۔ پھر اس نے تمام مسلمانوں کو اس کے اندر آنے کی اجازت دی۔ سلطان نے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے حج کے باقی مراسم ادا کئے۔

اہل حجاز سے حسن سلوک: سلطان نے شمس الدین مروان کو مکہ معظمہ کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس نے امیر ابونبی اور حاکم بئع و خلیص و دیگر شرفائے حجاز کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے حاکم یمن کو لکھا کہ ”میں مکہ معظمہ میں ہوں اور میں وہاں سترہ قدم میں پہنچ گیا ہوں۔“

مصر کی طرف واپسی: سلطان ماہ ذوالحجہ کی ۱۳ تاریخ کو مکہ معظمہ سے رخصت ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ سال کے آخری دنوں الکرك پہنچ گیا۔ وہ دمشق ۶۶۸ھ میں نئے سال کی پہلی تاریخ کو پہنچا (وہاں سے) جب وہ بیت المقدس کی زیارت کے لئے روانہ ہوا تو اس نے امیر قسفر کی قیادت میں فوجوں کو مصر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جب وہ زیارت سے فارغ ہوا تو وہ تل العجول کے مقام پر اپنی فوجوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اسی سال کی تاریخ ۳ صفر کو (قاہرہ کے) قلعہ میں پہنچ گیا۔

فرنگیوں اور تاتاریوں کا متحدہ حملہ۔ تاتاریوں کا ایک حاکم صمغان، بلاد الروم میں مقیم تھا اور وہاں کا حاکم تھا۔ اس نے فرنگیوں کے ساتھ خط و کتابت کر کے شامی شہروں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ صمغان (اس باہمی سازش کے مطابق) اپنی فوجیں لے کر پہنچ گیا اور اس نے حلب کے گرد و نواح میں عرب قبائل کی بستیوں پر حملہ کیا۔

حملہ کا مقابلہ ۶۶۸ھ میں جب سلطان ظاہر اسکندریہ کے قریب شکار کر رہا تھا تو اسے یہ اطلاع پہنچی وہ اسی وقت روانہ ہو کر غزہ پہنچا۔ پھر وہاں سے دمشق آیا۔ تاتاری فوجیں (اس کی آمد کی خبر سنتے ہی) بھاگ گئیں۔ وہ پھر عکار روانہ ہوا اور اس کے گرد و نواح کا صفایا کر دیا اور قتل عام کیا۔ یہی طریقہ اس نے حصن الاکراذ میں اختیار کیا۔ پھر وہ ماہ رجب کے آخر میں دمشق لوٹ آیا۔ وہاں سے مصر جاتے ہوئے وہ عسقلان کے پاس سے گزرا تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔

فرنگی بادشاہوں کا اجتماع۔ مصر پہنچ کر سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ فرنیس لوئس بن لوئس شاہ انگلستان شاہ سکاٹ لینڈ بادشاہ نودل شاہ برشلونہ، ہور بدر اکون اور فرنگی بادشاہوں کی ایک بڑی جماعت بحری بیڑوں میں صقلیہ (سسیلی) پہنچے ہیں اور انہوں نے جنگی کشتیاں اور سامان جنگ کثرت کے ساتھ تیار کرنا شروع کیا ہے مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ (حملہ کرنے کے لئے) کہاں جا رہے ہیں۔

سرحدوں کی حفاظت۔ (یہ سن کر) سلطان ظاہر نے ملک کی سرحدوں اور ساحلوں کی حفاظت کا خاص انتظام کیا اور اس نے بھی بحری بیڑے اور جنگی کشتیاں بکثرت تیار کرنی شروع کیں۔ پھر صحیح خبر یہ آئی کہ وہ تونس کی طرف جا رہے ہیں چنانچہ ان کا یہ حال ہم تونس کی حنفیہ سلطنت کے حالات میں بیان کریں گے۔

فتح حصن الاکراذ۔ ۶۶۹ھ میں سلطان فرنگیوں کے شہروں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے امیر قلاوون کی نگرانی میں اپنے فرزند سعید کو فوجیں دے کر مرقد کی طرف بھیجا اور بعلبک میں (فوجیں دے کر) خزندار کو روانہ کیا اور خود وہ طرابلس کی طرف (فوج کے ساتھ) روانہ ہوا۔ ان سب فوجیوں نے ان علاقوں کو روند ڈالا اور وہ اسی سال بتاریخ ۱۰ شعبان حصن الاکراذ پہنچے۔ سلطان نے اس کا دس دن تک محاصرہ کیا۔ اس کے بیرونی علاقے تباہ کر دیئے گئے اور فرنگیوں کی طرف اس کے قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ آخر کار وہ ہتھیار ڈال کر اپنے شہروں کی طرف چلے گئے اور سلطان نے ان قلعوں کو فتح کر لیا۔ اس نے صاحب الاسیٹار کو فتح کی اطلاع دی تو اس نے مصالحت کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ طرطوس اور مرقب کے لئے صلح نامہ منظور ہو گیا سلطان نے حصن الاکراذ میں کثیر محافظ فوجوں کے لئے خوراک کا ذخیرہ جمع کر دیا۔

دیگر فتوحات۔ حصن الاکراذ سے روانہ ہو کر سلطان عکانے قلعہ پر حملہ کیا اور اس کا سخت محاصرہ کیا۔ آخر کار وہاں کے باشندوں نے پناہ حاصل کی اور سلطان نے اسے فتح کر لیا۔

عید الفطر کے بعد سلطان طرابلس پہنچا اور وہاں گھمسان کی جنگ کی۔ آخر کار اس کے فرنگی حاکم پرنس نے صلح کی درخواست کی تو سلطان نے اس کے ساتھ دس سال کے لئے صلح کر لی اور دمشق لوٹ آیا۔

بعد ازاں سلطان نے شوال کے آخر میں علیقہ کی طرف فوج کشی کی۔ اس نے اس شرط پر پناہ دے کر قلعہ فتح کیا کہ وہاں کے باشندے مال و دولت اور ہتھیار چھوڑ کر چلے جائیں۔ قبضہ کرنے کے بعد اس نے قلعہ کو گرا دیا اور لجون کی طرف روانہ ہو گیا۔

صور کے حاکم نے بھی اس شرط کے ساتھ مصالحت کی کہ وہ پانچ قلعے سلطان کے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ سلطان نے دس سال کے لئے اس سے مصالحت کی اور ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے نائب مصر کو لکھا کہ وہ دس جنگی کشتیاں تیار کر کے قبرص (کے جزیرہ) کی طرف بھیجے۔ چنانچہ اس نے ایسی کشتیاں تیار کیں اور وہ ایک رات میں قبرص پہنچ گئیں۔

فرقہ اسماعیلیہ کے حالات: فرقہ اسماعیلیہ شام کے چند قلعوں میں رہتا تھا جو انہوں نے فتح کر رکھے تھے۔ وہ قلعے یہ تھے۔ مصیاف علیقہ، الکھف، صبیقہ، قدموس۔

سلطان ظاہر کے زمانے میں ان کا سردار نجم الدین شعرانی تھا۔ سلطان ظاہر نے اسے اپنی طرف سے حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ مگر ایک دفعہ اس نے سلطان سے ملاقات کرنے میں تاخیر کی تو اسے معزول کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے خادم الدین بن الرضا کو اس شرط پر حاکم کیا گیا کہ وہ قلعہ مصیاف سلطان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس کے ساتھ فوجیں بھیجی گئیں (تاکہ وہ اس سے قلعہ حاصل کر لیں) چنانچہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔

جب سلطان ۶۶۸ھ میں حسن الاکراذ پر حملہ کر رہا تھا تو اس موقع پر نجم الدین شعرانی اس کے پاس آیا۔ وہ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا (اس نے گزشتہ غلطیوں کی) معذرت پیش کی جسے سلطان نے قبول کر لیا اور اس پر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے (اسماعیلیوں کے قلعوں کی) حکومت اس کے اور ابن الرضا کے درمیان تقسیم کر دی اور ان دونوں پر ایک لاکھ بیس ہزار درہم سالانہ ٹیکس مقرر کیا جو انہیں ادا کرنا ہوگا۔

اسماعیلی قلعوں کی تسخیر: ۶۶۹ھ میں جب سلطان حسن الاکراذ کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے گزرا تو اس نے اسی سال شوال کی پندرہویں تاریخ کو خادم الدین ابن الرضا کے قبضے سے علیقہ کا قلعہ چھین لیا اور وہاں اپنی محافظ فوجیں مقرر کر دیں۔ وہاں سے وہ البیرہ کے مقام پر تاتاریوں سے جنگ کرنے کے لئے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اسماعیلیوں نے اپنے مقبوضہ قلعے بھی اس کے نائب کے حوالے کر دیئے ہیں اور انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوں اسماعیلیوں کے تمام قلعے سلطان ظاہر کے زیر نگیں آ گئے اور وہاں سے ان کی اسماعیلی تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔

تاتاریوں کو مزید شکست: ۶۷۱ھ میں ابغابن ہلاکون نے اپنے بڑے حاکم اور جرنیل درباری کی قیادت میں البیرہ کی طرف فوجیں روانہ کیں۔ اس نے اس مقام کا محاصرہ کر لیا اور اس پر جانیق نصب کر دیں۔ اس وقت سلطان دمشق میں موجود تھا۔ اس نے مصر و شام سے فوجیں جمع کیں اور دریائے فرات کی طرف فوج کشی کی۔ اس نے آخری حد تک فوجوں کو تیار کر رکھا تھا۔ اب امیر قلاؤن فوج لے کر آگے بڑھا اور تاتاریوں کے خیموں تک پہنچ کر ان سے جنگ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری شکست کھا گئے اور ان کا سپہ سالار مارا گیا۔ سلطان نے اپنی فوجوں سمیت دریائے فرات کو عبور کیا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ چنانچہ وہ خیموں اور ان کے اندر کے تمام ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ البیرہ کے لوگوں نے نکل کر ان کا تمام ساز و

سامان لوٹ لیا اور انکے محاصرہ کے تمام آلات کو جلا ڈالا۔ سلطان نے اس علاقے میں تھوڑی دیر قیام کیا اور وہاں کے نائب حاکم کو خلعت عطا کیا۔^۱

(تاتاری فوج کا سپہ سالار) درباری شکست کھا کر اپنے بادشاہ البغا کے پاس پہنچا تو بادشاہ اس پر بہت ناراض ہوا اور اس نے اس کی کوئی معذرت قبول نہیں کی۔

ارمینیا پر فوج کشی: سلطان ظاہر نے ۶۷۳ھ میں ماہ شعبان میں (ارمینیا کے پائے تخت) سیس پر حملہ کرنے کے لئے مصر سے فوج کشی کی اور وہ ماہ رمضان میں دمشق پہنچ گیا وہاں سے وہ (سیس پر حملہ کرنے کے لئے) روانہ ہوا۔ اس کی اگلی فوجوں کی قیادت امیر قلدان اور بدر الدین بیلک خازندار کے سپرد تھی۔ جب وہ مصیصہ پہنچے تو انہوں نے اسے بزور شمشیر فتح کر لیا۔ ان کے پیچھے سلطان بھی (اپنی فوجوں کے ساتھ) پہنچ گیا۔ سلطان نے البیرہ پر تاتاریوں کے حملوں کے ڈر سے وہاں زبردست محافظ فوج متعین کی اور اس کے بعد وہ تمام فوجوں کو لے کر سیس کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے حسام الدین عثابی اور شام میں عربوں کے حاکم مہنا بن عیسیٰ کو اپنے اپنے علاقوں کی طرف سے تاتاریوں کے شہروں پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا جب وہ سیس پہنچا تو اس نے اس شہر کو تباہ و رویران کر دیا۔

سلطان نے فوجی دستے وہاں کے مختلف علاقوں میں بھیجے۔ چنانچہ وہ باناس اور ادنہ تک پہنچے اور انہوں نے وہاں کی مختلف سمتوں کو روند ڈالا۔ سلطان بھی در بند الرزم تک پہنچا۔ پھر وہ مصیصہ لوٹ آیا اور اسے جلا ڈالا۔

متبرک مقام کی تسخیر: اس کے بعد سلطان انطاکیہ گیا اور وہاں قیام کیا یہاں تک کہ اس نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ پھر اس نے القصر کی طرف کوچ کیا جو فرنگیوں کا مخصوص متبرک مقام تھا۔ کیونکہ اس کی تعمیر کا ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا نے حکم دیا تھا جو روم (اٹلی) میں رہتا تھا اور جو پوپ کے نام سے مراد تھا۔ سلطان نے اس (متبرک مقام) کو بھی فتح کیا۔ وہاں اس کی ملاقات حسام الدین عثابی اور مہنا بن عیسیٰ سے ہوئی جو دریائے فرات کے پیچھے حملہ کر کے واپس آ رہے تھے۔

حاکم طرابلس سے معاہدہ: اسی زمانے میں سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ پرنس سمند بن تیمند حاکم طرابلس فوت ہو گیا ہے۔ لہذا سلطان نے بلیان دودار کو بھیجا تاکہ وہ اس کے بیٹوں کے ساتھ مصالحت طے کرائے (اس نے جا کر) یہ معاملہ طے کرایا کہ اس کے فرزند سالانہ بیس ہزار دینار اور بیس قیدی بھیجا کریں۔ اس معاہدہ کے موقع پر حاکم قبرص بھی موجود تھا۔ جو پرنس کے فرزندوں کے پاس تعزیت کے لئے آیا ہوا تھا۔ جب دودار (مصالحت کرا کے) سلطان ظاہر کے پاس آیا تو وہ ماہ ذوالحجہ کی چند روئیں تاریخ کو دمشق لوٹ گیا۔

بلاد الروم پر تاتاری اقتدار: علاء الدین بردانات قیچ ارسلان کے فرزندوں میں سے غیاث الدین کینسر و پر (اقتدار میں) غالب تھا جو بلاد الروم کا حاکم تھا۔ اس وقت تاتاری بلاد الروم (ایشیائے کوچک) کے تمام علاقوں پر غالب آ گئے تھے انہوں نے بردانات کی گمرانی میں کینسر کو برائے نام بادشاہ برقرار رکھا اور اپنی طرف سے ان کا ایک حاکم رہتا تھا جس

۱۔ یہاں پر کتاب میں بیاض ہے۔ تاریخ ابوالفداء اخبار البشر جلد ۴ صفحہ ۷۷ میں یوں مذکور ہے ”پھر سلطان وہاں سے لوٹ گیا اور اسی سال بتاریخ ۲۵ جمادی الآخر مصر پہنچا“۔ (مترجم)

کے پاس تاتاری فوج ہوتی تھی جو ملک کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ شخہ (کوٹوال) کے نام سے موسوم تھی۔ بلاد الروم میں تاتاریوں کا پہلا حاکم بیلو تھا جس نے اس علاقہ کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد صمغان یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد تو قو اور تدوان مقرر ہوئے وہ دونوں سلطان ظاہر کے زمانے میں وہاں کی حکومت میں شریک تھے۔ بروانات تاتاریوں سے بیزار تھا۔ کیونکہ وہ اس پر دست درازی کرتے تھے اور ان کا انتظام بہت خراب تھا۔

پوشیدہ خط و کتابت: جب سلطان ظاہر کی حکومت کو مصر و شام میں تقویت حاصل ہوئی تو بروانات کو تاتاریوں پر غالب آنے کی امید نظر آئی اور سلطان کی امداد سے فوج ارسال کے خاندان کی دوبارہ سلطنت قائم ہونے کی توقع ہوئی۔ لہذا اس نے سلطان سے پوشیدہ طور پر خط و کتابت کی (یہ کام اس وقت شروع ہوا جب کہ) تاتاریوں کے بادشاہ ایغانے ۶۳۷ھ میں البیرہ کی طرف فوجیں بھیجیں اور سلطان ظاہر (ان کے مقابلہ کے لئے) فوجیں لے کر دمشق سے نکلا تھا۔ اس وقت بروانات نے خط و کتابت کر کے اسے بلوایا تھا۔ جب سلطان حمص میں مقیم تھا تو اس وقت بروانات نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کرے اس وقت ایغانے (تاتاری بادشاہ) نے اسے اپنے پاس طلب کیا تھا۔ مگر اس نے معذرت پیش کی اور پھر بادل ناخواستہ اس نے کوچ کیا تھا۔

امراء نے اس کے بعد یہ لکھا کہ سلطان ظاہر نے بلاد الروم کی طرف اس کی ہدایت کے مطابق فوج کشی کی ہے۔ اس نے پیغام بھیج کر ایغانے سے امداد طلب کی۔ چنانچہ اس نے امداد کے لئے مغل فوجیں بھیج دیں اور اسے حکم دیا کہ وہ سلطان ظاہر کا مقابلہ کرنے کے لئے لوٹ آئے چنانچہ وہ واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ امراء کی ایک جماعت نے سلطان سے خط و کتابت کی تھی اور اسے آنے کے لئے آمادہ کیا تھا اس پر وہ سب حیران اور پریشان ہوئے اور ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔

تاتاریوں سے مقابلہ: سلطان اسی سال ماہ رجب کو مصر لوٹ گیا اور وہاں ایک سال تک رہا۔ اس عرصے میں تاتاریوں کے بلاد الروم میں حکام شام کی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کو ان کی خبریں ملیں تو وہ مصر سے ماہ رمضان ۶۵۷ھ میں روانہ ہوا اور براہ راست بلاد الروم کا قصد کیا اور دریائے ارضق تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے شمس الدین ستر اشقر کو (فوج دے کر بھیجا) اس کا مقابلہ تاتاریوں کی اگلی فوج سے ہوا اور اس نے انہیں شکست دے دی۔ پھر وہ سلطان کے پاس لوٹ آیا۔

تاتاریوں کا قتل اور گرفتاری: اب (سلطان کی سب فوجیں) روانہ ہوئیں اور بلنشین کے مقام پر ان کا تاتاریوں سے مقابلہ ہوا۔ علاؤ الدین بردانات بھی اپنا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہوا۔ اس میں مغل فوجوں کو شکست ہوئی اور امیر قو قو اور تدوان دونوں مارے گئے۔ بردانات اور اس کا بادشاہ کچھسردو دونوں بھاگ گئے، کیونکہ وہ ان سے الگ تھے۔ مغلوں کے بہت سے سردار گرفتار ہوئے ان (گرفتار ہونے والوں) میں سلار بن طغرل، قچاق اور جاور صی بھی شامل تھے۔ بعد میں

۱۔ بردانات کا اصلی نام سلیمان ہے اور بردانات لقب ہے۔ ان کی زبان میں بردانات حاجب (دربان) کو کہتے ہیں۔ (تاریخ ابوالفداء اخبار البشر

علاء الدین بن معین بردانات بھی گرفتار ہوا اور ان میں بہت سے لوگ مارے گئے۔

فتح قیساریہ۔ پھر سلطان نے قیساریہ کی طرف کوچ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ وہاں مقیم ہو کر وہ سلطان بردانات کا انتظار کرتا رہا۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان وہاں ملاقات کا وقت مقرر تھا اور اس نے تاخیر کی تھی۔ پھر وہاں سے سلطان (اپنے ملک) لوٹ گیا۔

سازش کا علم۔ تاتاریوں کی شکست کی خبر ان کے بادشاہ ابغا کے پاس بھی پہنچ گئی۔ اسے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ بردانات اور سلطان طاہر کے درمیان ساز باز تھی۔ اسے بردانات کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ وہ اسی وقت محاذ جنگ کا معائنہ کرنے کے لئے پہنچا۔

قتل عام۔ اسے اس بات پر شک و شبہ ہوا کہ مغل مقتولوں کی لاشیں بکثرت ہیں۔ ان کے برخلاف روم کی فوجوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا (اس بات سے متاثر ہو کر) اس نے ان کے شہروں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ مگر ان کے بہت سے قلعے ناقابل تخریب ثابت ہوئے۔ لہذا اس نے ان کو پناہ دے دی اور پھر وہ واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ بردانات بھی تھا۔

بروانات کا قتل۔ سب سے پہلے اس نے اسے قتل کر دینے کا ارادہ کیا پھر اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ ملک کی حفاظت کرے مگر (تاتاری) مقتولوں کی بیویوں نے اسی کے دروازے پر چبھنا چلانا شروع کر دیا (انہوں نے بردانات کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیونکہ وہی ان کے شوہروں کے قتل کا سبب بنا) آخر کار بادشاہ نے ان پر ترس کھایا اور ایک مغل امیر کو بھیجا اس نے بروانات کو راستے ہی میں قتل کر دیا۔

سلطان طاہر کی وفات۔ جب سلطان بلستین اور قیساریہ میں تاتاریوں سے جنگ کر کے واپس آ رہا تھا تو ماہ محرم ۶۷۶ھ میں وہ بیمار ہو گیا اور اسی مہینہ کے آخر میں فوت ہو گیا۔ اسی وقت بیلجک، خزندار سلطنت کا نگران تھا۔ اس نے اس کی موت کی خبر کو چھپا کر دفن کر دیا اور فوج لے کر مصر واپس آ گیا۔

برکتہ سعید کی بادشاہت

جب وہ قلعہ میں پہنچا تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور برکتہ بن الظاہر کی (بادشاہت کے لئے) ان سے بیعت کرائی اور اس کا لقب سعید رکھا۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد بیلجک خود بھی فوت ہو گیا تو سلطنت کا انتظام شمس الدین فارقانی کے سپرد ہوا۔ کیونکہ جب سلطان طاہر شام میں تھا تو وہ مصر کا نائب حاکم رہ چکا تھا۔ اس لئے انتظام سلطنت درست رہا۔

امراء کی گرفتاری۔ پھر اس نے شمس الدین سنقر الاشقر اور بدر الدین بیسری کو گرفتار کر لیا جو سلطان طاہر کے مخصوص امراء میں سے تھے۔ ان کے بارے میں اس کے ان گہرے دوستوں نے چغلی خوری کی تھی جو اس کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ رذیل قسم کے موالی تھے۔ تاہم وہ اپنے ارادوں کی تکمیل میں ان سے مدد لیتا تھا۔

گرفتاری اور رہائی۔ جب اس نے ان دونوں امراء کو گرفتار کیا تو اس کے ماموں محمد بن برکتہ خاں نے اس بات کو ناپسند

کیا۔ اس نے اس کو بھی ان دونوں کے ساتھ قید کر دیا۔ اس بات پر اس کی والدہ ناراض ہو گئی تو اس نے ان سب کو رہا کر دیا۔ اس پر تمام امراء کو بدگمانی ہوئی اور انہوں نے اس کو ملامت کیا۔ اس نے معذرت پیش کر کے حلف اٹھایا۔

چغلی خوروں کا تسلط: پھر اس کے ان گہرے دوستوں نے اسے شمس الدین فارقانی کے خلاف بھی بھڑکایا جو اس کی سلطنت کا نگران تھا۔ چنانچہ اس نے اسے گرفتار کر کے مقید کر دیا اور وہ مقید ہونے کے چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بجائے اس نے شمس الدین سنقر الفی کو (نگران) مقرر کیا۔ اس کے دوستوں نے اس کے بارے میں بھی چغلی خوری کی تو اسے بھی معزول کر کے اس کی بجائے سیف الدولہ کو تک الساقی کو (نگرانی) مقرر کیا جو امیر سیف الدین قلاؤن کا ہم زلف تھا۔ اور اس کی سالی کا شوہر تھا جو کرمون کی بیٹی تھی۔

اس کا والد تاتاری امیر تھا جو سلطان ظاہر کے پاس چلا آیا تھا اور اس کے پاس رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح امیر قلاؤن سے کیا تھا اور دوسری بیٹی کا نکاح کوزبک سے کیا تھا۔

لاشین رجبی کی آمد: کچھ عرصے کے بعد سلطان سعید کے پاس اس کا ایک خاص ملازم لاشین رجبی بھی آیا اور وہ اس کا منظور نظر ہو گیا اس نے امراء کی خدمت میں پوری کر کے انہیں اپنا طرفدار بنا لیا اور وہ ان پر احسان کرتا رہا جس سے اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔

جب سلطان سعید کی سلطنت مصر میں قائم ہو گئی تو اس نے شام جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے نظم و نسق کی دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ ۶۷۷ھ میں دمشق روانہ ہوا اور وہاں مقیم ہو گیا اور مختلف سمتوں میں اپنی فوجیں بھیجیں۔ قلاؤن صاحبی اور بدر الدین بیسری سیس (ارمینہ خور) کے پائے تخت کی طرف (فوجیں لے کر) روانہ ہوئے۔ یہ مشورہ لاشین رجبی اور بادشاہ کے مخصوص گہرے دوستوں نے دیا تھا اور اسے آمادہ کیا تھا کہ جب وہ واپس آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔

اتفاق سے بادشاہ کے مخصوص گہرے دوستوں اور اس کے نائب حاکم سیف الدین کو تک کے درمیان ناچاقی ہو گئی بادشاہ کی حمایت کی وجہ سے وہ ان پر بہت ناراض ہوا۔

امراء کی بغاوت: ادھر یہ فوجیں روانہ ہو گئیں اور انہوں نے سیس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو نائب حاکم کو تک ان سے ملا اور اس نے انہیں خفیہ طور پر بادشاہ کے پوشیدہ ارادوں سے مطلع کر دیا لہذا یہ فوجیں شہر سے باہر خیمہ زن ہوئیں اور انہوں نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ اپنے نائب کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اپنے مخصوص گہرے دوستوں کی (بے جا) طرف داری نہ کرے۔ سلطان نے (ان کے مطالبہ کو) نظر انداز کر دیا اور اپنے والد کے موالی کو پوشیدہ طور پر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ (کسی طریقہ سے) انہیں اس کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے جا کر انہیں سلطان کی (سازش اور) اس کے خط سے مطلع کر دیا۔ جس سے وہ مزید برا فروختہ ہوئے اور علانیہ طور پر باغی ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے ان کے پاس سنقر اشقر اور سنقر قریمتی کو بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں سمجھائیں، مگر انہوں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی۔ پھر اس نے اپنی والدہ دختر برکت خان کو بھیجا، مگر ان (امراء) نے کوئی بات نہیں مانی اور وہ

سب قاہرہ کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں ماہ محرم ۸۷۶ھ میں پہنچ گئے۔ قاہرہ کے قلعہ میں اس وقت عز الدین ابیک افرم صالحی امیر چند اربلاء الدین اقطوان ساقی اور استاد خانہ سیف الدین بلیان موجود تھے۔ انہوں نے قاہرہ کے پھاٹک بند کر دیئے اور ان (باغی امراء) کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

قلعہ کا محاصرہ: ان (باغی) امراء کی (قلعہ کے امراء سے) خط و کتابت ہوتی رہی، اس کے بعد ابیک افرم اقطوان لاشین ترکمانی گفت و شنید کے لئے پہنچے، مگر وہ ان پر برافروختہ ہوئے اور وہ گھروں میں گھس گئے اور دوسرے دن صبح سویرے انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔

شاہی فوج کی کمی: ادھر سلطان سعید اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ دمشق سے واپس روانہ ہوا تھا تو اس نے عرب بدوؤں کو عطیات دے کر انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا مگر جب وہ غزہ پہنچا تو عرب بدو فوج بھاگ نکلی اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب سلطان بلیس کے مقام پر پہنچا تو اسے فوجوں کی کمی کا احساس ہوا، اس لئے اس نے عز الدین ایدمر ظاہری کے ساتھ فوج کو دمشق لوٹا دیا۔ اس وقت وہاں کا نائب حاکم اقوش تھا۔ اس نے اسے گرفتار کر کے مصر کے امراء کے پاس بھیج دیا۔ جب سلطان سعید نے بلیس کے قلعہ کی طرف کوچ کیا تو سنقر اشقر اس سے الگ ہو گیا۔ امراء فوج لے کر روانہ ہوئے تاکہ اسے قلعہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے گھنے بادلوں کا پردہ اس پر ڈال دیا۔ اس لئے وہ اس کی طرف جانے کا راستہ نہیں معلوم کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے علم الدین سنجر حنفی کو قید خانے سے رہا کیا تاکہ اس کی مدد حاصل کر سکے۔

سلطان سعید کی برطرفی: اس کے بعد سلطان کے مخصوص گہرے دستوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لئے وہ مجبور ہوا کہ وہ امراء مصر کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اس نے ان امراء کے لئے شام کے تمام علاقے سے دست برداری کا اعلان کیا، مگر وہ اس قید کرنے پر مصر ہے آخر کار اس نے ان سے صرف قلعہ الکفرک کی حکومت طلب کی۔ اس کے لئے وہ تیار ہو گئے۔

الکفرک کا حاکم: اس نے ان (امراء) سے اسے پناہ دینے کا حلف اٹھوایا اور خود بھی یہ حلف اٹھایا کہ وہ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا اور نہ وہ فوج سے مل کر کسی کے خلاف سازش کرے گا اور اپنی حمایت کے لئے کسی کو آمادہ نہیں کرے گا (اس یقین دہانی کے بعد) (ان امراء نے) اسی وقت الکفرک بھیج دیا اور وہاں کے نائب حاکم علاء الدین ایدمر الفخری کو لکھا کہ وہ قلعہ (سعید کے) حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے وہ قلعہ اس کے حوالے کر دیا اور سعید الکفرک میں رہنے لگا اور اس کی حکومت کا انتظام ایدمر الفخری (سابق حاکم) کے سپرد رہا۔

شلا مش کی حکومت: (سعید کی برطرفی کے بعد) امراء (مشورہ کے لئے) اکٹھے ہوئے انہوں نے امیر قلاؤن کو بادشاہت پیش کی۔ وہ اس کا حق دار تھا مگر اس نے اسے قبول نہیں کیا اور مشورہ دیا کہ سلطان ظاہر کے دوسرے فرزند شلا مش کو جو آٹھ سال کا بچہ تھا بادشاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ ۸۷۶ھ میں اسے بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کا لقب بدر الدین رکھا گیا۔

امیر قلاؤن کا انتظام: امیر قلاؤن سپہ سالار مقرر ہوا۔ اتوش حاکم دمشق کا تبادلہ کر کے اسے حلب کا حاکم بنایا گیا۔ امیر قلاؤن نے برہان الحصری السخاوی کو وزیر مقرر کیا۔ اس نے ممالیک صالحیہ کو اکٹھا کر کے ان کی جاگیروں میں اضافہ کیا اور انہیں سلطنت کے اعلیٰ مناصب پر مقرر کیا۔ اس نے ظاہریہ جماعت کو (جو سلطان ظاہر سے تعلق رکھتی تھی) دور دراز بھیج دیا اور انہیں قید خانوں میں ٹھونس دیا تاکہ وہ فتنہ و فساد برپا نہ کر سکیں۔ جب ان کی سزا کی مدت پوری ہو گئی تو اس نے ان کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد (ملک میں امن و امان ہو گیا) اور اس کے تمام معاملات سلطنت درست ہو گئے۔

منصور قلاؤن کی اصلیت: امیر قلاؤن قچاق کے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جو برج اعلیٰ کے نام سے موسوم تھا، وہ علاء الدین اقسقر کابلی کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھا جو خود ملک صالح نجم الدین ایوب کا مولیٰ تھا۔ جب علاء الدین فوت ہو گیا تو قلاؤن (براہ راست) ملک صالح کے مولیٰ میں شامل ہو گیا، جن کی بہادری اور وفاداری مشہور تھی۔

امیر قلاؤن سلطان مظفر قطز کے عہد حکومت میں ظاہر بیہر س کے ساتھ مصر آیا۔ جب ظاہر بادشاہ ہو گیا تو اس نے اسے مقرب بارگاہ بنایا اور اس کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کئے پھر اس نے اس کے فرزند سعید کے ہاتھ پر اس کے مرنے کے بعد بیعت کی۔

منصور قلاؤن کی تخت نشینی: جب امراء سعید سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے برطرف کیا تو وہ امیر قلاؤن کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے مگر جب اس نے اس کے بھائی شلا مش بن الظاہر کو بادشاہ مقرر کیا تو امراء نے بھی اس کے اتباع میں اس کی موافقت کی۔ اس کے عہد حکومت صرف دو مہینے رہے۔ آخر کار امیر قلاؤن نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ ان (امراء نے) ماہ جمادی الاولیٰ ۶۷۸ھ میں منصور قلاؤن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی عوام کی شکایات کا ازالہ کیا اور کئی قسم کے محصول اور ٹیکس کو منسوخ کیا۔ اس نے امراء کے عہد میں عہدوں کو (مناسب طور پر) تقسیم کیا۔ اس نے اپنے غلاموں کی ایک جماعت کو ہزاری منصب پر مقرر کیا اور ان کی جاگیروں میں اضافہ کیا۔

حکام کا تقرر: اس نے فوراً عز الدین ایک افرم صالحی کو (قید خانے سے) رہا کیا اور اسے مصر کا نائب حاکم مقرر کیا۔ مگر اس نے استعفاء دے دیا۔ اس لئے اس نے اس کے بجائے اس کے غلام حسام الدین طرنطائی کو نائب مقرر کیا اور علم الدین سخرجی شجاعی کو سرکاری دفاتر کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ سلطان قلاؤن نے برہان الدین سخاری کو وزارت پر بحال رکھا۔ بعد ازاں اسے معزول کر کے فخر الدین ابراہیم بن لقمان کو وزیر مقرر کیا۔ اس نے عز الدین ایدمر ظاہری کو طلب کیا جسے جمال الدین اتوش نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب کہ سعید نے بلخس سے شام کی فوجوں کو اس کے ساتھ بھیجا تھا جب اسے بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا تو اس نے اسے مقید رکھا۔

سعید کی بغاوت اور وفات: جب سلطان قلاؤن بادشاہ ہوا تو اس وقت (سابق سلطان) سعید بن ظاہر الکُرک میں تھا اس نے مصر و شام کے امراء سے خط و کتابت کر کے انہیں بغاوت پر آمادہ کیا۔ سلطان قلاؤن نے اس عہد شکنی پر اسے ملامت کی، مگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوا۔ بلکہ اس نے اپنی فوجیں حسام الدین لاشین جامدار کی قیادت میں قلعہ شوک کی طرف بھیجیں اور اس نے وہاں جا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ لہذا سلطان نے نور الدین بیلک ایدمری کو فوجیں دے کر بھیجا تو اس نے ماہ

ذوالقعدہ ۶۷۸ھ میں یہ علاقہ اس سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد ہی سعید الککک میں فوت ہو گیا۔

مسعود خسر وکی باغی حکومت اس کے بعد الککک میں امراء کا اجتماع اس کے نائب ایدکین فخری کی قیادت میں ہوا۔ ایدکین فخری نے اپنا نائب ایدغری حرانی کو مقرر کیا اور سعید کے بھائی خسر کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب مسعود عظم الدین رکھا۔ اس نے موالی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ چنانچہ وہ بے حساب اور بے اندازہ مال و دولت خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے الککک کا وہ تمام ذخیرہ صرف کر دیا جو ملک ظاہر اور بعض امراءے شام نے وہاں جمع کر رکھا تھا۔

محاصرہ اور صلح: انہوں نے فوجیں بھیج کر صلیب پر قبضہ کر لیا اور صرغدا کا محاصرہ بھی کیا مگر وہ فتح نہیں ہو سکا انہوں نے سنقر اشقر سے بھی خط و کتابت کی جو باغی ہو گیا تھا۔ لہذا سلطان قلا دن نے ایک افرم کی قیادت میں الککک کے محاصرہ کے لئے فوجیں بھیجیں، چنانچہ اس کا سخت محاصرہ کیا گیا۔ آخر کار مسعود نے یہ درخواست پیش کی کہ ناصر داؤد بن اعظم نے جس طرح مصالحت کی تھی، اسی طرح کا صلح نامہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ سلطان نے یہ شرط منظور کر لی اور اس قسم کا صلح نامہ ہو گیا۔

مسعود کی حکومت کا خاتمہ: مسعود نے دوبارہ بغاوت اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا نائب حاکم علاء الدین ایدغری حرانی اس کے پاس سے بھاگ کر سلطان کے پاس پہنچ گیا اور اس کی بغاوت کی تصدیق کی لہذا سلطان نے ۶۸۵ھ میں اپنے نائب حسام الدین طر نطائی کو فوجیں دے کر الککک کے محاصرہ کے لئے بھیجا۔ فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کار مسعود اور اس کے بھائی شلامش کو پناہ دے کر الککک پر قبضہ کر لیا گیا اور ان دونوں بھائیوں کو سلطان قلا دن کے پاس مصر بھیج دیا گیا۔ سلطان نے ان دونوں کی تعظیم و تکریم کی اور انہیں اپنے لئے کے کے ساتھ شامل رکھا۔ یہ سلسلہ اس کی وفات تک جاری رہا۔ اس کے بعد اشرف ان دونوں کو لے کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔

سنقر الاشقر کی خود سری: شمس الدین سنقر الاشقر جب دمشق کا نائب حاکم ہوا تو اس نے خود مختار حاکم بننے کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس نے ظاہر یہ جماعت سے قلعوں کو چھین لیا تھا اور ان پر اپنے حاکم مقرر کر دیئے تھے اور سلطان منصور قلا دن سے یہ مطالبہ کیا کہ عریش سے لے کر دریائے فرات تک کا تمام علاقہ شام کی مملکت میں شامل کر کے اس کے زیر حکومت کر دیا جائے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سلطان نے اس کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا تھا۔

اعلان بغاوت: جب سلطان نے قلعہ دمشق کا حاکم اپنے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) حسام الدین لاشین صغیر سلجدار کو ماہ ذوالحجہ ۶۷۸ھ میں مقرر کیا تو سنقر نے اس کو بہت ناپسند کیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو بادشاہ مشہور کیا۔ جب اسے قلا دن کی تخت نشینی کی خبر ملی تو اس نے اپنی حمایت کے لئے ان سے حلف اٹھوایا اور جس نے حلف نہیں اٹھایا اسے قید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا لقب الکامل رکھا۔ یہ تمام کارروائی اس سال کے ماہ ذوالحجہ میں ہوئی۔

اس نے قلعہ کے (شامی) حاکم لاشین کو گرفتار کر لیا اور سیف الدین کو شامی اصلاع اور قلعوں میں اپنی حمایت کے لئے حلف (اطاعت) حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ نیز شام کا وزیر مجد الدین اسماعیل بن کسیرات کو مقرر کیا اور خود سنقر قلعہ میں رہنے لگا۔

افرم سے ملاقات اس اثناء میں سلطان نے ایک افرم کو فوجیں دے کر الکرک اس وقت بھیجا جب الکرک کا حاکم سعید فوت ہو گیا تھا جب وہ غزہ پہنچا تو وہاں بیلک ایدمری بھی قلعہ شوبک کو فتح کر کے واپس آیا ہوا تھا اور دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ سنقر الاشرق نے انہیں خبردار کیا اور افرم سے مخاطب ہو کر اس نے سلطان پر الزام لگایا کہ اس نے اسے شام کا واحد حکمران نہیں بنایا اور قلعہ دمشق اور حلب کی حکومت دوسرے لوگوں کو دے دی (اس ملاقات کے بعد) افرم نے سلطان کو ایک خط لکھا جس کا اس نے جواب دیا اور ہدایت کی کہ افرم اسے ان حرکتوں سے باز رکھے۔

مگر سنقر (اپنی حرکتوں سے) باز نہیں آیا بلکہ اس نے شام کے مختلف علاقوں سے فوج اکٹھی کی اور عرب بدوؤں کو جمع کر کے قرا سنقر القری کی قیادت میں یہ فوج غزہ بھیج دی۔ افرم اور اس کے ساتھیوں نے اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی اور ان کے افسروں کی ایک جماعت مقید کر کے سلطان قلاؤں کے پاس بھیج دی۔ سلطان نے انہیں رہا کر کے خلعت عطا کئے۔

سنقر کی شکست جب شکست خوردہ فوجیں دمشق پہنچیں تو سنقر الاشرق اپنی فوجوں کے ساتھ باہر چراگاہ میں خیمہ زن ہوا۔ اس نے غزہ میں مقیم امراء کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں سلطان نے مصری فوجوں کو علم الدین سخر لاشین منصوری اور بدر الدین بکباش فخری مسلحہ اڑی کی قیادت میں روانہ کیا۔ وہ فوجیں دمشق کی طرف روانہ ہوئیں۔ دمشق کے قریب ان کا مقابلہ سنقر الاشرق کی فوجوں سے ہوا اور مصری فوج نے سنقر کو ماہ صفر ۶۹ھ میں شکست دے دی آگے بڑھ کر انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور علم الدین سخر لاشین منصوری کو قید سے رہا کر کے اسے دمشق کا نائب حاکم بنا دیا گیا۔ قلعہ دمشق کا حاکم سیف الدین سنجر منصوری مقرر ہوا اس کے بعد سلطان کو فتح دمشق کی اطلاع دی گئی۔

شاہ تاتار سے خط و کتابت سنقر (شکست کھانے کے بعد) رجبہ ہنچا۔ وہاں کے حاکم نے اس کا مقابلہ کیا تو وہ عیسیٰ بن مہنا کے پاس پہنچ گیا وہاں سے وہ اپنی شکست خوردہ فوجوں کے پاس گیا اور ان سب نے تاتاریوں کے بادشاہ ابغا سے خط و کتابت کی اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شام کو فتح کر لے۔ مگر اس نے یہ بات نہیں مانی۔

شیزر پر قبضہ سنقر نے صہیون اور شیزر پر قبضہ کر لیا۔ اس لئے سلطان مصر نے عز الدین افرم کی قیادت میں شیزر کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں بھیجیں جس نے اس کا محاصرہ کر لیا۔

حملہ تاتار کی خبر اس عرصہ میں یہ اطلاع ملی کہ تاتاریوں کا بادشاہ ابغا سنقر اور ابن مہنا کے ورغلانے سے شام پر حملہ کرنے والا ہے اور اس نے بلاد الروم کے حاکم صفار کو بھی اس کی مغل فوجوں کے ساتھ طلب کیا ہے اور اپنے بھیجے ہوئے بیدواہن طرحان حاکم ماردین اور حاکم سیمس کو آذربائیجان کی سمت سے روانہ کیا ہے اور وہ خود شام کے راستے سے آ رہا ہے اور اس کی اگلی فوجیں اس کے بھائی منو کتر کی قیادت میں کوچ کر رہی ہیں۔

دشمن کے خلاف اتحاد جب ایسی خبریں لگا تار پہنچنے لگیں تو افرم نے شیزر کے مقام سے محاصرہ اٹھا لیا اور سنقر اشقر کو دعوت دی کہ وہ مل کر مسلمانوں کے دشمن کے خلاف جہاد کرے۔ چنانچہ اس نے یہ دعوت قبول کر لیا اور ابغا (تاتاری بادشاہ) کے

سے ترک موالات کر کے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے لئے صہیون سے روانہ ہوا۔

سلطان کی فوج کشی ادھر سلطان نے مصر میں فوجیں جمع کیں اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے مصر میں اپنے فرزند ابوالفتح کو اپنا جانشین بنایا اور اس کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس بارے میں اس کا تحریری فرمان عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ پھر وہ فوجوں کو اکٹھا کر کے ماہ جمادی الاولیٰ ۶۷۹ھ میں روانہ ہوا اور غزہ پہنچ گیا۔

حلب کی مساجد کی تباہی ادھر تاتاری فوجیں جب حلب پہنچیں تو وہاں کے باشندے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کے گھر ویران ہو گئے۔ ان فوجوں نے وہاں پہنچ کر گھروں اور مسجدوں کو جلا ڈالا۔ اس تباہی کا ذمہ دار سیس اور ارمینیا کا حاکم تھا۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان مصر غزہ پہنچ گیا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے وطن واپس چلے گئے۔

حفاظتی فوج کا تقرر سلطان نے حمص اور شام کے ساحلی شہروں پر مزید فوجیں متعین کی تاکہ فرنگیوں کے حملے سے ان کی حفاظت ہو سکے اس کے بعد سلطان بھی مصر واپس چلا گیا۔

سنقر کی واپسی سنقر اشقر بھی صہیون چلا گیا۔ اب اس کی فوج کے بہت سے افراد اسے چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اس کے ساتھ صرف سنجر دوا دار عز الدین اردین اور وہ امراء باقی رہے جنہوں نے اس کی بغاوت کے وقت اسے شام کے قلعوں پر قبضہ دلایا تھا۔

حصن مرقب میں شکست ان فرنگیوں کو جو مرقب کے قلعوں میں تھے جب تاتاریوں کے حملہ شام کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے قریبی علاقوں پر قتل و غارت شروع کی۔ جب تاتاری شام سے لوٹ گئے تو حصن الاکراد کے حاکم بلیان طبائخی نے سلطان سے ان پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی اور (اجازت ملنے پر) وہ اپنے قلعوں کی محافظ فوجوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے ترکان فوجوں کو بھی جمع کر لیا تھا جب وہ مرقب کے قلعہ کے پاس پہنچا تو وہ اس کے نیچے خیمہ زن ہوا اور قلعہ والوں کو مقابلہ کے لئے بلوایا۔ مگر وہ پہاڑ کے دشوار گزار راستوں میں پھنس گیا۔ اس وقت ان فرنگیوں نے ایک دم حملہ کر کے اسے شکست دے دی، جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔

فرنگیوں سے صلح نامہ جب یہ اطلاع سلطان مصر کو پہنچی تو وہ ۶۷۹ھ کے آخر میں ان سے جنگ کرنے کے لئے نکلا اور اپنے بجائے اپنے فرزند کو جانشین بنایا جب وہ روجاء کے مقام پر پہنچا تو وہاں فرنگیوں کے ایلیچوں نے اس سے ملاقات کی تاکہ وہ اہل مرقب کے ساتھ مصالحت کر لے (انہوں نے وعدہ کیا کہ) اس کے بدلے میں وہ ان مسلمانوں کو قید سے رہا کر دیں گے جو بلیان کے ہمراہ جنگ میں گرفتار ہوئے تھے۔ چنانچہ سلطان نے ماہ محرم ۶۸۰ھ میں ان سے صلح نامہ کر لیا۔ پھر اس نے بیت الاستبار کے حاکم اور اس کے فرزند سے بھی صلح کی۔ نیز طرابلس کے حاکم سمند بن تیمند اور حاکم عکا کے ساتھ بھی ان کے شہروں، اسماعیلی قلعوں اور نئے مفتوحہ علاقوں کے بارے میں صلح کے معاہدے کئے۔ سلطان کی شرائط یہ تھیں کہ مسلمانوں کے حکام لاذقیہ میں مقیم رہیں گے اور وہ کسی قلعہ کے قیدی اور دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے اور نہ وہ کسی فتنہ و فساد میں تاتاریوں کے ساتھ سازش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو گا وہ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں

دیں گے۔ سلطان نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ گیارہ سال کے لئے کیا تھا۔ اور اپنے امراء میں سے کچھ لوگوں کو فرنگیوں کے پاس ان سے (اس معاہدہ کے لئے) حلف اٹھوانے کے لئے بھیجا تھا۔

سازشیوں کا قتل: اس عرصے میں سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے امراء کی ایک جماعت اسے اچانک قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے اور انہوں نے اس (سازش) میں فرنگیوں کو بھی شریک کیا تھا۔ اس کا سرغنہ کوندک تھا۔ چنانچہ جب وہ بیان پہنچا تو سلطان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے انہیں قتل کر دیا اور جو اس (سازش میں شریک تھے وہ مشتبہ قرار دیئے گئے۔ چنانچہ وہ سنقر کے پاس صہیون پہنچ گئے۔

علاقوں کا تبادلہ: دمشق پہنچ کر سلطان نے قلعہ شیزر کے محاصرہ کے لئے فوجیں بھیجیں آخر کار سلطان اور اشقر کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوا اور ان شرائط پر صلح ہوئی کہ سنقر اشقر شیزر سے دست بردار ہو جائے گا۔ بشرطیکہ اس کے معاوضہ میں اسے شخر اور بکاس کا علاقہ دیا جائے۔ یہ بھی طے پایا کہ اشقر اپنے قلعوں کی حفاظت کے لئے صرف چھ سو سوار کا فوجی دستہ رکھے گا اور وہ ان امراء کو نکال دے گا جو اس کے پاس بھاگ کر آئے ہیں۔ جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا تو اس کو نافذ کرنے کے لئے فرمان جاری ہو گیا۔

اشقر کے پاس سے سنجر دو ادرمصر کے پاس چلا آیا تو سلطان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سلطان نے شیزر کا حاکم بلیان طبانخی کو مقرر کیا۔

الکرک کا معاملہ: اس سے پہلے ملک ظاہر کے فرزند جو الکرک میں تھے۔ سلطان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ صلح نامہ میں سلطان داؤد کے زمانے کی طرح الکرک کے علاقہ پر قابض ہو گئے۔ سلطان نے ان کے رشتے داروں کو قاہرہ سے بھیجا اور ان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کر لیا اور امیر سلحدار اور قاضی تاج الدین الاثیر کو ان سے حلف اٹھوانے کے لئے بھیجا۔

تاتاریوں کا زبردست حملہ ۶۸۰ھ میں تاتاریوں نے ہر سمت سے شام کی طرف فوج کشی کی۔ چنانچہ تاتاریوں کا (بادشاہ) ابغاخو مغلوں اور تاتاریوں کی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ رجبہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس کا محاصرہ کر لیا (اس محاصرہ میں) اس کے ساتھ حاکم ماردین بھی شریک تھا۔ اس (بادشاہ) کے بھائی منکوتمر نے بھی شام کی طرف فوج کشی کی۔ شمالی علاقے کا بادشاہ منکوتمر جو دوشی خان کی اولاد سے تھا وہ بھی اپنے پائے تخت سے ابغابن ہلا کو کی مدد کے لئے شام پر حملہ آور ہوا۔ وہ قسطنطنیہ سے گزرتا ہوا قیساریہ اور تفلیس کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ پھر وہ منکوتمر بن ہلا کو کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مل کر اس نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔

اسلامی لشکر کا مقابلہ: سلطان مصر دمشق سے مسلمانوں کی فوجوں کو لے کر تاتاریوں سے پہلے حص پہنچ گیا۔ وہاں اس کے ساتھ سنقر الاشقر بھی امراء ظاہر یہ سمیت شامل ہو گیا۔

اسی ہزار کی تاتاری فوج: تاتاریوں کے زبردست لشکر میں روم فرنگی ارضن اور کرج اقوام سمیت اسی ہزار سے زائد فوج تھی۔ فریقین کا حص کے مقام پر مقابلہ ہوا۔

اسلامی صفوں کے سپہ سالار: سلطان مصر کی مینہ (دائیں طرف کی فوج) میں حاکم حماة محمد بن المنظر۔ نائب حاکم دمشق لاشین سلحدار تھے۔ عیسیٰ بن مہنا عرب بدوؤں کی قیادت کر رہے تھے۔ مینسرہ (بائیں طرف کی فوج) میں سفیر الاشقر، ترکمان فوج اور ظاہریہ کی جماعت اور ان کے امراء کے ساتھ شریک تھا۔ قلب (درمیانی صفوں) میں سلطان کا نائب حسام الدین طرناٹائی، حاجب رکن الدین اباجی اور فوج کا کثیر حصہ اور ممالیک (مصر) شریک تھے۔ سلطان (بذات خود) جھنڈوں کے نیچے اپنے موالی اور مخصوص ملازمین کے ساتھ شریک جنگ تھا۔

تاتاریوں کو شکست: تاتاری فوجیں بھی مختلف دستوں میں منقسم تھیں۔ یہ جنگ پندرہویں رجب ۶۸۰ھ میں ہوئی۔ جنگ صبر و استقلال کے ساتھ زور و شور کے ساتھ جاری رہی۔ پھر مسلمانوں کا میسرہ منتشر ہو گیا اور تاتاریوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا میسرہ منتشر ہوا اور ان کی یہ فوجیں پیچھے ہٹ کر اپنے بادشاہ منکوتمر کی طرف جو قلب (درمیانی حصہ) میں تھا، بھاگیں تو اسے شکست ہو گئی اور تاتاری فوج نے بھی مسلمانوں کے میسرہ کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب وہ سلطان کے پاس سے گزرے تو (انہوں نے یہ دیکھا کہ) سلطان اپنے مقام پر ڈٹا ہوا ہے اور ثابت قدمی سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد رسد اور خیراک والے بھی لوٹ آئے۔

تاتاریوں کا تعاقب اور تباہی: (تاتاریوں کی شکست کے بعد) سلطان مصر (قلادن) خیمہ نشین ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے دشمن کے تعاقب کے لئے کوچ کیا اور ان قلعوں کا قصد کیا جو دریائے فرات کے اطراف میں تھے تاکہ دشمن کی فوجوں کو روکا جائے۔ لہذا انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا، وہ دریائے فرات کے نامعلوم مقامات میں گھس گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دریائے ڈوب گئے۔ ان میں سے کچھ فوج سلمیہ کے جنگل بیابانوں میں سے گزری (اور ان میں بھگ کر) تباہ و برباد ہو گئی۔

ابغا کا فرار: ابغا (تاتاریوں کا بادشاہ) رجبہ کے مقام پر تھا، جب اسے (فوج کی شکست) کی خبر ملی تو وہ بغداد بھاگ گیا۔ تاتاری حکام کی موت: اس کے بعد سلطان (قلادن) نے فوجوں کو ان کے اصلی ٹھکانوں کی طرف بھیج دیا۔ سفیر الاشقر صہیون چلا گیا۔ ظاہریہ جماعت کے افراد پیچھے رہ گئے اور وہ سلطان کے حامی بن گئے۔ اب سلطان دمشق آ گیا اور یہاں سے اس سال ماہ شعبان کے آخر میں مصر پہنچا۔

مصر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ منکوتمر بن ہلاکو ہمدان میں فوت ہو گیا ہے اور شمالی علاقہ کا بادشاہ منکوتمر صرائے میں مر گیا ہے۔ لہذا اس خبر کے بعد اسے فتح کامل حاصل ہوئی۔

شاہ تاتاری کی ہلاکت: ابغا بن ہلاکو بھی ۶۸۱ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کی موت کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وزیر شمس الدین البحریض کو اپنے بھائی منکوتمر کے اچانک قتل کا ملزم قرار دیا۔ تاتاری بادشاہ (ابغا) نے اسے گرفتار کر کے اس کے بارے میں تحقیقات کرائی تو جو لینی نے کسی کو پوشیدہ بھیج کر (اس کے کھانے میں) زہر ملوایا جس سے وہ مر گیا۔

مغل حاکم کی گرفتاری: ابغا نے ایک دوسرے مغل حاکم پر بھی اپنے بھائی کی موت کا الزام لگایا جو الجزیرہ کا کوتوال تھا۔

چنانچہ وہ (الزام کی خبر سن کر) بھاگ گیا۔ جب سلطان قلاؤن نے ایک فوجی مہم موصل کے علاقے پر حملہ کرنے کے لئے بھیجی اور وہ سخر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اس مذکورہ مثل امیر کو دیکھا وہ اسے سلطان کے پاس لے گئے۔ اس نے اسے مقید رکھا اس کے بعد اسے رہا کر کے اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر دیا۔ چنانچہ وہ تاریخوں کے بہت سے واقعات بیان کرتا تھا اور کچھ واقعات اس کی روایت سے ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔

حلب کی تباہی کا انتقام۔ اس سال سلطان نے دوسری فوجی مہمیں بھی بلاد الروم میں سیس (ارمینیا) کے علاقہ کی طرف بھیجیں۔ کیونکہ ارمنوں نے شہر حلب اور اس کی مساجد کو تباہ کیا تھا۔ لہذا ان سے انتقام لینا (ضروری) تھا۔ ان فوجوں نے ان کے علاقوں کا صفایا کر دیا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک مقام پر بعض تاری حکام کو بھی دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو شکست دے کر بھاگا دیا۔ یہ فوجیں بلغار کے پہاڑوں تک بھی پہنچیں اور وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے واپس آ گئیں۔ اسی زمانے میں سلطان نے شمس الدین قراستقر منصور کو حلب بھیجا تاکہ وہ حلب کے قلعہ اور جامع مسجد کی مرمت کرائے جنہیں تاریخوں نے تباہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کی اس طرح تعمیر و مرمت کرائی کہ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔

نکو دار کا اعلان اسلام۔ اس کے بعد تاریخوں کے بادشاہ مسلمان ہونے لگے۔ سب سے پہلے بکدار (نکو دار) بن ہلاکو حاکم عراق نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنا (اسلامی) نام احمد رکھا۔ اس کے ایلچیوں نے تحریری طور پر یہ خبر سلطان مصر کو پہنچائی۔ ایلچیوں کے نام یہ ہیں: (۱) شمس الدین اتابک (۲) مسعود بن کیا کوس حاکم بلاد الروم (۳) قطب الدین محمود شیرازی قاضی سیواس (۴) شمس الدین محمد بن صاحب جو حاکم ماردین کا خاص ملازم تھا۔ اسی (کے اسلام لانے کی خبر) کے خط پر تاریخ جمادی الاولیٰ ۶۸۱ھ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس (واقعہ) کو کرامت پر محمول سمجھا۔ بہر حال اس خط کا مناسب جواب دیا گیا۔

قودان کا قبول اسلام۔ اس کے بعد قودان بن طغان کا ایلچی آیا جو اپنے بھائی منگو تمر کی موت کے بعد ۶۸۲ھ میں شمالی علاقہ کی سلطنت کا بادشاہ ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی بادشاہت اور مسلمان ہونے کی خبر پہنچائی۔ اس نے خلیفہ سے (جو مصر میں رہتا تھا) اپنی بادشاہت کی منظور لقب اور اپنے قریبی علاقوں کے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے (اسلامی) جھنڈا حاصل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ اسے یہ سب چیزیں عطا کی گئیں۔

قلعہ مرqb کی تسخیر۔ ۶۸۲ھ میں منصور بن المظفر حاکم حماة ماہ شوال میں فوت ہو گیا۔ سلطان قلاؤن نے اس کے فرزند مظفر کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اسے اور اس کے رشتہ داروں کے لئے خلعت بھجوائے۔ پھر ۶۸۳ھ میں ماہ ربیع الاول میں سلطان قلعہ مرqb کا محاصرہ کرنے کے لئے شام روانہ ہوا۔ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے دشمن کی مدد کی تھی۔ چنانچہ سلطان نے وہاں پہنچتے ہی اس کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صہیون سے سنقر الاشقر کی آمد کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آیا تو سلطان مصر چلا آیا۔

قلعہ الکرک کی تسخیر۔ (مصر پہنچ کر) سلطان نے اپنے نائب حاکم حسام الدین طرظائی کو الکرک کے محاصرہ کے لئے فوج دے کر بھیجا کیونکہ شلا مش اور خسرو باغی ہو گئے تھے۔ وہ (فوج لے کر) ۶۸۵ھ میں الکرک پہنچا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔

آخر کار انہوں نے پناہ طلب کی تو حسام الدین انہیں مصر سلطان کے پاس لے آیا (اور الککرک پر قبضہ کر لیا)۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ملاقات کے لئے گیا اور اس نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ مگر جب ان کا چال چلن خراب ہو گیا تو سلطان نے بدگمان ہو کر انہیں قید کر کے قسطنطنیہ جلاوطن کر دیا اور الککرک کا حاکم عزالدین منصور کی مقرر کیا۔ اس کے بعد بیس دویدار کو حاکم مقرر کیا جو اخبار التکرک کا مؤلف ہے۔

فتح صہیون: سلطان نے حسام الدین طرطنائی کو دوبارہ لشکر دے کر اس مقصد کے لئے بھیجا کہ وہ صہیون میں سنقر الاشقر کا محاصرہ کرے، کیونکہ وہ بھی باغی ہو گیا تھا اور اس نے سلطان کے شہروں پر حملہ کیا تھا۔ وہ ۶۸۶ھ میں صہیون پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب سنقر اور اس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیئے (اور صہیون پر قبضہ ہو گیا) تو وہ اسے سلطان کے پاس (مصر) لے آیا اور اسے قلعہ میں ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ وہ سلطان کے پاس مقیم رہا تا آنکہ سلطان فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا فرزند اشرف بادشاہ ہوا۔

شاہ قسطنطنیہ کی وفات: ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ فرنگی ۶۰۰ھ میں قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے اور انہوں نے رومیوں کو شکست دی تھی۔ میخائیل ان کا مذہبی پیرو تھا وہ اسی کے قریب کسی قلعہ میں رہتا تھا۔ آخر کار اسے موقع ملا تو اس نے رات کے وقت قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور وہاں جو فرنگی تھے انہیں مار ڈالا جو زندہ بچے وہ اپنے جہازوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے لہذا رومیوں نے اکٹھے ہو کر میخائیل کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور جو بادشاہ ان سے پہلے تھا وہ مارا گیا۔ سابق شاہ قسطنطنیہ اور شاہ مصر کے ساتھ اور اس کے بعد سلطان قلاؤن کے ساتھ گہرے تعلقات تھے اور ان میں تحفوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب بنو ظاہر کو جلا وطن کیا گیا تو وہ اس بادشاہ کے پاس جا ٹھہرے۔

۶۸۱ھ میں میخائیل (شاہ قسطنطنیہ) فوت ہو گیا تو اس کا فرزند زرر بادشاہ ہوا۔ وہ رائس کے لقب سے مشہور تھا۔ میخائیل اشقری کے نام سے بھی مشہور تھا اور اس کے بعد اس کے فرزند بنو الاشقری کہلاتے تھے اور یہی لوگ آج کل (ابن خلدون کے زمانے تک) قسطنطنیہ کے بادشاہ ہیں۔

نوبہ کے حالات: ۶۷۵ھ میں جب ملک ظاہر حکمران تھا نوبہ کا بادشاہ (مصر) آیا تو اس نے اپنے بھتیجے کے خلاف جس کا نام داؤد تھا امداد طلب کی تھی، کیونکہ اس نے اسے شکست دے کر اس کے قبضے سے اس کا علاقہ چھین لیا تھا۔ سلطان ظاہر نے امداد دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس عرصے میں داؤد کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا اور سلطنت کی حدود وسیع ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ وہ مصر کے بالائی حصہ (صعیہ) کی آخری حد یعنی اسوان کے قریب تک پہنچ گئیں۔

داؤد کے خلاف جنگ: (یہ حالت دیکھ کر سلطان ظاہر نے اسنقر فارقانی اور ایک افرم کو فوج دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ نوبہ کے (سابق) بادشاہ مرتضیٰ کو بھی بھیجا۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو انہوں نے عرب کی فوج کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جب وہ اس الجنادل پہنچے تو وہ اس علاقے پر قابض ہو گئے اور وہاں کے باشندوں کو پناہ دی۔ جب وہ آگے بڑھے تو ان کا بادشاہ داؤد سے مقابلہ ہوا۔ انہوں نے اسے شکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔ مصری فوجوں نے اس کے بھائی بہن اور والدہ کو گرفتار کر لیا۔ داؤد سوڈان کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے حاکم نے جب اسے دیکھا تو اس

نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اسے گرفتار کر لیا۔ بعد میں اسے بیڑیوں میں جکڑ کر سلطان کے پاس بھیج دیا گیا جہاں وہ قلعہ میں مقید رہا اور وہیں فوت ہو گیا۔

چانز بادشاہ کا تقرر: اب (حقیقی بادشاہ) مرتضیٰ نوبہ کا بادشاہ ہو گیا۔ اس کے ذمے یہ شرائط تھیں کہ وہ سالانہ خراج کی مقررہ رقم ادا کرے اور مقررہ تحائف بھیجا کرے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اسوان کے قریب ہی قلعے خالص سلطان کی ملکیت ہی رہیں گے۔ نیز وہ اپنے بھتیجے داؤد اور اس کے تمام ساتھیوں کو اپنے علاقے سے نکال دے گا۔ چنانچہ اس نے یہ تمام شرائط پوری کر دیں۔

نوبہ پر فوج کشی: اس کے بعد سلطان ظاہر فوت ہو گیا اس کی اور اس کے فرزندوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب منصور قلاؤن بادشاہ ہوا تو اس نے ۶۸۶ھ میں علم الدین سخر خیاط اور عز الدین کورانی کی قیادت میں نوبہ کی طرف فوجیں روانہ کیں ان کے ساتھ قوص کا حاکم عز الدین ایدمر سیفی بھی شامل تھا۔ اس نے فوج میں مشہور عرب خاندانوں کے افراد مغرب کے لوگوں اور بنو ہلال کے قبائل کو بھرتی کر لیا تھا۔ مشہور خاندانوں میں حضرت ابو بکر حضرت عمرؓ کی اولاد اور شریف شیبان اور کنز الدولہ کی اولاد بھی (فوج میں) شامل تھی۔ یہ فوج دقلقہ میں مشرقی اور مغربی سرحدوں پر نقل و حرکت کرتی رہی۔ نوبہ کا بادشاہ اسی زمانے میں بقول نودی پیتامون فرما جو میرے خیال میں غالباً مرتضیٰ کا بھائی تھا۔ جب اس کی فوج مقابلہ کے لئے آئی تو اس نے شکست کھائی اور مصری فوجیں ان کا دقلقہ کے پیچھے پندرہ دن تک تعاقب کرتی رہیں۔

دیگر حالات: اس کے بعد پیتامون کے بھانجے کو حاکم بنا کر فوج مصر واپس چلی گئی (ان کے جانے کے بعد) پیتامون دقلقہ آیا اور اس کے اس علاقہ کا اقتدار سنبھال لیا۔ اس کا بھانجا مصر بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلطان (قلاؤن) سے فریاد کی تو سلطان نے اس کی مدد کے لئے عز الدین ایک افرم کو فوج دے کر بھیجا اس کے ساتھ تین فوجی افسر تھے اور قوص کا حاکم عز الدین بھی ان کے ہمراہ تھا۔ یہ فوج کشی ۶۸۸ھ میں ہوئی۔

نوبہ کا وہ بادشاہ اسوان ہی میں فوت ہو گیا تھا اور وہیں مدفون ہوا۔ تو اس کا نائب فریادری کے لئے سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اس کے ساتھ مرتضیٰ کے بھتیجے داؤد کو بھیجا جو قلعہ مصر میں اسیر تھا۔ جرینس نے فوجوں کے سامنے پیش قدمی کی تو پیتامون بھاگ کر دریائے نیل کے وسط میں ایک ایسے جزیرہ میں جا کر پناہ گزین ہوا جو دقلقہ سے پندرہ مرحلہ کے فاصلے پر تھا۔ جزیرہ کے قریب اس کثرت سے پتھر تھے کہ وہاں تک کشتیوں کا پہنچنا بہت مشکل تھا۔ پیتامون وہاں سے نکل کر ابواب میں پناہ گزین ہو گیا (اسی صورت میں) اس کے ساتھی بھی لوٹ گئے اور فوجیں بھی دقلقہ واپس آ گئیں۔ اور انہوں نے داؤد کو حاکم بنایا اور پھر ۶۸۹ھ میں مصر لوٹ گئیں۔ فوج کشی کی (اس مہم میں) انہیں نوبہ سے صرف ہوئے۔ وہاں وہ داؤد (کی مدد) کے لئے اپنا ایک افسر بھی مقرر کر آئے تھے۔

جب فوج مصر واپس چلی گئی تو پیتامون دقلقہ واپس آ گیا۔ اس نے داؤد کے (مقرر کردہ حاکم) کو قتل کر کے اس افسر کو جو کہ وہاں موجود تھا سلطان کے پاس بھجوایا تاکہ وہ سلطان کے ساتھ اس کی مصالحت کر دے (اس نے وعدہ کیا کہ) وہ اس کے بدلے میں مقرر کردہ محصول ادا کرتا رہے گا۔ سلطان نے اس کی یہ تجویز منظور کر لی اور وہ

طرابلس کے حالات

وہ فرنگی جو طرابلس میں مقیم تھے بار بار عہد شکنی کرتے رہے اور مختلف سمتوں میں حملہ کرتے رہے تھے۔ اس لئے سلطان مصر نے مصر و شام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور ان کی خامیوں کو دور کیا۔ اس نے محاصرہ کے (جدید) آلات بھی تیار کئے وہاں وہ دو ماہ محرم ۶۸۸ھ میں فوج لے کر پہنچا اور اس شہر کا محاصرہ کر کے وہاں مجانبق نصب کرادیئے۔ چونتیس دن تک محاصرہ کرنے کے بعد سلطان نے طرابلس کو بڑو شمشیر فتح کر لیا اور وہاں قتل عام کرایا۔

طرابلس کی تباہی: بعض فرنگی جان بچانے کے لئے جنگی کشتیوں میں سوار ہوئے، مگر باد مخالف نے پھر انہیں ساحل پر پہنچا دیا، جہاں انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ مصر نے طرابلس شہر کو تباہ اور ویران کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے نذر آتش کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سلطان نے اس شہر سے متعلق جس قدر قلعے تھے ان سب کو فتح کر لیا۔ پھر سلطان نے محافظ فوجیں اور اپنا حاکم حصن الاکراد میں مقرر کیا اور ایک اور قلعہ تعمیر کرایا، تاکہ وہاں اس کا حاکم اور محافظ فوجیں رہ سکیں۔ اس کا نام بھی طرابلس رکھا گیا جو آج تک (تاجعہ ابن خلدون) موجود ہے۔

فتح طرابلس کی تاریخ: اس شہر (طرابلس) کی تاریخ (اسلامی) فتوحات کے زمانے سے یہ ہے کہ جب امیر معاویہؓ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں شام کے حاکم تھے تو انہوں نے طرابلس فتح کرنے کے لئے سفیان بن محنف الازدی کو (فوج دے کر) بھیجا۔ انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بالقابل ایک اور قلعہ تعمیر کر لیا۔ وہاں کے باشندے محاصرہ سے تنگ آ کر وہاں سے بحری کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ گئے (یوں یہ شہر فتح ہو گیا تو) سفیان بن محنف نے حضرت معاویہ کو اس کے مفتوح ہونے کی اطلاع دی۔ چنانچہ امیر معاویہ وہاں سرحدوں کی حفاظت کے لئے ہر سال فوجیں بھیجا کرتے تھے۔

رومی پادری کا مرکز: خلیفہ عبدالملک بن مروان (کے عہد خلافت میں) اس کے پاس روم کا ایک بڑا پادری آیا۔ اس نے خلیفہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اسے آباد کر کے وہاں رہے گا اور اس کے عوض وہ (سالانہ) خراج ادا کرتا رہے گا۔ خلیفہ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ (طرابلس میں) رہا۔ پھر وہاں کے مسلمانوں سے غداری کر کے بلاد روم روانہ ہوا۔ مگر مسلمانوں کے جنگی جہازوں نے اسے سمندر ہی میں گرفتار کر لیا (اور خلیفہ کے پاس بھیج دیا) خلیفہ عبدالملک یا ولید بن عبدالملک نے اسے قتل کرا دیا اس کے بعد یہ شہر مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔

طرابلس کے مختلف حکام: یہاں کے حکام دمشق ہی سے مقرر ہو کر آتے تھے مگر جب فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے یہاں مستقل حکام مقرر کئے چنانچہ پہلے یہاں کا حاکم امان الخادم مقرر ہوا۔ پھر (باترتیب) سرالعادلۃ ابوالسعادتہ علی بن عبدالرحمن، نزال، مختار الدولہ بن نزال یہاں کے حکام مقرر ہوتے رہے۔ یہ سب فاطمی حکام کے ارکان سلطنت سے تھے۔

بنو عمار کی حکومت: پھر یہاں کا قاضی امین الدولہ ابوطالب حسن بن عمار خود مختار حاکم ہو گیا۔ وہ ۳۶۴ھ میں فوت ہوا۔ وہ شیعوں کا بہت بڑا عالم اور فقیہ تھا اور اس نے وہ کتاب تصنیف کی ہے جو خراب الدولہ ابن مقفر بن کمود کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی ابوالحسن بن محمد بن عمار حاکم ہوا۔ اس کا لقب جلال الدین تھا۔

فرنگیوں کا محاصرہ: ۳۹۲ھ میں فرنگیوں کا ایک حاکم ضحیل جس کا نام میننت تھا، فوت ہو گیا۔ ضحیل ایک شہر کا نام بھی ہے۔ جو اس کے نام پر موسوم ہو گیا۔ ضحیل اس (طرابلس) کا طویل عرصہ تک محاصرہ کرتا رہا تھا (اس کا حاکم) ابن عمار اس کی حفاظت کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ اس لئے وہ عراق کے سلجوقی محمد بن فلک شاہ کے پاس امداد حاصل کرنے کے لئے پہنچا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی المناقب کو طرابلس میں اپنا جانشین بنایا۔ اس کے ساتھ سعد الدولہ قتیان بن الاعز بھی تھا جسے ابوالنائب نے قتل کر دیا اور اس نے افضل بن امیر الجیوش کی اطاعت قبول کر لی جو اس زمانے میں فاطمی خلفاء کا خود مختار حاکم تھا۔

ضحیل (فرنگی حاکم) طرابلس کے محاصرہ کے دوران ہی مر گیا تھا اور اس کے بجائے فرنگیوں کا ایک افسر سردانی ان کا حاکم مقرر ہوا۔

فاطمی حکام کا تسلط: (فاطمی سپہ سالار) افضل نے طرابلس پر اپنا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ مگر وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے مال و دولت سمیٹنے میں مشغول رہا۔ افضل کو اس کے بارے میں یہ خبر ملی کہ وہ خود مختار بننا چاہتا ہے مگر اس نے اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے اہل شہر کو اپنا مخالف بنا لیا تھا۔ لہذا افضل نے دوسرا حاکم اس کے بجائے بھیجا اور امداد کے لئے مصر سے جنگی جہاز بھی بھیج گئے۔ اس کے بعد شہر کے ارباب اقتدار کو گرفتار کر لیا گیا اور فخر الملک بن عمار کے باقی ماندہ اہل و عیال کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا گیا۔

ابن عمار کی ناکامی: فخر الملک بن عمار (جو سلجوقی بادشاہ کے پاس امداد کے لئے گیا تھا) ان کی امداد سے مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کیونکہ وہ باہمی خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ وہ ۵۰۲ھ میں دمشق واپس آیا اور (وہاں کے حاکم) طغتنگین اتابک کے پاس ٹھہرا۔

طرابلس کے فرنگی حکام: (فرنگی حکام) سردانی نے سات سال کے محاصرہ کے بعد طرابلس کو فتح کر لیا۔ لہذا ضحیل کے فرزند نے یورپ سے آ کر طرابلس پر قبضہ کر لیا اور طرابلس کا شہر اس کی سلطنت میں تیس سال تک شامل رہا۔ پھر کچھ فرنگی افسروں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور پطرس احمور نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد طرابلس کا (فرنگی) حاکم القوش بطرار ہو گیا۔ جب اتابک زنگی حاکم موصل اور بیت المقدس کے فرنگی بادشاہ کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں فرنگیوں کو شکست ہوئی تو اس جنگ میں القوش (حاکم طرابلس) گرفتار ہو گیا۔

فرنگی بادشاہ جان بچا کر تغریب کے قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ زنگی نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کار فریقین نے اس پر مصالحت کی کہ وہ تغریب حوالے کر دے گا اور زنگی ان قیدیوں کو رہا کرے جو جنگ میں گرفتار ہوئے تھے (اس صلح کی رو سے القوش بھی رہا ہو گیا) اور وہ طرابلس واپس چلا گیا اور وہاں کافی عرصہ تک حکومت کرتا رہا کہ

(اچانک) اسماعیلیہ فرقہ کے کچھ افراد نے اسے قتل کر دیا۔

اس کے بعد ہندو طرابلس کا اس وقت حاکم مقرر ہوا، جب کہ وہ ابھی بچہ تھا۔ وہ فرنگی فوجوں کے ساتھ ۵۷۷ھ میں جنگ حارم میں شریک تھا جس میں ملک عادل نے فرنگیوں کو شکست دی تھی اور اس جنگ میں رہند گرفتار ہوا تھا اور وہ بہت دیر تک مقید رہا۔ آخر کار جب سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب تخت نشین ہوا۔ تو اس نے ۵۷۰ھ میں اسے رہا کر دیا اور وہ طرابلس پہنچ گیا۔ اس وقت سے طرابلس کی حکومت اس کے اور اس کی اولاد کے پاس رہی۔ تا آنکہ سلطان منصور قلاؤن نے ۶۸۸ھ میں طرابلس کو فتح کر لیا۔

ہسپتال اور دارالعلوم کا قیام: سلطان منصور قلاؤن نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ قاہرہ میں ایک ہسپتال قائم کرے گا۔ اس نے اس مقصد کے لئے بہت سے مقامات کا معائنہ کیا۔ آخر کار اسے فاطمی خلفاء کے محلوں میں سے دو محلوں کے قریب الدار القطیہ کا مقام پسند آیا اور اس نے وہاں ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اصل حویلی کو ہسپتال کے لئے مقرر کیا اور اس کے سامنے اس نے علوم و فنون کی تعلیم کے لئے اعلیٰ درس گاہ اور اپنے لئے ایک مقبرہ کی تعمیر تجویز کی۔ ان سب کی تعمیر و تکمیل کے لئے اس نے علم الدین شجاعی کو مقرر کیا۔ چنانچہ اس نے بہت جلد یہ تمام عمارتیں تعمیر کرا دیں اور یہ ۶۸۲ھ میں مکمل ہو گئیں۔ سلطان نے ان کے اخراجات کے لئے مصر و شام کی بہت سی جائیدادیں اور راضی وقف کیں۔

وقف کروینے کا اعلان: (جب ہسپتال مکمل ہو گیا تو) ایک مقررہ دن کے موقع پر وہ ہسپتال پہنچا اور ایک طبی شربت کا پیالہ پی کر کہا: ”میں نے یہ ہسپتال اپنے اور اپنے سے منبر (ہر خاص و عام) مخلوق کے لئے وقف کر دیا ہے“۔ چنانچہ یہ ہسپتال اس کی نہایت عمدہ یادگار ہے۔

عکا پر فوج کشی: سلطان منصور قلاؤن نے اپنے فرزند علاء الدین لاجپاؤلی عہد بنایا تھا اور اس کا لقب الصالح رکھا تھا، مگر وہ ۶۸۷ھ میں فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کے بجائے دوسرے فرزند خلیل لاجپاؤلی عہد بنایا۔ اس عرصہ میں عکا کے فرنگیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے گرد و نواح کے (مسلمانوں کے) علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیئے تھے اسی زمانے میں وہاں سے (مسلمان) تاجروں کا ایک قافلہ رومی اور ترک غلاموں کو لے کر گزرا۔ وہ یہ غلام سلطان کے لئے لے جا رہے تھے کہ اتنے میں فرنگیوں نے انہیں لوٹ لیا اور گرفتار کر لیا۔

قلاؤن منصور کی وفات: (یہ خبر سن کر) سلطان نے ان سے جنگ کرنے کے مصمم ارادہ کر لیا اور عید الفطر کے بعد ۶۸۹ھ میں فوج لے کر روانہ ہوا اس نے اپنے فرزند خلیل کو قاہرہ میں اپنا جانشین بنایا۔ اس کے ہمراہ زین الدین سیف اور علم الدین شجاعی وزیر تھے (وہاں پہنچ کر) وہ شہر کے باہر خیمہ زن ہوا کہ اچانک وہ بیمار ہو گیا لہذا اسے اپنے محل پہنچایا گیا۔ وہاں اس کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ ماہ ذوالقعدہ ۶۸۹ھ میں فوت ہو گیا۔

باب: سوم

منصور قلاؤن کے جانشین

خلیل اشرف کی حکومت: (اس کی وفات کے بعد) اس کے فرزند غلیل کے ہاتھ پر بیعت لی گئی اور اس کا لقب اشرف رکھا گیا۔ اس وقت حسام الدین طرنگائی منصور کا نائب تھا۔ غلیل نے اسے اس عہدہ پر برقرار رکھا اور اس کے ساتھ زین الدین سیف کو آستانہ عالیہ کی نیابت میں شریک کیا۔ اس نے علم الدین شجاعی کو بھی وزیر برقرار رکھا۔ بدر الدین بیدو (بدستور) اس کا وزیر مالیات رہا اور عن الدین ایک خزانہ دار تھا۔

حکام کا تقرر: اس وقت حسام الدین لائیں سلحدار دمشق کا حاکم تھا اور شمس الدین قراسنقر جو کندر حلب کا نائب حاکم تھا۔ غلیل نے دونوں کو برقرار رکھا۔ اس نے اپنے والد کے مقرر کردہ جتنے حکام تھے انہیں فی الحال برقرار رکھا۔ تاہم اس نے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے نائب حسام الدین طرنگائی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس کی جمع کردہ تمام مال و دولت کو ضبط کر لیا۔ وہ اپنی دولت کو چھپایا کرتا تھا۔ کم از کم اس کے پاس چھ لاکھ دینار تھے جو سب کے سب اس کے شاہی خزانہ میں جمع کر دیئے گئے تھے۔

نئے وزیر کا تقرر: اب بدر الدین مستقل طور پر اس کا نائب مقرر ہو گیا تھا۔ محمد بن عثمان بن سلحوس کو حجاز سے بلوا کر اسے وزیر مقرر کیا۔ وہ اس سے پہلے شام کا ایک تاجر تھا۔ اس کے والد کے عہد میں وہ اس کا مقرب بارگاہ ہو گیا تھا اور اس کی اچھی خدمت کی تھی۔ لہذا اس نے اسے اپنی شام کی جاگیروں کا منتظم بنا دیا۔ جہاں رہ کر اس نے بہت رقم وصول کر کے دی۔ اب اسے مصر کے دفتر کا نگران مقرر کیا گیا۔ یہاں آ کر اس نے بہت مظالم برپا کئے، جس کی اطلاع سلطان کے نائب طرنگائی تک پہنچی تو سلطان نے اس کی دولت ضبط کر لی اور اسے سزا دے کر اسے شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔

محمد بن عثمان نے اسی سال حج کیا تھا (اور وہ حجاز میں مقیم تھا)۔ جب خلیل اشرف تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسے بلوا بھیجا اور اسے وزیر مقرر کیا۔ یہاں آتے ہی اس نے بہت اثر و سونخ حاصل کر لیا۔ وہ خواص کا کام کرتا تھا اور عوام الناس سے الگ تھلگ رہتا تھا۔

خلیل اشرف نے شمس الدین سنقر کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے نائب السلطنت طرنگائی کے ساتھ عز الدین سیف کو بھی گرفتار کیا تھا کیونکہ اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ طرنگائی کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازش کر رہا ہے مگر جب اس کی بے گناہی ثابت ہوئی تو اس نے اسے رہا کر دیا۔

عکا کا محاصرہ: (انتظام سلطنت درست کرنے کے بعد خلیل اشرف نے ۶۹۰ھ میں عکا کے محاصرہ کا قصد کیا تاکہ اپنے والد کی فوجی مہم کی تکمیل کرے۔ چنانچہ اس نے فوجوں کو تیار کیا اور اہل شام کو دعوت جہاد دی۔ وہ قاہرہ سے فوج کشی کر کے تیز رفتاری کے ساتھ براہ راست عکا پہنچا۔ شام کے حکام اور حاکم حماة مظفر بن منصور (فوج لے کر) اس کے پاس عکا پہنچا۔ محاصرہ کے بعد قلعہ پر مجاہدین (قلعہ شکن آلات) سے حملہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلعہ کی کئی برجیاں ٹوٹ گئیں، جہاں سے فوجیوں نے گھسنے کی کوشش کی تو دشمن نے ان پر تیر اندازی کی۔ تاہم انہوں نے مٹی سے خندق کو بھرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ اسے پاٹ دیا۔ شکستہ برجیوں کو زمین کے برابر ہموار کر دیا اور اسی سمت سے شہر میں گھس کر دشمن کا صفایا کر دیا اور بے حد قتل و غارت کی۔ شکست خوردہ اور بچے کچھے دشمن سپاہی ان بڑے بڑے برجوں میں پناہ گزین ہوئے جو ابھی تک قائم تھے۔ اس لئے دس دن تک ان کا بھی محاصرہ کر کے مسلمان سپاہی ان میں بھی گھس گئے اور انہیں تہ تیغ کیا۔

فتح عظیم: عکا ۶۹۰ھ میں فتح ہوا۔ یہ شہر فرنگی کفار کے قبضے میں ایک سو تین سال تک رہا۔ کیونکہ فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کے قبضے سے اسے ۵۸۷ھ میں حاصل کیا تھا۔

فرنگی شہروں کی تباہی: سلطان خلیل اشرف کے حکم سے عطا کا شہر تباہ و برباد کر دیا گیا جب اس کی خبر صور صیدا، صقلیہ اور حیفہ کے فرنگیوں کو ملی تو وہ ان شہروں کو ویران چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان جب ان شہروں میں سے گزرا تو اس کے حکم کے مطابق یہ تمام (فرنگی) شہر برباد کر دیئے گئے۔ پھر سلطان دمشق روانہ ہو گیا۔

سلطان نے راستے میں حسام الدین لاشین حاکم دمشق کو پکڑ لیا۔ کیونکہ اس کے شیطان (مجنروں) نے اسے اطلاع دی تھی کہ سلطان اسے اچانک قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ فرار ہونے کے لئے سوار ہو گیا۔ اس کے تعاقب میں علم الدین سبخر شجاعی گیا تھا۔

پھر سلطان بیروت گیا اور اسے فتح کر لیا۔ سلطان الکمرک کے پاس سے بھی گزرا تو وہاں کے نائب حاکم رکن الدین بھرس دو ادار نے جو مورخ بھی تھا۔ اپنا استعفیٰ پیش کیا لہذا سلطان نے اس کے بجائے جمال الدین اقسز اشرفی کو الکمرک کا حاکم مقرر کیا۔

جب سلطان قاہرہ واپس آیا تو اس نے سلطان ظاہر کے دونوں فرزندوں شلامش اور خسرو کو اسکندریہ کے قید خانے سے رہا کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا۔ جہاں بچپن کے بعد شلامش فوت ہو گیا۔ سلطان نے حسام الدین لاشین منصور کی اور شمس الدین سنقر الاشقر کو بھی جیل خانے سے رہا کر دیا۔ علم الدین سنجر نائب حاکم دمشق کو گرفتار کر کے پہلے سے مصر بھیج کر مقید کر دیا گیا تھا۔

سلطان نے یہ حکم دیا کہ قلعہ کے اوپر کے شہ نشینوں کو جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وسیع اور بلند کیا جائے اور اس کے سامنے جشن اور عید کے دنوں میں سلطان کے جلوس کے لئے ایک گنبد تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ میدان اور گھوڑوں کے بازار کے قریب ایسی عمارت تعمیر کی گئی۔

فتح قلعة الروم: سلطان خلیل اشرف نے جب حسام الدین لاشین کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو شام کے حاکم کے عہدے پر بحال

کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ۶۹۱ھ میں اپنی فوج لے کر شام روانہ ہوا۔ دمشق پہنچنے کے بعد وہ حلب پہنچا اور وہاں سے اس نے قلعہ الروم کی طرف فوج کشی کی اور اسی سال کے جمادی الاولیٰ میں اس نے اس کا محاصرہ کر لیا اور تیس دن تک محاصرہ کرنے کے بعد سلطان نے اس قلعہ کو بزور شمشیر فتح کر لیا اور وہاں کی منتشر فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں بطرک الارض کو قیدی بنا لیا۔

حلب کا نیا حاکم: پھر وہاں سے واپس آ کر سلطان نے ماہ شعبان میں حلب میں قیام کیا اور قراستقر ظاہری کے بجائے حلب کا نائب حاکم سیف الدین طباقی کو بنایا۔ کیونکہ سلطان نے قراستقر کو ممالک کا سردار بنا دیا تھا۔

لاشینین کی دوبارہ گرفتاری: وہاں سے سلطان دمشق پہنچا اور عید الفطر منائی (شام کے حاکم) لاشینین کو بدگمانی ہوئی تو وہ عید الفطر کی رات کو وہاں سے بھاگ گیا۔ سلطان نے اس کے تعاقب میں سوار بھجوائے تو کسی عرب بدو نے اپنے قبیلے میں (سے گزرتے ہوئے) اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر سلطان کے پاس آیا۔ سلطان نے اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر قاہرہ بھجوا دیا اور دمشق کا حاکم عز الدین ایک حمیدی کو علم الدین شجر شجاعی کے بجائے مقرر کیا۔

سلطان کا نیا مشیر: جب سلطان مصر واپس آیا تو اس نے علم الدین شجاعی کو رہا کر دیا مگر وہ رہائی کے ایک سال بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے سنقر اشقر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ سلطان کے نائب بیدو کو جب لاشینین کی بے گناہی معلوم ہوئی تو اسے رہا کر دیا۔ ایک مہینے کے بعد لاشیر فوت ہو گیا، اس کے منصب پر اس کے فرزند عماد الدین ایوب کو مقرر کیا گیا۔ ایوب کو سلطان منصور نے اپنی حکومت کے آغاز میں مقید کر دیا تھا۔ مگر سلطان خلیل اشرف نے اسے اسی سال رہا کر دیا تھا۔ یوں وہ تیرہ سال تک قید میں رہا۔

..... مگر اب سلطان اشرف نے رہا کر کے اسے اپنی ہم نشینی اور مشورہ کے لئے مدعو کر لیا۔

میرنشی کی وفات: (اسی سال) سلطان کے میرنشی اور پرائیویٹ سیکرٹری قاضی فتح الدین محمد بن عبد اللہ بن عبد الظاہر فوت ہو گیا۔ اس کا سلطان اور اس کے والد کے دربار میں بلند مقام تھا۔ اب سلطان نے اس کے بجائے فتح الدین احمد بن الاثیر حلی کو (اس منصب کے لئے) مقرر کیا۔ ابن عبد الظاہر کا فرزند علاء الدین علی تھا۔ سلطان نے اس کے ساتھ بھی نوازش کی اور اسے بھی منشیوں میں ملازم رکھ لیا۔

نائب السلطنت سے بدگمانی: بعد ازاں جب سلطان مصر کے بالائی حصہ (صعید) میں سیر و شکار کے لئے گیا تو اس نے بیدو نائب السلطنت کو دار الخلافہ کے انتظام کے لئے اپنا جانشین مقرر کیا مگر جب وہ قوص پہنچا تو ابن اسلموس نے اسے پوشیدہ طور پر یہ اطلاع پہنچائی کہ بیدو (نائب حاکم) نے مصر کے بالائی حصہ (صعید) میں بے شازرعی اراضی اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ چنانچہ وہاں جا کر سلطان نے ان کا معائنہ کیا اور جب ان اراضی کی کثرت کو (بری طرح) محسوس کیا تو وہ بیدو سے بدگمان ہو گیا۔ جب سلطان اشرف مصر واپس آیا تو اس نے اس سے اس کی کچھ جاگیریں واپس لے لیں۔ اس وقت سے بیدو کے بارے میں اسے شک و شبہ رہنے لگا تھا، اس لئے بیدو نے خیموں اور عمدہ مویشیوں کے تحفے سلطان کو پیش کئے۔

شاہ ارمن سے مصالحت: ۶۹۲ھ میں سلطان نے شام کے سفر کی تیاری کی اور بیدو کو لشکر دے کر پہلے بھیج دیا اور خود الکرک پہنچا اور وہاں کے حالات درست کر کے شام پہنچا۔ وہاں ارمنیہ اور سیس کے حاکم کے ایلچی نے اس سے ملاقات کی اور اس کی طرف سے مصالحت کا اظہار کیا۔ اس مقصد کے لئے وہ تھسنا، مرعش اور تل حمدون کے قلعے (سلطان کے) حوالے کرنے کے لئے تیار تھا۔ چنانچہ سلطان نے مصالحت کر لی اور ان (مذکورہ بالا) قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعے حلب کی اراضی کے راستوں کے موڑ پر واقع تھے تھسنا کا قلعہ تو مسلمانوں کا تھا مگر جب ہلاکونے حلب کو فتح کیا تو یہ قلعہ شاہ ارمن و سیس کو فروخت کر دیا تھا۔

پھر سلطان اسی سال کے ماہِ رجب میں حمص پہنچا۔ اس کے ساتھ حاکم حماہ مظفر بھی تھا سلطان نے سلمیہ میں قیام کیا۔ وہاں اس سے عرب قبائل کے سردار مہنا بن عیسیٰ نے ملاقات کی۔ سلطان نے اسے اور اس کے دونوں بھائیوں محمد و فضل اور اس کے فرزند موسیٰ کو گرفتار کر کے لاشین کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ وہاں سے وہ مصر بھیجے گئے اور وہاں وہ سب قید میں رہے۔ سلطان نے ان کے بجائے عرب قبائل پر محمد بن ابی بکر بن علی بن جدیدہ کو حاکم مقرر کیا۔ جب سلطان حمص میں تھا تو اس نے الکرک کے نائب حاکم کو یہ ہدایت کی کہ وہ قلعہ شوک کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ یہ قلعہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اگلی فوج بیدو کے ساتھ روانہ کی اور خود اپنے خواص کے ساتھ پچھلی فوج میں واپس آیا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس نے لاشین منصور کی قید سے رہا کر دیا۔

سلطان اور بیدو کی ناچاقی: نائب السلطنت بیدو سلطان اشرف پر چھایا ہوا تھا اور اشرف اس کی خود مختاری کی وجہ سے اس سے بدگمان تھا خود بیدو بھی اشرف سے ناراض اور کبیدہ خاطر رہتا۔

سلطان کی ناراضگی: ۶۹۳ھ میں سلطان اشرف بحیرہ میں شکار کے لئے نکلا اور اس نے اپنے وزیر ابن اسلموس کو مال اور کپڑے وغیرہ فراہم کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے دیکھا کہ بیدو (نائب سلطنت) اور دیگر امراء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں جو عمدہ چیزیں تھیں وہ سب حاصل کر لی تھیں۔ اس نے سلطان کو خط لکھا تو سلطان بہت ناراض ہوا اور اس نے بیدو کو بلوا کر اسے بہت زبردستی کی۔ اس معاملے میں بیدو نے (بظاہر) اس کے ساتھ نہایت نرم رویہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ سلطان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

امراء کی سازش: اس کے بعد بیدو اپنے ساتھیوں کی طرف گیا اور ان سے بادشاہ پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ اس سازش کے سرغنے لاشین منصور کی حاکم دمشق اور قرا سقر منصور کی حاکم حلب تھے۔ ان کے علاوہ تمام امراء مصر سلطان اشرف سے ناراض تھے۔ کیونکہ اس نے اپنے ادنیٰ ملازموں کو ان پر ترجیح دے رکھی تھی۔ چنانچہ جب ایک دفعہ ابن اسلموس نے اسے لکھا کہ مال کی قلت ہے تو اس نے اپنے موالی کو قلعہ کی طرف منتقل کر دیا تاکہ اخراجات میں کمی ہو مگر اس کی قلت (بدستور) برقرار رہی۔

سلطان اشرف کا قتل: ایک دن سلطان سیر و شکار کے لئے باہر نکلا ہوا تھا کہ (مذکورہ بالا) امراء نے مصر نے اس کا تعاقب کیا اور اُسے شکار کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ جب سلطان کو ان سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے بہ عجلت تمام تموار کے پے در پے

اس پر حملے کے سب سے پہلے وار بیدو کا تھا اور دوسرا لاشین نے کیا۔ انہوں نے اسے قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ یہ واقعہ اس سال کے ماہ محرم کی پندرہویں تاریخ کو ہوا۔

بیدو کی عارضی بادشاہت: اس کے بعد وہ اپنے خیموں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ وہ بیدو کو بادشاہ بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بادشاہ بنا کر اس کا لقب القاہر رکھا۔ بیدو نے بیسری شمس اور سیف الدین بکتھر سلحدار کو گرفتار کر کے انہیں شاہی قلعہ لے جانے کے ارادے سے اپنے ساتھ رکھا۔

بیدو کا قتل: اسی وقت زین الدین سیف بھی (کسی اور جگہ) شکار کے لئے نکلا ہوا تھا اسے (بادشاہ کے قتل) کی خبر شکار کرتے ہوئے ملی تو وہ (فوراً) ان کے تعاقب کے لئے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ سوس جاشکیر حسام الدین استاز الدار رکن الدین سوس اور طحی جاشکیر یہ جماعت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان (بیدو اور ان کے ساتھیوں) کو طرانہ کے مقام پر جا پکڑا۔ جب بیسری بکتھر نے جو خیمے میں گرفتار تھے انہیں دیکھا تو وہ کتبغا اور ان کے ساتھیوں کی طرف بھاگ گئے بلکہ بیدو کے ساتھ جو عرب قبائل کے سپاہی تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ بیدو نے ان کے ساتھ جنگ کی مگر مارا گیا اور اس کے ساتھی قراسنقر اور لاشین وغیرہ بھی قاہرہ بھاگ گئے۔ بیدو کا سر نیزہ پر لٹکا کر لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاشین ابن طولون کی جامع مسجد کی اذان کے مینارہ پر پوشیدہ ہو گیا تھا۔

محمد الناصر کی پہلی بادشاہت: کتبغا اور اس کے ساتھ قلعہ مصر پہنچے وہاں علم الدین شجاعی تھا۔ انہوں نے سلطان اشرف بھائی محمد بن قلدان کو بلوا کر اس کے ہاتھ پر (بادشاہت کے لئے) بیعت کر لی اور اس کا لقب ناصر رکھا۔ نائب السلطنت کتبغا مقرر ہوا اور حسام الدین اتابک اور علم الدین سنجر وزیر بنا۔ (وزیرالمرات) استاز الدار رکن الدین سوس جاشکیر بنایا گیا۔

سازشیوں کا قتل: یہ سب (امراء) خود مختار اور مطلق العنان تھے۔ ناصر کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ان امراء نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی جنہوں نے بیدو کے ساتھ مل کر سلطان کے قتل کرنے کی سازش کی تھی چنانچہ انہیں قتل سولی اور قطع و برید سے ختم کیا گیا۔ نو بہ کے حاکم بہادر اور اقوش موصلی کو بھی قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں جلادی گئیں۔

سرغنوں کی رہائی: کتبغا نے لاشین اور قراسنقر کے بارے میں جو قتل کے اصل سرغنہ تھے سفارش قبول کی اور وہ دونوں پوشیدہ مقامات سے نمودار ہو کر سلطنت کے اعلیٰ مناصب پر بحال ہو گئے۔ پھر جب محمد بن سلوس اسکندر یہ سے واپس آیا تو اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر شجاعی نے اس کی جائیداد ضبط کر لی اور اسے سزا دی گئی۔ چنانچہ وہ اسی دوران فوت ہو گیا۔

عزالدین ابیک افرم صاگی کو قید سے رہا کر دیا گیا۔ اسے سلطان اشرف نے ۶۹۲ھ میں مقید کیا تھا۔

کتبغا کی بغاوت: سلطان ناصر کے ساتھ اس کے وزیر شجاعی کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے اور وہ ناصر کا خاص اور ہراز بن گیا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لے۔ چنانچہ ناصر نے ان امراء کو نظر بند کر دیا۔ ان میں سیف الدین کرجی اور سیف الدین طونجی بھی شامل تھے۔ کتبغا سے یہ واقعہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اس کی اطلاع کتبغا کو اس وقت ملی جب وہ قلعہ کے میدان میں ایک جلوس کی رہنمائی کر رہا تھا اور امراء اس کے سامنے سوار ہو کر جا رہے تھے۔ وہ اس خبر

سے بہت پریشان ہوا اور وہ شجاعی اور ناصر دونوں سے بدگمان ہو گیا۔ اتنے میں شجاعی کا ایک غلام اس جلوس میں کتبغا کی طرف بڑھا اور اسے قتل کرنے کے لئے تلوار نکالی تو اس کے ایک غلام نے اس (غلام) کو قتل کر دیا۔ کتبغا اور اس کے ساتھ کے امراء قلعہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے استاذ الدر۔ (وزیر مالیات) سوس جاشکیر کو گرفتار کر کے اسکندر یہ بھیج دیا۔ اس کے بعد فوج کو بلوا کر اکٹھا کیا اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان ناصر نے ان کے پاس ایک افسر کو (گفت و شنید کے لئے بھیجا) تو انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ شجاعی کو ان کے حوالے کیا جائے۔

وزیر شجاعی کا قتل: جب سلطان نے یہ بات نہیں مانی تو ان (امراء) نے قلعہ کا سات دن تک محاصرہ کیا اور پھر سخت جنگ شروع ہو گئی۔ قلعہ کے اندر جو فوج رہ گئی تھی وہ بھی بھاگ کر کتبغا کے محاذ پر پہنچ گئی۔ شجاعی ان کے مقابلے کے لئے نکلا مگر کچھ نہ کر سکا اور وہ سلطان کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس لئے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کیا۔ چنانچہ غلام اسے قید خانے کی طرف لے گئے، مگر راستے ہی میں اس کو قتل کر دیا۔

ممالیک کا شہر میں داخلہ: جب کتبغا اور اس کے ساتھیوں کو اس (قتل) کی اطلاع ملی تو ان کے تمام شک و شبہات دور ہو گئے اور انہوں نے سلطان سے پناہ کی درخواست کی۔ سلطان نے ان کی جاں بخشی کی۔ پھر انہوں نے سلطان سے (اس بارے میں) حلف اٹھوایا۔ جب اس نے حلف اٹھوایا تو وہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کتبغا نے عوام کو داد و دہش سے نوازا۔ اور ان تمام ممالیک کو رہا کر دیا جو شجاعی کی مداخلت کی وجہ سے (باہر) نظر بند تھے۔ کتبغا نے ان کو شہر کی مختلف سرکاری عمارتوں میں لاکر بسایا، کیونکہ وہ قریباً نو ہزار امراء تھے۔ یوں وہ شہر میں رہنے لگے۔

ممالیک کا فتنہ و فساد ۶۹۳ھ میں: جب ماہ محرم میں نئے سال کا آغاز ہوا تو ان (ممالیک) نے (فتنہ و فساد کے لئے) ایک رات مقرر کی۔ اسی رات وہ سب سوار ہو کر (باہر نکل آئے) انہوں نے قید خانوں میں سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور امراء کے گھروں کو لوٹ لیا۔ ابھی ان کا منصوبہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ صبح ہوئی۔ صبح سویرے حاجب بہادر فوج لے کر ان کے مقابلہ کے لئے پہنچ گیا۔

فساد کا قلع قمع: اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا اور وہ منتشر ہو گئے۔ ان میں سے اکثر گرفتار کر لئے گئے اور انہیں مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں کچھ قتل کر دیئے گئے باقی لوگوں کو مار پیٹ کے بعد معزول کر دیا گیا۔ عزالدین ایک فرم کو بھی رہا کر کے اسے امیر جندار کے عہدہ پر بحال کر دیا گیا۔ مگر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کا نظم و نسق برقرار ہو گیا۔ تاہم اس کا نائب کتبغا اس پر چھایا رہا اور کچھ عرصہ تک یہی صورت حال برقرار رہی۔

کتبغا کی بادشاہت

جب کتبغا اور شجاعی میں ناچاقی ہوئی اور اس کے بعد (مذکورہ بالا) فتنہ و فساد ہوا تو کتبغا بظاہر کشیدہ خاطر رہا۔ اور اپنے فرائض منصبی نیابت سے منقطع ہو کر بیمار بن گیا۔ سلطان اس کی عیادت کے لئے جاتا رہا۔ اس اثناء میں اس کے گہرے دوستوں نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بالکل خود مختار ہو کر تخت نشین ہو جائے۔ چونکہ وہ ابتداء ہی سے اس قسم کے اقتدار

کا خواہاں تھا۔ اس لئے اس نے امراء مصر کو اکٹھا کر کے انہیں اپنی (بادشاہت کے لئے) بیعت کی دعوت دی۔ انہوں نے (اس مقصد کے لئے) اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ناصر کو (بادشاہت سے) معزول کر دیا اور پھر کتبغا خود شاہی محل گیا اور وہاں تخت شاہی پر بیٹھا اور عادل اپنا (شاہی) لقب رکھا۔ اس کے بعد اس نے سلطان (ناصر) کو شاہی محل سے بالکل نکال دیا۔ وہ اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ کسی کمرہ میں رہتا تھا۔

حکام کا تقرر: کتبغا نے حسام الدین لاشین کو نائب السلطنت اور صاحب فخر الدین عمر بن عبدالعزیز خللی کو جو پہلے استاذ الدار (وزیر مالیات) تھا، وزیر مقرر کیا۔ اسے علاء الدین ابن قلاؤن ولی عہد کے دفاتر کی نگرانی سے تبدیل کر کے یہاں مقرر کیا گیا تھا کتبغا نے عز الدین ایک افرم صالحی کو امیر جنداز بہادر حلبی کو امیر حاجب اور سیف الدین منہاس کو استاذ الدار (افسر مال) مقرر کیا۔ اس نے سلطنت کے دیگر عہدے اپنے علاقوں (ممالک) کے درمیان تقسیم کر دیئے تھے۔

شام میں اقتدار: کتبغا نے شام کے حکام کو لکھا کہ وہ اس کے حق میں بیعت حاصل کریں۔ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ اس نے طرابلس کے حاکم عز الدین ایک خازندار کو گرفتار کر کے اس کے بجائے فخر الدین ایک موصلی کو حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ خازندار حصن الاکراد میں رہنے لگا اور موصلی طرابلس میں رہتا تھا اور وہ حاکم کامرکزی مقام ہو گیا۔

تاتاری جماعت کی آمد: ۶۹۵ھ میں سلطان عادل کتبغا کے پاس تاتاریوں کی ایک جماعت آئی جو اردن کے نام سے موسوم تھی۔ ان کا سردار طنطا کی تھا وہ اپنے پچازاد بھائی بدولی کجاب کا گہرا دوست تھا جو تاتاریوں کا بادشاہ تھا حاجب غازان تخت نشین ہوا تو طنطائی کو اس سے خوف لاحق ہوا۔ یہ کہ اس کے قبائل خازان اور موصل کے درمیان تھے۔

شاہ تاتار کے باغی: غازان نے ان تاتاریوں کا محاصرہ کر لیا جو مارکن سے متعلق تھے اور ان کا راستہ روک لیا۔ اس نے اپنے ایک حاکم قطر کو روانہ کیا تاکہ وہ طنطائی اور اس کے قبیلہ کے اکابر کو گرفتار کر لے۔ چنانچہ وہ اسی سواروں کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوا۔ طنطائی اور اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد دریائے فرات کو عبور کر کے وہ شام کی طرف بھاگ گئے۔

شام و مصر میں استقبال: جب دیار بکر کے تاتاریوں نے ان کا تعاقب کیا تو پلٹ کر ان پر حملہ کیا اور انہیں بھی شکست دے دی اس کے بعد سلطان عادل (کتبغا) نے سخر و ادار کو حکم دیا کہ وہ ان کا استقبال کرے۔ ان کی آمد پر نائب حاکم دمشق نے جشن منایا۔ پھر وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو شمس الدین قراسفر نے ان کا استقبال کیا اور وہ قلعہ کے دروازہ کے پاس امراء مصر کے ساتھ مل کر بیٹھنے لگے جس سے امراء ناک بھوں چڑھانے لگے اور یہی (نصرت) سلطان عادل کی معزولی کا سبب بن گئی جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔

تاتاریوں سے تعلقات: بہر حال ان تاتاری (امراء) کے آنے کے بعد ان کی قوم کے باقی افراد بھی (مصر) آ گئے۔ ان میں سے اکثر (راستے ہی میں) مر گئے تھے اب ان (تاتاریوں نے) سلطنت میں بھی اثر و رسوخ قائم کر لیا اور ترک خاندانوں کے ساتھ ان کا خلط ملط ہونے لگا۔ وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور وہ ان کی اولاد سے خدمت لینے لگے تھے

اور شادی بیاہ کے بعد ان سے رشتہ داری بھی قائم ہو گئی تھی۔

کتبغا کے خلاف سازش: مصر کے ارکان سلطنت سلطان کتبغا عادل سے اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ اس نے اپنے ممالک کو ان پر مقدم کر رکھا تھا بعد ازاں اس نے اربدانیہ تاتاریوں کو ان کے برابر درجہ دیا ہے لہذا انہوں نے اسے معزول کرنے کے لئے باہم مشورہ کیا۔

شام کا سفر: ۶۹۵ھ میں ماہ شوال میں سلطان شام کی طرف روانہ ہوا اور اس نے حاکم دمشق عز الدین ایک حموی کو معزول کر دیا اور اس کے بجائے اپنے موالی میں سے سیف الدین غزلو کو حاکم دمشق مقرر کیا۔ بعد ازاں سیروشکار کر لئے محض پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات حاکم حماة مظفر سے ہوئی۔ سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے اس کے شہر واپس کر دیا۔

امراء مصر کا متفقہ فیصلہ: جب سلطان مصر واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا تو اس وقت امراء مصر نے اسے بادشاہت سے معزول کرنے اور اس کے ممالک کا صفایا کرنے کا متفقہ فیصلہ کر لیا تھا جب (کتبغا) فلسطین کے مقام کو جاہ پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کی بیسری شہسی نے تاتاریوں سے خط و کتابت کی ہے۔ کتبغا نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور اسے سخت دھمکی دی۔ مگر امراء مصر اس بات سے مستعمل ہو گئے اور وہ اپنے فیصلے کو عمل میں لانے کے لئے متفق ہو گئے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل امراء اور ان کے ساتھیوں نے لاشین کے ہاتھ پر (بادشاہت کے لئے) بیعت کر لی (۱) بدر الدین بیسری (۲) شمس الدین قراسفر (۳) سیف الدین قحجاق (۴) بادر حلبی حاجب (۵) بکتاش فخری (۶) بیلیک خازندار (۷) اتوش موصلی (۸) بکتیر سلحدار (۹) سلار (۱۰) طغجی (۱۱) کرینی (۱۲) معطائی۔

وفاداروں کا قتل: یہ لوگ بکتوت ازرق کے خیمے میں پہنچے اور اسے قتل کر دیا جب ان کے پاس میخاص آیا تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ جب سلطان کتبغا اپنی مختصر جماعت لے کر پہنچا تو انہوں نے اس پر بھی حملہ کر کے اور شکست دے کر دمشق کی طرف بھاگا دیا۔

لاشین کی بادشاہت

آخر کار لوگوں نے لاشین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا لقب منصور رکھا۔ مگر اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ صرف اپنی تہارائے کے مطابق حکومت نہیں کرے گا۔ اس نے یہ شرط تسلیم کر لی اور مصر پہنچ کر وہ شاہی قلعہ میں داخل ہو گیا۔

دمشق میں پناہ: جب کتبغا دمشق پہنچا تو اس کا نائب حاکم سیف الدین غزلو اس سے ملا اور اس نے اسے قلعہ میں پناہ دی۔ اس نے لاشین کے مخصوص افراد اور ان امراء سے جو اس کے ساتھ تھے احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور اس کے موالی کی ایک جماعت کو بھی پناہ دی۔ اتنے میں وہ فوجیں بھی پہنچ گئیں جو وجہ میں تھیں جن کا سپہ سالار جاغان تھا۔ یہ لوگ لاشین کے حامی تھے۔ اس لئے دمشق کے بیرونی علاقے میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ یہ متفقہ طور پر لاشین کی بیعت کا اعلان کر رہے تھے۔

کتبغا کی حکومت کا قطعی خاتمہ: جب سلطان کتبغا عادل کی حکومت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا تو اس نے ہتھیار

ڈال دیئے اور اسے وہاں کے قلعے میں مقید کر دیا گیا۔ اس نے صرف دو سال بادشاہت کی۔ اب اس نے (اپنے لئے) صرف سرحد کی حکومت کے لئے درخواست کی۔ اس (درخواست) کے بعد دمشق کے امراء نے بھی لاشین کے پاس اپنی بیعت اور وفاداری کا پیغام بھیج دیا اور سیف الدین جاغان قلعہ میں داخل ہو گیا۔

حکام مصر کی تبدیلی لاشین نے اہل دمشق کو لکھا کہ کتبغا کو مصر بھیج دیا جائے اس نے کتبغا کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ اسے سرحد کی حکومت دی جائے دمشق کا (نیا) حاکم قفق منصوری بھی وہاں بھیج گیا۔ لاشین نے مصر میں رکن الدین بھروس جاشگیر اور دیگر ممالیک کو بھی قید سے رہا کر دیا۔ اس نے قراستق کو نائب السلطنت اور سیف الدین سلار کو استاذ الدار (افسر مال) اور سیف الدین بکتھرسلحدار کو امیر جند مقرر کیا۔ اس نے بہادر حلبی کو بھی اعلیٰ عہدہ دیا اور فخر الدین غلیلی کو بدستور وزیر مقرر کیا۔ تاہم (کچھ عرصے کے بعد) اسے معزول کر کے اس کے بجائے شمس الدین سنقر اشقر کو وزیر مقرر کیا۔

۶۹۶ھ کے آخر میں لاشین نے اپنے نائب قراستق اور سیف الدین سالار (افسر مال) استاذ الدار کو گرفتار کر لیا اور سلار کے بجائے اپنے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) سیف الدین منکوتمر حسامی کو (استاذ الدار) مقرر کیا اور سیف الدین قفق منصوری کو نائب السلطنت مقرر کیا۔

جامع ابن طولون کی تعمیر لاشین نے ابن طولون کی جامع مسجد کی از سر نو تعمیر کا حکم دیا اور اس کام کے لئے علم الدین سنجر دو ادارہ کو مقرر کیا۔ اس نے اس کے (تعمیری) اخراجات کے لئے اپنے ذاتی مال سے ایک لاکھ بیس ہزار دینار کا عطیہ دیا اور اس کے لئے جائیدادیں اور اراضی وقف کیں۔

ناصر کی الکرک کی طرف روانگی ۶۹۷ھ میں لاشین نے (سابق سلطان) ناصر محمد بن قلاؤن کو سیف الدین سلار استاذ الدار کے ساتھ الکرک بھیجا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے شاہی محل کے عالم زین الدین ابن مخلوف سے یہ بات کہی ”یہ میرے استاد کا فرزند ہے اور حکومت میں اس کا نائب میں ہوں اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ حکومت کر سکتا ہے تو میں ضرور اسے تخت شاہی پر بٹھاتا۔ مجھے اس وقت (اس کی جان کا) خطرہ ہے اس لئے میں نے اسے الکرک بھیجا دیا ہے۔“ چنانچہ وہ ماہ ربیع الاول میں الکرک پہنچ گیا۔

علامہ نووی تحریر فرماتے ہیں: ”اس نے اس کے ساتھ جمال الدین ابن اقوش کو بھی بھیجا تھا۔“

بیسری کی وفات: سلطان لاشین نے اسی سال اپنے نائب السلطنت منکوتمر کی شکایت پر بدر الدین بیسری شمش کو گرفتار کر لیا۔ کیونکہ (سلطان) لاشین نے (حکومت کا) کام اس کے سپرد کرنا چاہا تھا۔ مگر بیسری نے اسے اس کام سے باز رکھا اور اس کی برائی کی۔ منکوتمر نے بیسری کے ایک غلام کو پوشیدہ طور پر سلطان کے پاس بھیجا کہ یہ کہلوا یا کہ وہ (بیسری) بغاوت کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سلطان نے اسی سال کے آخر ربیع الثانی میں گرفتار کر کے اسے قید خانے میں ٹھونس دیا اور وہ قید خانے ہی میں فوت ہو گیا۔

اراضی کا نیا انتظام: سلطان نے اسی سال بہادر حلبی اور عز الدین ایک حموی کو بھی گرفتار کیا۔ سلطان لاشین نے اس سال یہ بھی حکم دیا کہ وہ جاگیریں جو گردونواح کی ہیں، لوٹا دی جائیں اور اس مقصد کے لئے اس نے حکام اور منشیوں کو بھیجا۔

اس کام کا پورا انتظام سلطنت کے محاسب اعظم (مستوفی الدولہ) عبدالرحمن الطویل نے انجام دیا۔

نئی تقسیم۔ مورخ حماد المودید نے تحریر کیا ہے ”پہلے مصر جو بمیں قیزاط (حصوں) پر تقسیم تھا ان میں چار حصے سلطان کے ہوتے تھے۔ اس میں مناصب اور تنخواہیں وغیرہ سب شامل تھیں۔ دس امراء اور اطلاق و زیادات کے لئے تھے اور دس اجناد کے لئے ہوتے تھے۔ لہذا (اب) دس حصے امراء اطلاق و زیادات اور اجناد دونوں کے ہو گئے اور چودہ حصے سلطان کے ہو گئے اس طرح لشکر دو گنا ہو گیا۔“

علامہ نووی کا بیان۔ علامہ نووی تحریر فرماتے ہیں

”مخصوص افراد کے لئے روک میں الجزیرہ طنج، میاط، منفوط اور کوم احمر کے علاقے (اضلاع) مقرر کر دیئے گئے تھے۔ نیز ۶۹۶ھ سے خراج کا سال تبدیل کر دیا گیا یہ شمار کے لحاظ سے تھا (اس کی صورت یہ ہوئی کہ) تینتیس سال گزرنے کے بعد ایک سال کا (اضافہ) ہو گیا۔ شمس اور قمری سالوں میں یہی فرق ہے۔ یہ فوج کے دفتر میں فرق دور کرنے کے لئے جو کچھ کیا گیا جو صرف قلم کی تبدیلی ہے ورنہ حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس قاعدہ کے بعد ملکی ارضی کی تقسیم کی گئی اور صرف چند محکمے (اس قاعدہ سے) مستثنیٰ کر دیئے گئے۔“

منکوتمر کی امراء سے مخالفت۔ جب سبب الدین منکوتمر نائب السلطنت مقرر ہوا تو سلطان سے خصوصی تعلقات رکھنے کی وجہ سے سلطنت کے کاموں پر چھا گیا۔ اس نے سلطان (لاشین) سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسے اپنا ولی عہد بنائے۔ دیگر امراء (مصر) نے اس مطالبہ کو پسند نہیں کیا اور سلطان کو اس سے باز رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکوتمر ان کا مخالف ہو گیا۔ اور (سلطان سے) ان کی شکایتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اس نے بعض امراء کو گرفتار کر لیا اور باقی گرد و نواح میں بھاگ گئے۔

ارمینیا پر فوج کشی۔ سلطان نے ۶۹۷ھ میں سیس اور ارمینیا کے شہروں پر فوج کشی کے لئے مندرجہ ذیل امراء و حکام کو روانہ کیا۔ (۱) بکتاش امیر سلاح (۲) قراسنقر (۳) بکتیر سلاح دار (۴) ترلار (۵) تمر از (۶) النبی حاکم صغد (۷) حاکم طرابلس (۸) حاکم حماة۔ ان کے بعد علم الدین سخر و ادرابو بھی روانہ کیا۔

ارمینیا کے قلعوں کی تسخیر۔ سیس کے ایلچی ان کے پاس آئے (مگر وہ نہیں مانے) وہ وہاں تین دن تک قتل و غارت کرتے رہے اور وہاں کا صفایا کر دیا۔ پھر وہ بغراس پہنچے وہاں سے وہ مرج انطاکیہ گئے اور وہاں وہ تین دن تک مقیم رہے۔ پھر وہ بلاد الروم میں جسر الحدید پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے تل حمدون کا قصد کیا تو اسے ویران پایا۔ کیونکہ وہاں کے ارمینی باشندے قلعہ نجمیہ چلے گئے تھے انہوں نے قلعہ مرعش کو فتح کر لیا اور قلعہ نجمیہ کا چالیس دن تک محاصرہ کیا، آخر کار مصالحت کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ (اس یلغار میں) انہوں نے گیارہ قلعے (ارمینیا کے) فتح کئے، ان میں مصیصہ اور حموم کے قلعے بھی شامل تھے۔ ان کے باشندوں نے خوف زدہ ہو کر اطاعت قبول کر لی تھی اور فوجیں حلب واپس آ گئیں۔

تاتاری حملہ کی افواہ۔ سلطان لاشین کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری شام پر حملہ کرنے والے ہیں لہذا اس نے فوجیں جمال الدین اقوش افرم کی قیادت میں دمشق روانہ کیں اور اسے حکم دیا کہ وہ دمشق سے فوجیں نکال کر قفق (نائب حاکم) کے ساتھ

حلب پہنچے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو کر حمص پہنچا اور وہاں مقیم ہو گیا۔ پھر انہیں یہ اطلاع ملی کہ تاتاری فوجیں واپس چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد بکتھر کی شکایت سے متاثر ہو کر سلطان نے سیف الدین طباطبائی کو حکم دیا کہ وہ بکتھر سلجوقی اور حاکم صفد النبی، نیز حلب کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لے۔ طباطبائی نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

حمص میں پناہ۔ تدار بسار کے مقام کی طرف چلا گیا جہاں وہ فوت ہو گیا، مگر باقی امراء اپنے (مقام پر) ڈٹے رہے۔ جب انہوں نے (خطرہ) محسوس کیا تو وہ حمص کے نائب حاکم فقیح کے پاس بھاگ آئے جہاں اس نے انہیں پناہ دے دی اور پھر ان کے بارے میں سلطان کو سفارش کا خط لکھا مگر سلطان نے اس کا جواب دینے میں تاخیر کی۔

امراء کا فرار۔ سیف الدین کرجی اور علاء الدین ایدغرئی نے پناہ دینے پر اسے معزول کر دیا۔ اس پر اسے شک و شبہ ہوا۔ سلطان نے اس کے بجائے دمشق کا حاکم جاعان کو مقرر کیا۔ اس نے فقیح سے انہیں (بھج دینے کا) مطالبہ کیا تو وہ روانہ ہو گئے اور اس کا لشکر بھی منتشر ہو گیا۔ اس نے دریائے فرات کو عبور کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق پہنچ گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے حمص کے نائب حاکم کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے ساتھ لے گئے تھے۔

دشمن کے علاقے میں۔ جب وہ دشمن کے ملک میں پہنچ چکے تو انہیں سلطان لاشین کے قتل کی خبر ملی، لہذا اب ان کے لئے واپس جانا ممکن نہ تھا۔ اس لئے وہ واسط کے قریب نازان (شاہ تاتار) کے دربار میں حاضر ہوئے۔ فقیح کا تاتاری فوج سے تعلق تھا۔ اس کا باپ غازان کی خاص فوج میں شامل تھا۔

فیروز کا قتل۔ جب سلطان (مصر) لاشین اور غازان (شاہ تاتار) کے درمیان جنگ چھڑی تو اس موقع پر غازان کے اتابک فیروز کی اپنے بادشاہ سے ناچاقی ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے سلطان لاشین کو وہاں پناہ گزین ہونے کے لئے خطوط لکھے تھے جس کا غلام غازان ہو گیا تھا۔ اس لئے اس نے قتلو شاہ نائب حاکم کو (اسے بارے میں) حکم دیا اور اس نے اسے گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ غازان نے بغداد میں اپنے دونوں بھائیوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔

منکوتمر کی چغتل خوری۔ سلطان لاشین نے اپنی سلطنت کے تمام کام اپنے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) منکوتمر کے سپرد کر دیئے تھے۔ مگر اس نے دست درازی شروع کر دی اور مطلق العنان بننے کی کوشش کی۔ امراء مصر نے اس کی حرکتوں کو پسند نہیں کیا تو اس نے سلطان کو ان کے خلاف بھڑکا دیا اور انہیں سزائیں دلوائیں یا انہیں دوردراز بھگا دیا تھا۔

امراء کی مخالفت۔ ان میں سے سیف الدین کرجی جاشنگیر کا سردار تھا۔ اسی طرح قراستقر بھی اشرف کے ساتھ تھا اور ممالیک کی جماعت اس کی حامی تھی۔ منکوتمر نے اسے ان قلعوں کا حاکم بنانا چاہا تھا جو ارمینیا اور سیس (ارمینیا خورد) کے علاقوں میں فتح ہوئے تھے، مگر اس نے معذرت پیش کی (عہدہ قبول نہیں کیا) اور منکوتمر کے خلاف شکایتیں کرنے لگا۔ اس نے فقیح کے معاملے میں جو جاشنگیر یہ جماعت کا سردار تھا اس کی حمایت کی۔ طق جسی بھی جاشنگیر یا جماعت کے ایک بڑے سردار ططنائی کا رشتہ دار تھا۔ ایک دن منکوتمر نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی، جس سے وہ (ططنائی) بہت رنجیدہ ہوا اور وہ

دوڑتا ہوا کرجی اور طحی کے پاس آیا تو وہ سب سلطان کو اچانک قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔

لاشین کا قتل: ان امراء نے رات کے وقت سلطان کے محل کا قصد کیا، جب کہ وہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس حنفیہ کا قاضی حسام الدین بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کرجی نے بتایا کہ غلاموں کے نہ آنے کے لئے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اس نے یہ بات پسند نہیں کی، تاہم کرجی اس کے سامنے اپنی تمام کارروائی کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار کو ایک رومال میں چھپا لیا۔

جب سلطان عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھا تو اس نے تلوار نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت سلطان کی تلوار نہیں ملی۔ اس لئے سب نے مل کر اپنی تلواروں سے اس پر پے در پے حملے کئے۔ یہاں تک کہ سلطان قتل ہو گیا۔ انہوں نے قاضی کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

منگوتمر کا قتل: وہاں سے نکل کر کرجی طحی کے پاس گیا۔ جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ دونوں مل کر منگوتمر کے پاس گئے تو اس نے طحی سے پناہ مانگی تو اس نے اس کی جاں بخشی کر کے اسے ایک کنوئیں کے اندر بند کر دیا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور یہ فیصلہ کیا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہ بھی مارا گیا۔

لاشین کا مختصر حال: لاشین کا قتل ماہ ربیع الاول ۶۹۸ھ میں ہوا۔ وہ علی بن المعز ایک کا غلام تھا۔ جب وہ قسطنطنیہ جلاوطن ہوا تو وہ اسے قاہرہ چھوڑ گیا تھا۔ منصور قلاؤن نے مالک کے عاتبانہ قاضی کے ذریعے اسے ایک ہزار درہم میں خرید لیا وہ لاشین صغیر کے نام سے موسوم تھا۔ کیونکہ لاشین کے نام کا اس سے بڑی عمر کا ایک حاکم اور بھی تھا جو اس سے عمر میں بڑا تھا اور وہ حمص کا نائب حاکم تھا۔

حلب سے امراء کی آمد: لاشین کے قتل کے بعد امراء مصر اکٹھے ہوئے ان میں رکن الدین بھرس جاشگیر، سیف الدین سلار اور فرمال اور حسام الدین لاشین رومی بھی شامل تھے۔ ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہو کر سیس (ارمینیا) کے علاقے سے جمال الدین اتوس فرم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دمشق سے نائب حاکم اور فوجوں کو حمص روانہ کر کے دمشق سے واپس آیا تھا۔ اس کے علاوہ عز الدین ایک خزندار اور بدر الدین سلمدار بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے قلعہ کی حفاظت کی اور الکراک میں ناصر محمد بن قلاؤن کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ مصر آ کر بادشاہت کا کام سنبھال لے۔

طحی کا قتل: اس وقت طحی نے خود تخت نشین ہونے کا ارادہ کیا تھا مگر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ امراء جو حلب میں تھے وہ سیس (ارمینیا) کی فتوحات کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سیف الدین کرجی، حسام الدین سرقتشاہ بھی تھے اور ان کا سپہ سالار بدر الدین بکتاش امیر سلاح تھا۔ (جب وہ قاہرہ کے قریب پہنچے تو امراء نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سوار ہو کر ان کے استقبال کے لئے جائے۔ اس نے پہلے بہل تو ناک بھون چڑھائی پھر (بادل ناخواست) سوار ہو کر گیا اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس سے سلطان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ 'وہ قتل کر دیا گیا ہے'۔ لہذا ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔

کرجی کا قتل: اس وقت کرجی (اصل قاتل) قلعہ کے قریب تھا۔ وہ فوراً سوار ہو کر بھاگ گیا۔ اسے قبرستان کے قریب پکڑ

کر قتل کر دیا گیا اور بکناش اور دیگر امراء قلعہ میں داخل ہو گئے۔

امراء مصر کی حکومت پھر یہ امراء مصر میں (مشورہ کے لئے) اکٹھے ہوئے مشورہ میں یہ امراء شریک تھے (۱) سالار (۲) بیہرس (۳) ایک جامدار (۴) اقوش افرم (۵) بکتمر امیر جندار (۶) کرت الحاجب۔ یہ لوگ الکرک سے ناصر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے دمشق کے امراء کو اپنی کارروائی سے مطلع کیا تو انہوں نے ان کی حمایت کی۔

انہوں نے بہاء الدین قرارسلان سیفی کو جاغان حسامی کو گرفتار کرنے کے لئے دمشق بھیجا۔ چنانچہ اس نے اسے گرفتار کر کے مقید کر دیا اور وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ مصر کے امراء نے اس کے بجائے سیف الدین قطلوبک منصورى کو (دمشق کا حاکم بنا کر) بھیجا۔

سلطان ناصر کی دوبارہ حکومت ناصر محمد بن قلاؤن ماہ جمادی الاولیٰ ۶۹۸ھ میں مصر پہنچ گیا اور اہل مصر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس نے سالار کو نائب السلطنت بیہرس کو افرمال بکتمر جو کندار کو امیر جندار اور شمس الدین اعمر کو وزیر مقرر کیا۔

حکام کا تقرر اس نے فخر الدین خلیلی کو مقرر کرنے کے بعد اسے معزول کر دیا۔ اس نے سیف الدین قطلوبک کے بجائے جمال الدین اقوش افرم کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے سیف الدین قطلوبک کو مصر بلا کر اسے حاجب مقرر کیا۔ سیف الدین کرت کو طرابلس کا حاکم بنا کر بھیجا گیا اور قلعوں کا حاکم سیف الدین کر اسی مقرر ہوا۔ سلطان ناصر نے بلقان طباخی کو حلب کا حاکم برقرار رکھا۔ اس نے قراسنقر منصورى کو قید سے رہا کر کے اسے ضیئہ کا حاکم بنا کر بھیجا۔ اور جب سال کے آخر میں اسے حاکم حماہ مظفر کی وفات کی خبر ملی تو اس نے قراسنقر حماہ کا حاکم مقرر کیا۔

سلطان نے امراء میں خلعت تقسیم کئے اور لوگوں کو سخاوت اور بخشش سے مالا مال کیا۔ یوں اس کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔ البتہ بیہرس اور سالار اس پر چھائے رہے۔

تاتاریوں کی فوج کشی: یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تاتاریوں اور اہل مصر کی حکومتوں کے درمیان ناچاقی ہو گئی تھی اور غازان نے شام پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں اکٹھی کر لی تھیں۔ اس نے شلامش بن اماں ابن بکو کو پچیس ہزار مغل فوج دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ اپنے بھائی ققطلو کو بھی روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ سیس (ارمینیا) کی سمت سے حملہ کرے۔

سپہ سالار کی بغاوت اس نے کوچ کیا مگر (آگے چل کر) وہ خود بادشاہ بن بیٹھا اور فوج کو اپنا مطیع بنایا اور پھر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس نے ترکمانوں کے سردار ابن قزحان کو بھی لکھ کر بلوایا تو وہ دس ہزار سواروں کو لے کر اس کے پاس پہنچا یوں وہ ساٹھ ہزار سواروں کو لے کر روانہ ہوا۔ جب اس نے سیواس پر حملہ کیا تو وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے مخلص رومی کو مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج کر امداد طلب کی تو سلطان مصر نے دمشق کے نائب حاکم کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی مدد کرے۔

شاہ مصر کی امداد: جب غازان (شاہ تاتار) کو (بغاوت کی) یہ خبر ملی تو اس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک تاتاری سپہ سالار مولائی کی قیادت میں پینتیس ہزار سوار بھیجے۔ جب وہ سیواس پہنچا تو شلامش کا لشکر اس سے الگ ہو گیا اور تاتاری

فوجیں مولائی کی فوج میں چلی گئیں اور ترکمانی فوج پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ شلا مش خود اپنی شکست خوردہ فوج کو لے کر سیس بھاگ گیا اور وہاں سے دمشق کے راستے مصر پہنچا۔ اس نے سلطان الاشمن سے درخواست کی کہ وہ اسے فوجی امداد فراہم کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کو شام میں منتقل کر سکے۔ لہذا سلطان نے حلب کے نائب حاکم کو حکم دیا کہ وہ اس قسم کی مدد فراہم کرے اس نے اس کے ساتھ بکتھر حلبی کی قیادت میں ایک فوج بھیجی اور وہ سب سیواس پہنچے وہاں تاتاری فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔

باغی فوج کی شکست اس نے انہیں شکست دی جس میں بکتھر حلبی مارا گیا۔ شلا مش جان بچا کر کسی قلعہ میں پناہ گزین ہوا مگر غازان نے اسے وہاں سے نکلا کر اسے قتل کر دیا، مگر اس کا بھائی قطقطو اور مخلص رومی مصر پہنچ گئے جہاں ان دونوں کو جاگیریں دی گئیں اور انہیں مصری فوج میں شامل کر لیا گیا۔

ناصر کی فوج کشی جب ناصر بادشاہ ہوا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ غازان شام پر فوج کشی کرنے والا ہے۔ لہذا اس نے فوجیں تیار کیں۔ پہلے اس نے قطبلک کبیر اور سیف الدین غزالی کی قیادت میں فوجیں بھیجیں پھر ان کے پیچھے پیچھے ۱۶۹۸ھ کے آخر میں وہ بھی فوج لے کر روانہ ہو گیا۔

سازش کا قلع قمع جب سلطان ناصر غزہ پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بعض ممالیک (غلام) اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اریدانیہ (تاتاریوں کی جماعت) جو کتبغا کے پاس آئی ہوئی تھی اس سازش میں شریک ہے۔ ابھی وہ اس خبر کی تحقیق کر رہا تھا کہ انہی لوگوں کا ایک غلام تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے اور فوجوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جب کہ وہ غزہ کے باہر صرف آراء تھیں وہاں پہنچا، وہ تو اسی وقت مارا گیا اور جب اس اچانک واقعہ کے بعد تحقیقات کی گئی تو اصل حقیقت ظاہر ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اریدانیہ جماعت اور ان کے سردار طرطنانی کا کام تمام کیا گیا نیز ممالیک کے کچھ افراد کو قتل کیا گیا اور باقی افراد کو لکڑک میں مقید کر دیا گیا۔

تاتاریوں سے مقابلہ سلطان وہاں سے عسقلان گیا۔ پھر دمشق پہنچا۔ وہاں سے روانہ ہو کر اس نے (شاہ تاتار) غازان سے سلمیہ اور حمص کے درمیان مجمع المروج کے درمیان مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ کرج اور ارمن کی فوجیں تھیں اور اس کی اگلی فوج میں وہ ترک امراء تھے جو شام سے بھاگے ہوئے تھے ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ فقیح منصور، بکتھر سلجوقی اور سیف الدین غزالی۔

ناصر کی شکست فریقین میں رجب الاول کی پندرہویں تاریخ کو مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں تاتاریوں کے مینہ (دائیں طرف کی فوج) کو شکست ہوئی۔ مگر شاہ غازان ثابت قدم رہا۔ پھر اس نے (اسلامی لشکر کے) قلب (درمیانی حصہ) پر حملہ کیا۔ اس وقت (سلطان) ناصر کو شکست ہوئی اور بہت سے (مسلم) امراء شہید ہو گئے جن میں حسام الدین قاضی حنفیہ اور عماد الدین اسماعیل ابن الامیر بھی شامل تھے۔ غازان وہاں سے حمص گیا اور شاہی ذخیروں پر قابض ہو گیا۔

اہل دمشق میں بے چینی (شکست کی) یہ خبر دمشق پہنچی تو عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور ان میں شور و غل برپا ہو گیا۔

لہذا مشائخ و علماء کی ایک جماعت غازان (شاہ تاتار) سے ملاقات کے لئے نکلی جن کی پیشوائی شیخ بدرالدین بن جماعہ، شیخ تقی الدین بن تیمیہ اور شیخ جلال الدین قزوينی کر رہے تھے اس وقت شہر میں بد نظمی پھیلی ہوئی تھی۔

مشائخ کی غازان سے ملاقات: مشائخ و علماء نے غازان سے پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا: ”امن و امان کا حکم نامہ تمہارے خلاف ہے۔“ اس عرصہ میں اس کے امراء بھی آگئے جن میں اسماعیل بن الامیر اور شریف رضی بھی شامل تھے۔ اس نے نامہ امان جسے ان کی زبان میں فرمان کہتے ہیں پڑھ کر سنوایا۔ اس کے بعد امراء شہر کے باہر کے باغوں میں پیدل گھومنے لگے۔ علم الدین سلحدار قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اسماعیل نے اسے پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اسے پناہ دے دی جائے گی مگر اس نے انکار کیا۔

قلعہ دمشق کی حفاظت: اس نے دمشق کے مشائخ اور علماء کو اس کے پاس بھیجا مگر وہ اپنے فیصلہ پر ڈٹا رہا (اس نے قلعہ دمشق تاتاریوں کے حوالے نہیں کیا) کیونکہ سلطان نے پوشیدہ پیغام سے قلعہ کی حفاظت کے لئے پہنچایا تھا (اور تحریر کیا تھا کہ) امدادی فوج غزہ کے مقام پر موجود ہے۔

اتنے میں فتح بکتر وہاں پہنچ گیا تو وہ میدان میں مقیم ہو گئے انہوں نے محافظ قلعہ خنجر کو اطاعت کا پیغام بھیجوایا تو اس نے انہیں بری طرح جواب دیا اور کہا ”سلطان (ناصر) پہنچ رہا ہے اور اس نے تاتاری فوج کو جو اس کا ثقل ہے کر رہی تھی شکست دے دی ہے۔“

غازان کے نام کا خطبہ: آخر کار فقین دمشق کے اندر پہنچ گیا، اس نے (شاہ تاتار) غازان کا وہ فرمان پڑھ کر سنایا جس میں اسے دمشق اور شام کے تمام علاقے کی حکومت سپرد کر دی گئی تھی اور اسے قاضی کا اختیار بھی دیا تھا۔ اس نے جامع دمشق میں غازان کے نام کا خطبہ پڑھا۔

دمشق اور مضافات کی تباہی: اب تاتاری فوجیں شہر دمشق میں گشت کرتی تھیں اور فتنہ و فساد برپا کرتی تھیں ان کا یہی طریقہ صالحیہ اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں اور غزہ اور دریا میں بھی رہا۔ (یہ خطرناک حالت دیکھ کر) شیخ ابن تیمیہ (گھوڑے پر) سوار ہو کر شیخ الشیوخ نظام الدین محمود شیبانی کے پاس پہنچے جو عادلہ میں مقیم تھے ابن تیمیہ شیخ الشیوخ کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے گئے اور وہاں سے مفندوں کو نکلوا یا۔

(شہر کے) مشائخ شکایت کرنے غازان (شاہ تاتار) کے پاس بھی پہنچے مگر انہیں ملاقات کرنے سے روک دیا گیا، مبادا کہ وہ تاتاریوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور اس سے اختلاف پیدا ہو اور اس نتیجے میں شہر والوں پر تباہی نازل ہو لہذا وہ وہاں سے لوٹ کر وزیر سعد الدین اور ارشد الدین کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کے جنگی قیدی چھوڑ دیئے۔

اہل دمشق پر بھاری تاوان: اہل دمشق میں یہ افواہ اڑ گئی کہ شاہ غازان نے شہر کو لوٹنے کی اجازت دے دی ہے (یہ خبر سن کر) لوگ پریشانی کی حالت میں شیخ الشیوخ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے اپنے اوپر چار لاکھ درہم (تاوان) مقرر کر لیا۔ چنانچہ عوام سے مار پیٹ اور قیدی سزادے کرزبردستی یہ تاوان ادا کرایا گیا۔ یہاں تک کہ یہ مکمل ہو گیا۔

جامع اموی کی بے حرمتی: تاتاری فوجیں مدرسہ عادلہ میں مقیم ہوئیں تو قلعہ کے حاکم ارجوش نے اس میں آگ لگا دی اور قلعہ پر جامع اموی کی چھت کے قریب منجیق نصب کرادی گئی۔ انہوں نے اس میں آگ لگا دی۔ چنانچہ اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ مثل فوجیں اس کی حفاظت کرتی تھیں مگر انہوں نے جامع مسجد کی ہر طرح سے بے حرمتی کی۔ اہل قلعہ نے بھی حملہ کیا اور انہوں نے اس نجاہ (بڑھی) کو قتل کر دیا جو منجیق بنا تا تھا۔ حاکم قلعہ نے اس کے ارد گرد کے تمام مکانات مدارس عمارتیں اور دارالسعادہ کو تباہ و برباد کر دیا اور جو نہیں کر سکتے تھے اس کا مطالبہ کیا۔

مساجد و مدارس کی تباہی: (اس زمانے میں) قاضیوں اور خطیبوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ مساجد میں نماز باجماعت اور جمعہ کا پڑھنا بھی موقوف ہو گیا اور بری طرح قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ یہاں تک کہ علم حدیث کی درسگاہیں اور مدارس بھی تباہ و برباد ہو گئے۔

فتحیق کا تقرر: غازان (شاہ تاتار) نے دمشق اور شام کے پورے علاقے پر فتحیق کو حاکم مقرر کیا اور حماة و حمص کا حاکم بکتر سلحدار کو بنایا اور صغد و طرابلس اور ساحلی علاقوں کا حاکم فارس الہکی کو مقرر کیا۔ اس نے اپنا نائب قطلوشاہ کو مقرر کیا اور شام کی حفاظت کے لئے اس کو ساٹھ ہزار کی فوج دی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہو گیا اور اپنے ساتھ اپنے وزیر بدرالدین فضل اللہ شرف الدین ابن الامیر اور علماء الدین قلائی کو ساتھ لے گیا۔

قطلوشاہ (نائب) نے قلعہ دمشق کا محاصرہ کر لیا مگر وہ اس سے فتح نہ ہو سکا۔ لہذا اس نے کوچ کرنے کا قصد کیا۔ فتحیق (حاکم شام) نے اس سال کے جمادی الاولیٰ میں رذیل انزہ کو بھی اس کے ساتھ شامل کرایا۔ اب فتحیق (بلا شرکت غیرے) تنہا حاکم ہو گیا اور اس نے کسی حد تک امن و امان قائم کیا۔ اس نے اپنے ممالک (غلاموں) کو افر مقرر کیا۔

تاتاری لشکر میں جو ترک فوجوں کے دستے تھے وہ بھی دمشق سے واپس چلے گئے وہ بیت المقدس غزہ اور رملہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ ان کا سپہ سالار اس وقت تاتاری امیر مولائی تھا۔ شیخ ابن تیمیہ اس کے پاس گئے اور اس سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اس نے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔

سلطان کی دوبارہ فوج کشی: سلطان ناصر قلعہ دمشق پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ کتبغا العادل بھی آ گیا تھا۔ وہ اپنے مرکز حکومت صرخند سے جنگ میں شریک ہو اور جب شکست ہو گئی تو وہ بھی سلطان کے پاس مصر آ گیا اور نائب السلطنت سلار کی ملازمت میں رہنے لگا۔ یہاں آ کر سلطان نے فوجی انتظامات درست کئے اور ان پر دل کھول کر مال و دولت خرچ کی۔ پھر وہ صالحیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

سابق حکام کی آمد: سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ غازان شام سے کوچ کر گیا ہے اب اس کے پاس حاکم حلب بلیمان الطباخی طرابلس کے راستے پہنچ گیا تھا۔ نیز حاکم دمشق جمال الدین افرم اور سیف الدین کرائی حاکم طرابلس

... بھی پہنچ گئے۔ سلطان نے ان کی فوجیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی کہ غازان کا نائب قطلوشاہ بھی غازان کے بعد شام سے چلا گیا ہے۔

شام پر دوبارہ قبضہ: لہذا (سلطان کا سپہ سالار) بیہرس فوج لے کر آگے بڑھا تو اس کے اور قفق (موجودہ حاکم شام) اور بکتر والیکی کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور ان سب نے اطاعت کا اظہار کیا اور وہ بیہرس و سلار کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اسی سال کے ماہ شعبان میں انہیں سلطان کے پاس بھیج دیا۔ وہ صالحیہ میں مقیم تھا (جب اسے ان کی آمد کی اطلاع ملی تو) وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ملاقات کے لئے گیا اور ان کا سرگرمی کے ساتھ استقبال کیا اور انہیں جاگیریں عطا کیں۔ اس نے قفق کو قلعہ رشوبک کا حاکم بنا دیا۔

شامی حکام کا تقرر: اس کے بعد سلطان نے مصر واپس جانے کے لئے کوچ کیا۔ بیہرس اور سلار بھی مصر چلے گئے۔ انہوں نے جمال الدین افروش افرم کو دمشق کا حاکم بنایا اور حلب کا نائب حاکم قرار دیا۔ منصور نے جو کھنڈار کو مقرر کیا کیونکہ بلقان طباخی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ طرابلس کا حاکم سیف الدین قطلبک کو مقرر کیا گیا اور حماہ کا حاکم کتبغا کو بنایا گیا۔ دمشق کا قاضی بدر الدین بن جماعہ کو مقرر کیا گیا۔ کیونکہ امام الدین بن سعد الدین قزوینی فوت ہو گئے تھے۔ بیہرس اور سلار مصر شوال کی پندرہویں تاریخ کو واپس آ گئے تھے۔

(جب افرم حاکم کی حیثیت سے دمشق پہنچا تو) اس نے اہل دمشق میں سے ہر اس شخص کو سزا دی جس نے تاتاریوں کی مذمت کی تھی۔ اس نے جبل کسرداں اور درزیہ (دروزیوں) پر بھی فوج کشی کی کیونکہ انہوں نے شکست کے موقع پر (مسلمان) فوجوں کو نقصان پہنچایا۔ اس نے اہل دمشق کے لئے تیر اندازی اور ہتھیاروں کا استعمال کرنا ضروری قرار دیا۔ اسی زمانے میں اہل دمشق و مصر کے لئے چار مہینے کے لئے (مزید) محصول ادا کرنا اور دیہاتوں کی حفاظت ضروری قرار دی گئی۔

۶۰۰ھ میں یہ افواہیں بار بار گشت کرتی رہیں کہ تاتاری فوج تارک و حرکت کر رہی ہے لہذا سلطان (مصر) نے رعایا پر ٹیکس بڑھا دیئے تاکہ اس کی فوج مزید طاقت ور ہو جائے۔ جب یہ زائد محصول قبول ہو گئے تو وہ (طانتور) فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ وہ غزہ میں چند دنوں تک مقیم رہا اور وہاں رہ کر فوجی انتظامات کرتا رہا۔ پھر اس نے دو ہزار سوار دمشق کی طرف بھیجے اور خود مصر ماہ ربیع الآخر کے آخر میں واپس آ گیا۔

غازان کی دوبارہ فوج کشی: جب غازان فوج لے کر روانہ ہوا تو علاقوں کی رعایا پہلے سے بھاگ گئی تاہم (اس کی فوج اس قدر زیادہ تھی کہ) راستے اور (بڑے بڑے) میدان ان کے لئے تنگ ثابت ہوئے وہ خود حلب اور مرس کے درمیان مقیم ہوا اور جنگ شروع کی۔ اس نے انطاکیہ اور جبل السمر تک تمام شہروں کا صفایا کر دیا۔ (آخر میں) سخت سردی کثرت باراں اور کچھڑ اور دلدل ان کے راستے میں رکاوٹ بنے نیز خوراک اور غلہ کی قلت بھی ہو گئی اور سخت برف باری سے چراگاہیں بھی تباہ ہو گئی۔ ایسی حالت میں وہ اپنے وطن کی طرف کوچ کر گئے۔

سلطان مصر نے بکتر سلحدار حاکم صغد کو شام کی طرف فوجیں دے کر بھیجا تھا اور اس کے بجائے سیف الدین فحاص منصور کی کو حاکم (صغد) بنایا تھا۔ پھر غازان اور سلطان ناصر کے درمیان خطوں اور ایلیچوں کا تبادلہ ہوا۔ سلطان نے حمص پر فارس الدین الکی کو حاکم مقرر کیا۔

مستکفی کی خلافت

عباسی خلیفہ حاکم بامر اللہ احمد کو سلطان ظاہر نے ۱۶۰ھ میں خلیفہ بنایا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ ۱۷۷ھ میں فوت ہوا۔ اس کی مدت خلافت اکتالیس سال تھی۔ اس نے اپنے فرزند ابوالریح سلیمان کو ولی عہد بنایا تھا۔ چنانچہ سلطان ناصر نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور اس کا لقب المستکفی رکھا۔

بدوؤں کی سرکوبی: مصر کے بالائی حصہ (صحیحہ) سے وہاں کی رعایا نے عرب بدوؤں (کے مظالم) کی شکایات بکثرت ارسال کیں۔ جب ان کا فتنہ و فساد حد سے بڑھ گیا تو سلطان نے شمس الدین قراسنقر کو فوج دے کر ان کے خلاف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان کا صفایا کر دیا اور وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہوئے سلطان نے ان پر یہ محسولات مقرر کئے: ”وہ پندرہ لاکھ درہم (نقد) ادا کریں گے۔ انہیں ایک ہزار گھوڑے دو ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیر بکریاں ادا کرنی ہوں گی“۔ انہوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں مگر بعد میں غداروں کی تو نگران سلطنت سلار اور بیہوس نے ان پر فوج کشی کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا (فوجی) ان کے مال و دولت اور مویشیوں کو لوٹ کر لے گئے۔

مکہ معظمہ کے حکام کی گرفتاری: اس کے بعد بیہوس نے اجازت لے کر فریضہ حج ادا کرنے کے لئے نکلا۔ اس وقت مکہ معظمہ کا حاکم ابونہی فوت ہو گیا تھا اور اس کے دو فرزند حبیب و خمیسہ مکہ معظمہ میں حکومت کر رہے تھے ان دونوں نے اپنے دو بھائیوں عطیفہ اور ابوالمغیث کو قید کر رکھا تھا لہذا وہ قید خانے میں سے نکل کر نکل آئے اور بیہوس کے پاس پہنچ کر اپنے دونوں بھائیوں کے خلاف فریاد کرنے لگے۔ بیہوس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں قاہرہ لے آیا۔

جزیرہ ارواد کی فتح: ۱۷۰ھ میں جنگی کشتیاں اور بیڑے چنگ جو نوجہوں سے بھر کر جزیرہ ارواد کی طرف گئے جو بحر طروش میں واقع ہے۔ وہاں فرنگیوں کی بڑی جماعت تھی۔ جنہوں نے وہاں سے بنوا کر رہائش اختیار کر رکھی تھی (جب وہ وہاں پہنچے تو) انہوں نے اس جزیرہ کو فتح کر لیا اور اس کے باشندوں کو قیدی بنا کر اس جزیرہ کو تباہ اور ویران کر دیا اور اس کے نام و نشان مٹا دیئے۔

غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ: ۱۷۰ھ میں مغرب کا ایک وزیر پیغام رسانی کے سلسلے میں (مصر) آیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ ذمی (غیر مسلم) نہایت خوش حال ہیں اور وہ ارکان سلطنت کے کاموں میں دخل دیتے ہیں۔ اس نے اس بات کو ناپسند کیا اور اس کی ناپسندیدگی کی خبر سلطان تک پہنچی تو اس نے (مصر) کے تمام علماء اور فقہاء کو جمع کیا تاکہ وہ اس طرز عمل کی حد بندی کر سکیں اور وہ طریقہ اختیار کر سکیں جو (ابتدائی) اسلامی فتوحات کے زمانے میں ذمیوں کے ساتھ معاہدات کے ذریعے اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان تمام علماء کا متفقہ فیصلہ مندرجہ ذیل تھا۔

معاہدہ کے الفاظ: ذمیوں (غیر مسلموں) کا جداگانہ اور مخصوص شعار ہونا چاہئے۔ جس سے وہ پہچانے جاسکیں۔ مثلاً عیسائیوں کے لئے سیاہ عمامہ مخصوص ہو اور یہودیوں کے لئے زرد عمامہ اور ان کی خواتین کے لئے بھی خاص علامات ہونی

چاہئے۔ غیر مسلم (ذمی) کسی گھوڑے پر سوار نہ ہوں اور نہ وہ ہتھیار استعمال کریں۔ جب وہ گدھوں پر سوار ہوں تو انہیں عرض میں سوار ہونا چاہئے اور وہ راستے کے درمیانی حصے سے الگ رہیں وہ مسلمانوں کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں اور نہ مسلمانوں کی عمارتوں سے زیادہ اونچی عمارت تعمیر کریں۔ وہ اپنے (مذہبی) شعائر کا (کھلم کھلا) اظہار نہ کریں اور نہ ناقوس (زور سے) بجائیں۔ انہیں کسی مسلمان کو یہودی یا عیسائی بنانے کا اختیار نہیں ہے۔

(غیر مسلم) ذمی کسی مسلمان غلام کو نہ خریدیں اور نہ کسی مسلم جنگی قیدی پر قبضہ کریں اور نہ وہ چیز خریدیں جو مسلمانوں کے حصوں میں آچکی ہو۔

ان میں سے جو کوئی (حام) حمام میں داخل ہو تو وہ اپنے گلے میں گھنٹی باندھ لے جس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ وہ انگوٹھی کے گینے کا عربی میں نقش نہ کندہ کرائیں اور نہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ وہ کسی مسلمان سے سخت محنت نہ لیں اور نہ آگ کو بلند کر کے روشن کریں۔ ان میں سے جو کوئی مسلمان عورت سے زنا کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔

معاہدہ کی تصدیق: (جب یہ معاہدہ پڑھ کر ان غیر مسلموں کو سنایا گیا تو) عیسائیوں کے بڑے مذہبی پادری نے معتبر گواہوں کے سامنے یہ کہا: ”میں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی اور مخالفت کو حرام قرار دیا ہے۔“ یہودیوں کے بڑے سردار نے یہ کہا: ”میں نے اس معاہدہ پر دستخط کر کے اسے اپنے ہم مذہبوں اور گروہ کے لئے لازمی قرار دے دیا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاہدہ: مناسب ہے کہ اس موقع پر ہم اس معاہدہ کی نقل پیش کریں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصر و شام کے عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس کی عبارت یہ ہے:

”شام و مصر کے عیسائیوں کی طرف سے امیر المؤمنین (حضرت) عمرؓ کے نام یہ تحریر (معاہدہ) ہے: ”جب آپ (مسلمان) ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنی اور اپنی اولاد کی جان مال اور ہم مذہبوں کی حفاظت کے لئے آپ سے درخواست کی تھی اور ہم نے اپنے اوپر یہ شرائط عائد کر لی ہیں۔“

معاہدہ کی شرائط: ”ہم اپنے شہروں میں اور ان کے چاروں طرف نہ کوئی نئی خانقاہ تعمیر کریں گے اور نہ کوئی گر جا بنائیں گے اور نہ کوئی نئی عمارت راہوں کے لئے تعمیر کریں گے۔ جس کسی عمارت کی بنیاد پڑ چکی ہو یا وہ تباہ ہو چکی ہے تو اسے از سر نو تعمیر نہیں کریں گے۔“

ہم راہ گیزوں اور مسافروں کے لئے اپنے دروازے کشادہ رکھیں گے اور جو ہمارے پاس سے مسلمان گزرے گا تو ہم اسے تین دن تک اپنے پاس ٹھہرائیں گے اور اسے کھانا کھلائیں گے۔

ہم اپنے گرجوں اور اپنے گھروں میں کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے اور مسلمانوں سے کوئی عیب نہیں چھپائیں گے اور نہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور نہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے اور نہ کسی کو اس کی دعوت دیں گے اور اگر کوئی ہمارا رشتہ دار اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے (مسلمان ہونے سے) نہیں روکیں گے۔

ہم مسلمانوں کی عزت و احترام کریں گے اور جب وہ ہمارے پاس بیٹھنے کا ارادہ کریں گے تو ہم اپنی مجالس میں ان کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔

سیدنا سلیمان

بنو نہ

ہم ان (مسلمانوں) کے لباس ٹوپی، عمامہ اور جوتی میں مشابہت اختیار نہیں کریں گے اور نہ ان جیسے بال بنائیں گے اور نہ ان جیسے نام اور کنیت اختیار کریں گے۔

ہم (گھوڑے کی) زینوں پر سوار نہیں ہوں گے اور نہ تلوار گلے میں لٹکائیں گے۔ ہم نہ کوئی ہتھیار بنائیں گے اور نہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھیں گے۔ ہم اپنی انگوٹھیوں میں عربی زبان میں نقش و نگار کندہ نہیں کرائیں گے۔ ہم جہاں کہیں ہوں گے اپنے مہمان کا استقبال کریں گے ہم اپنی کمر پر زنا باندھیں گے اور اپنی صلیبوں کو نمایاں نہیں کریں گے۔ ہم نہ مسلمانوں کے راستوں میں اور نہ ان کے بازاروں میں اپنا پہلو کھولیں گے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ناقوس نہیں بجائیں گے اور نہ اپنے مذہبی رسوم کی برسر عام نمائش کریں گے۔

ہم اپنے مردوں کے ساتھ (جنازوں میں) اپنی آوازیں نہیں بلند کریں گے اور نہ مسلمانوں کے راستوں اور ان کے بازاروں میں آگ روشن کریں گے اور نہ اپنے مردے ان کے پڑوس میں رکھیں گے۔ ہم اس غلام کو جو مسلمانوں کے حصوں میں آچکا ہو نہیں خریدیں گے اور ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے اور نہ ہم اپنے گھروں کو بہت بلند تعمیر کریں گے۔“

شرائط میں اضافہ: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تحریر لائی گئی تو آپ نے اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا: ”ہم کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے۔ ہم نے اپنے لئے اور اپنے ہم مذہب افراد اور قوم کے لئے یہ شرائط قبول کر لئے ہیں اور ان کے مطابق (مسلمانوں کی) حفاظت میں آنا قبول کیا ہے۔ اگر ہم ان شرائط کی جن کی ذمہ داری ہم نے اپنے اور اپنی قوم کے لئے قبول کی ہے کسی چیز کی خلاف ورزی کریں تو آپ پر ہماری ذمہ داری (اور حفاظت) عائد نہیں ہوگی اور پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاہدہ کو نافذ کرنے کی اجازت دے دی اور اس میں مزید اس شرط کا اضافہ کیا۔ ”جو کسی مسلمانوں کو عداوت مارے گا (تو سمجھو کہ) اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔“

معاہدہ کی شرعی حیثیت: (حضرت عمرؓ کے) اس معاہدہ کے مطابق ذمیوں کے بارے میں فقہائے کرام نے فتوے دیئے ہیں۔ یہی نص شرعی بھی ہے اور اسی کے مطابق (مزید مسائل کے لئے) قیاس و اجتہاد کیا گیا ہے۔

ذمیوں کے عبادت خانوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ”ہجرت نبویؐ کے بعد جو نیا گرجا تعمیر کیا گیا تھا، حضرت عمرؓ نے اس کے گرا دینے کا حکم دیا تھا اور صرف وہی گرجے اور عبادت گاہ (غیر مسلموں کے) باقی رہ گئے تھے جو ہجرت نبویؐ سے پہلے تعمیر ہوئے تھے۔ ایسے عبادت خانوں کی مرمت اور درستی کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف مشہور و معروف ہے۔“

تاتاریوں کی زبردست شکست

۶۰۲ھ میں تاتاریوں کی فوجی نقل و حرکت کے بارے میں لگا تاریخ میں موصول ہونے لگیں اور یہ پتہ چلا کہ تطلو

شاہ (شاہ تاتار کا نائب) دریائے فرات کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس نے حلب کے نائب حاکم کو یہ خط بھیجا ہے کہ ان کے شہر قحظہ ہیں اس لئے وہ دریائے فرات کے گرد و نواح میں چراگاہوں کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ اس تحریر سے اس نے یہ فریب دیا کہ اس کا مقصد جنگ نہیں ہے۔ اس سے رعایا کو بھی یہ مغالطہ ہوا کہ وہ میدانوں سے بھاگ جائیں۔

تاتاریوں کی فوج کشی: پھر یہ خبریں موصول ہوئیں کہ تاتاریوں نے دریائے فرات کو عبور کر لیا ہے (یہ خبر سن کر) لوگ ہر طرف بھاگ گئے۔ تاتاری مرعش کے مقام پر مقیم ہوئے۔

رحبہ کا محاصرہ: اہل شام کی امداد کے لئے مصر سے فوجیں روانہ کی گئیں اور وہ دمشق پہنچ گئیں۔ وہاں انہیں یہ اطلاع ملی کہ سلطان قازان تاتاری فوجوں کو لے کر رحبہ کے شہر کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ وہاں کے نائب حاکم نے انہیں خوراک اور چارہ پیش کیا اور یہ معذرت کی کہ اگر وہ شام کو دوبارہ فتح کر لے تو وہ اس کا مطیع اور فرماں بردار ہے کیونکہ اس کے بعد رحبہ کا شہر اس کے مقابلہ میں معمولی چیز ہے اس نے اپنے فرزند کو بھی ریغال کے طور پر پیش کیا (اس گفتگو کے بعد) بادشاہ نے اس سے کچھ تعرض نہیں کیا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے وطن واپس جانے کے لئے اس نے دریائے فرات کو عبور کر لیا۔

مغل بادشاہ کی واپسی: تاتاری بادشاہ نے اہل شام کے نام ایک طویل خط ارسال کیا جس میں انہیں تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ سلطان (مصر) سے فوجی امداد نہ حاصل کریں اور نہ اسے مادہ جنگ کریں۔ اس نے نرم اور ہمدردانہ لہجہ اختیار کر کے انہیں فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی۔

شاہی فوجوں کی آمد: بہر حال قطلو شاہ جو بان تاتاری فوجوں کو لے کر آگے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی فوج نوے ہزار یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب (ان کی پیش قدمی) کی خبر سلطان (مصر) کو ملی تو اس نے مصری سلطنت کے نگران بیہرس کو فوجیں دے کر شام کی طرف بھیجا۔ سلطان اور سلاار (فوجوں کو لے کر) اس کے بعد روانہ ہوئے ان کے ساتھ خلید ابوالریح بھی تھا اور وہ مکمل صف بندی کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ بیہرس دمشق پہنچا تو اس وقت حلب کا نائب حاکم قراستقر منصور ہی تھا۔ اس کے پاس حماة کا حاکم کتبغا عادل اور اسد الدین کرجی نائب حاکم طرابلس بھی اپنی فوجیں لے کر پہنچے ہوئے تھے۔

حملہ کا آغاز: تاتاری فوجوں نے قریب سین پر حملہ کیا وہاں ترکان کے قبائل رہتے تھے انہوں نے جب انہیں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ مگر تاتاریوں نے ان کے سامان سمیت انہیں پکڑ لیا۔ ادھر سے حلب کے لشکر نے (ان تاتاریوں) کا تعاقب کیا اور ان پر حملہ کر کے ترکان کے قبیلوں کو ان کے قبضے سے چھڑا لیا۔

مرج الصفر کا معرکہ: اب قطلو شاہ اور جو بان اپنی اپنی (تاتاری) فوجیں لے کر دمشق کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں (تاتاری جرنیل) خیال کر رہے تھے کہ سلطان (فوج لے کر) مصر سے ابھی تک نہیں نکلا ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی فوجیں

رکن الدین بھیرس کی قیادت میں مرج الصفر پر مقیم تھیں جو شجیب کے نام سے بھی موسوم ہے۔ وہاں کا نائب حاکم دمشق اقوش افرم بھی موجود تھا۔ یہ لوگ سلطان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جہاں انہیں تاتاریوں کی فوج کشی کا شک و شبہ ہوا تو وہ اپنے فوجی مراکز سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے پیچھے ہٹنے سے (مسلمان) رعایا خوف زدہ ہوئی اور وہ مصر کے گرد و نواح کی طرف بھاگنے لگے مگر سلطان اسی سال کے یکم رمضان میں اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اسی وقت صف بندی کر کے ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ مرج الصفر کے مقام پر فریقین میں جنگ ہوئی۔ تاتاریوں نے سلطان کے میمنہ (دائیں طرف کی فوج) پر زور دار حملے کئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اور مسلمان فوج نے صبر و استقامت سے کام لیا اور وہ رات تک جنگ کرتی رہی۔ اس معرکہ میں (مسلمانوں کی) ایک جماعت شہید ہوئی۔

تاتاریوں کی شکست: اس کے بعد تاتاری فوج کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ایک پہاڑ پر پناہ گزین ہوئی۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا اور صبح تک پہاڑ کا محاصرہ جاری رکھا۔ جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ سمتوں سے ان کا راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ان (تاتاری فوج) کی بڑی تعداد چپکے سے قتلوا شاہ اور جو بان کے پاس پہنچ گئی، جو باقی بچے ان پر شامی فوجوں نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

دلدل میں گرفتاری: مسلمان سوار فوجوں نے شکست خوردہ فوج کا سراغ لگا کر ان کا تعاقب کیا۔ درحقیقت وہ کچھڑ اور دلدل میں پھنس گئی تھی۔ کیونکہ سلطان نے دریا اور نہروالوں کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ان میں شگاف کر دیں (چنانچہ دریا اور نہروں کا پانی میدانوں اور راستوں پر بہ نکلا) اور ان (دشمنوں) کے گھوڑے کچھڑ اور دلدل میں پھنس گئے اب مسلمان فوجوں نے (وہاں پہنچ کر) ان کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔

سلطان (مصر) نے قازان (غازان) کو (اس کی فوج کی بربادی کا) حال لکھا جسے (پڑھ کر) اسے بار بار افسوس ہوتا تھا۔ اس کا قلب خوف و حسرت سے شکستہ ہو گیا تھا۔ سلطان نے مصر کی طرف فتح کی بشارت پہنچائی۔

جشن فتح: اب سلطان دمشق پہنچا اور وہاں عید الفطر تک مقیم رہا۔ عید کے تیسرے دن وہ مصر کے لئے روانہ ہوا اور شوال کے آخر میں مصر پہنچا۔ وہاں اس کا شان دار جلوس نکالا گیا اور زبردست جشن ہوا۔ کیونکہ اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہوا اور اسے فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ شعراء نے بھی اس موقع پر قصیدے پڑھ کر سنائے۔

اسی سال حماة کا نائب حاکم کتبغا عادل فوت ہو گیا۔ وہ پہلے مصر کا بادشاہ رہ چکا تھا۔ اسے دمشق میں دفن کیا گیا۔ اسی سال بلقان جو کندار نائب حاکم حمص بھی فوت ہو گیا نیز مصر کے قاضی شیخ تقی الدین بن رفیق العبد بھی (اسی سال) فوت ہو گئے۔ وہ مصر کے چھ سال تک قاضی رہے تھے۔ ان کے بجائے شیخ بدر الدین ابن جماعہ کو (قاضی) بنایا گیا۔

شاہ تاتاری کی ہلاکت: تاتاریوں کا بادشاہ قازان (غازان) بھی (اسی سال) فوت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شکست کی خبر سن کر اسے بہت تیز بخار ہوا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی خربند بادشاہ ہوا۔

اسی سال سلطان (ناصر) نے شریف (مکہ) ابونبی کے دونوں فرزندوں امینہ اور حمیصہ کو قید سے رہا کر دیا اور ان دونوں کو ان کے دونوں بھائیوں عطیفہ اور ابوالغیث کے بجائے (مکہ معظمہ) کا حاکم مقرر کیا۔

ارمنوں کے حالات

ارمینیا کے رہنے والی ارمن اور کرج قوم تو بل بن ناخور بن آزر کی اولاد سے ہیں۔ ناخور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور ان کے نام کی مناسبت سے ان کے وطن کا نام ارمینیا ہو گیا تھا۔ اس کا پایہ تخت خلاط تھا اور یہی ان کا دار السلطنت تھا۔ ان کا بادشاہ مگفور کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔

جب مسلمانوں نے ان کے ملک کو فتح کیا تو انہوں نے باقی ماندہ باشندوں پر جزیہ مقرر کر دیا تھا۔ ان پر مختلف حکام مقرر ہوتے رہے اور ان کے ملک میں فتنہ و فساد ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان کا (دار السلطنت) خلاط تباہ اور ویران ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا پایہ تخت حلب کے راستوں کے قریب سیس کی طرف منتقل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی وہاں منتقل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کو محصول ادا کرتے رہے۔

شاہ قلیچ بن لیون سلطان نور الدین عادل کے عہد میں ان (ارمنوں) کا بادشاہ قلیچ بن لیون تھا۔ اس نے سلطان نور الدین عادل کے لئے (عمدہ) خدمت انجام دی اور سلطان نے بھی اسے جاگیر عطا کی (ارمنوں کے اس بادشاہ نے) مصیبت اردن اور طرطوس کے علاقے رویموں کے قبضے سے چھین لئے تھے۔ سلطان نور الدین کے بعد سلطان صلاح الدین نے بھی اسے سابقہ خدمات پر بحال رکھا۔ کچھ سالوں کے بعد اس نے ترکمانوں کے ساتھ غداری کی تو سلطان صلاح الدین نے ارمینیا پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا۔ آخر کار یہ لوگ مطیع ہو گئے اور ان کا بادشاہ بدستور جزیہ ادا کرنے لگا اور مطیع و فرمانبردار بن کر ایک اچھے پڑوسی کی طرح حلب کی سرحدوں پر رہنے لگا۔

شاہ پیٹوم: شاہ ظاہر کے زمانے میں پیٹوم بن قسطنطین ابن یانس ارمینیا کا بادشاہ مقرر ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلیچ کی نسل سے تھا یا اس کے خاندان سے تھا۔ جب ہلاکو عراق اور شام کا بادشاہ ہوا تو پیٹوم نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ہلاکو نے اسے بادشاہ برقرار رکھا۔ اس نے بھی شام کے جنگی حملوں میں تاتاریوں کا ساتھ دیا۔ وہ ۶۶۲ھ میں بلا داروم کے تاتاری حاکم کے خلاف حملہ آور ہوا اور حلب کے قبیلہ کلاب کے بدوؤں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور انہوں نے عتاب کے علاقے میں بہت فتنہ و فساد برپا کیا۔ پھر پیٹوم بن قسطنطین راہب بن گیا اور اس نے اپنے فرزند کو بادشاہ بنایا۔

شاہ ارمن کو شکست: ۶۶۳ھ میں سلطان ظاہر نے قلاؤن منصور حاکم حماة کی قیادت میں ارمینیا کی طرف فوجیں روانہ کیں (ان کا بادشاہ) لیون اپنی فوجیں لے کر در بعد کے قریب مقابلہ کے لئے آیا۔ مگر شکست کھا کر گرفتار ہو گیا (اسلامی) لشکر نے سیس کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا (سابق بادشاہ) پیٹوم نے اپنے فرزند لیون کو چھڑانے کے لئے مال و دولت اور قلعے پیش کئے۔ اس پر سلطان ظاہر نے یہ شرط رکھی کہ وہ ستر اشتر اور اس کے ساتھیوں کو ابغان ہلاکو کی قید سے چھڑا لائے۔ سلطان ہلاکو انہیں حلب کے قید خانے سے نکال کر لے گیا تھا۔ لہذا پیٹوم نے (ہلاکو سے) ان کی رہائی کے لئے درخواست کی تو ہلاکو نے (رہا کر کے) انہیں بھیج دیا۔ پیٹوم نے (اپنے فرزند کے فدیہ کے طور پر) پانچ قلعے بھی دیئے جن میں ابغان اور مرزبان کے قلعے بھی شامل تھے۔

لیون کی حکومت: بیٹوم ۶۶۹ھ میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا فرزند لیون بادشاہ ہوا اور اس کی نسل میں بادشاہت برقرار رہی۔ ارمنوں اور ترکوں کے درمیان جنگ ہوتی رہتی تھی۔ کیونکہ ترک ان کے پڑوسی تھے۔ اور حلب میں رہتے تھے۔ لہذا ترک بار بار ان کے ملک پر فوج کشی کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے مصالحت کر لی اور اطاعت قبول کر کے جزیہ ادا کرنے لگے۔ یہاں بلاد الروم کے فوجی نگران کی طرف سے تاتاریوں کی نگران فوج رہتی تھی۔

سنباط: جب لیون فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا فرزند بیٹوم (ثانی) بادشاہ ہوا تو اس کے بھائی سنباط نے حملہ کر کے اسے تخت سے اتار دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑنے کے بعد اسے قید کر دیا۔ اس نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی یروس کو بھی قتل کر دیا۔

اس کے عہد میں سلطان کتبغا عادل کی طرف سے ترک فوجوں نے قلعہ حمص پر حملہ کیا اور اس موقع پر ارمنوں نے سنباط کو کمزور سمجھ کر اسے (قتل کرنے کا) ارادہ کیا۔ تو وہ قسطنطنیہ بھاگ گیا۔

اندین: پھر ان (ارمنوں نے) اس کے (دوسرے) بھائی اندین کو بادشاہ بنایا۔ اس نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور انہیں مرعش کا قلعہ دے دیا۔ نیز اس نے مسلمانوں کو وہ تمام قلعے دے دیئے جو دریائے جیحان کے کنارے پر واقع تھے۔ مسلمانوں نے ان قلعوں کو سرحد بنالیا اور ان کے لشکر وہاں سے واپس آ گئے۔

بیٹوم ثانی کی دوبارہ حکومت: اندین نے اس کے بعد اپنے بھائی بیٹوم (ثانی) کو جوکانا ہو گیا تھا ۶۶۹ھ میں قید خانے سے رہا کیا وہ تھوڑے عرصہ تک تو اس کے ساتھ (امن و آمان کے ساتھ) رہا پھر اس نے اندین پر حملہ کر کے اسے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ دیا اور خود سیس میں ارمنوں کا بادشاہ بن کر رہنے لگا۔ اس نے اپنے بھتیجے تروس معقول کو اپنا اتابک مقرر کیا۔ اس طرح اس کا نظم و نسق درست ہو گیا۔

ارمنوں کا فتنہ و فساد: وہ سلطان (تاتار) قازان کے ساتھ اس جنگ میں بھی شریک ہوا جو اس نے سلطان ناصر (مصر) کے ساتھ لڑی تھی۔ اس جنگ میں ارمنوں نے بہت فتنہ و فساد برپا کیا اور اپنے کچھ قلعے بھی واپس لے لئے اور تل حمدون کو تباہ ویرباد کر دیا۔

ارمنوں کی سرکوبی: جب سلطان ناصر نے ۷۰۳ھ میں تاتاریوں کو شکست فاش دی تو اس نے ارمینیا کی طرف اپنی فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے وہ قلعے واپس لے لئے اور حمص پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے سیس کے میدانوں اور اس سے متعلقہ تمام علاقوں کو تباہ ویرباد کر دیا۔ اس (شاہ ارمن) نے اپنا سفر رگیس ادا نہیں کیا تو حلب کے نائب حاکم قراسترا المصوری نے ۷۰۷ھ میں چار امراء کے ساتھ ادھر فوج بھیجی تو اس نے ان کے علاقے کو تباہ کر دیا سیس میں تاتاریوں کی نگران فوج نے ان کا مقابلہ کیا تو انہیں شکست دی۔ اس میں ان کا سپہ سالار مارا گیا اور باقی ماندہ گرفتار کر لئے گئے۔

جزیرہ کی ادائیگی: پھر مصر سے بکتاش فخری امیر البحر کی قیادت میں باقی ماندہ بحریہ کے ساتھ فوجیں بھیجی گئیں اور وہ غزہ پہنچیں (جب بیٹوم اس کی اطلاع ملی تو) وہ اس کے انجام بد سے خوف زدہ ہو گیا۔ لہذا اس نے حلب کے نائب حاکم کو پانچ

سال اور اس کے پہلے سال کی جزیہ کی رقم ارسال کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ذریعے اس نے سلطان کے پاس سفارش پہنچائی۔ سلطان نے یہ سفارش قبول کر کے اس کی جاں بخشی کی۔

ارفلی کا قبول اسلام اس زمانے میں بلاد روم میں تاتاریوں کا نگران فوجی افسر ارفلی تھا جب ابغا مسلمان ہو گیا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی اجازت سے اس نے ایک مدرسہ تعمیر کیا اور وہاں ایک اذان گاہ بھی تعمیر کرائی۔

پیٹوم کی چغلی خوری اس کے بعد اس کی حاکم سیس پیٹوم کے ساتھ ناچاقی ہو گئی لہذا پیٹوم ثانی نے شاہ تاتار خربندا کے پاس یہ شکایت بھجوائی کہ وہ (ارفلی) اہل شام کے ساتھ سازش میں شریک ہے اور انہیں سیس اور ان سے متعلقہ علاقوں پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کر رہا ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر مدرسہ اور اذان گاہ (کی تعمیر) کا واقعہ پیش کیا

پیٹوم کا قتل ارفلی کے کسی رشتہ دار نے اسے (شکایت کا) یہ حال بتا دیا۔ لہذا اس نے (اپنے جذبہ انتقام کو) پوشیدہ رکھا۔ پیٹوم کو ایک ضیافت میں بلوایا اور وہاں اس نے اس کو اچانک قتل کر دیا۔ اس نے ترکوں کے ایک نمائندہ کو بھی گرفتار کر لیا جو حلب کے نائب حاکم کی طرف سے مقررہ جزیہ کا مطالبہ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا۔ اس کا نام ایذغری شہر زوری تھا۔

نیا شاہ ارمن ایذغری (ایک عرصہ تک) تاتاریوں کے قید خانے میں رہا۔ آخر کار وہ ۷۷ھ میں وہ تور بزر کے مقام پر قید خانے سے بھاگ نکلا۔ اس نے سیس کا بادشاہ اشین لیون کو بنایا۔

اظہار اطاعت جب ارفلی خربندا کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے پیٹوم (ثانی) کا بھائی التاق اس کی عورتوں اور اولاد کو لے کر فریاد کے لئے پہنچا ہوا تھا۔ شاہ خربندا نے ارفلی کے سامنے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس نے اس کے بھائی اوشیو، کوسیس کا بادشاہ برقرار رکھا۔ چنانچہ اس نے نہایت بگلت کے ساتھ ناصر کو مصر خط لکھا اور جزیہ ادا کرنے کا حسب سابق اقرار کیا اور کبھی کبھی جزیہ کی رقم ارسال کیا کرتا تھا۔

سلطان مغرب کے تحائف اس زمانے میں مغرب اقصیٰ (مراکش) میں موحدین کے بعد بنومرین کی سلطنت قائم تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ یوسف ابن یعقوب بن عبدالحق نے ۷۰۳ھ میں (مصر کے) سلطان ناصر کے پاس اپنے اپنی علاء الدین ایذغری شہر زوری کو بھیجا وہ اس شہر زوری خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو سلطان ظاہر سمیرس کے زمانے میں مقررین بارگاہ میں سے ہوتے تھے۔ اس اپنی کے ساتھ مغرب اقصیٰ کے لوگوں کا ایک عظیم الشان قافلہ جا رہا تھا جو فریضہ حج ادا کرنا چاہتا تھا (سلطان مغرب اقصیٰ نے) اپنی کے ساتھ بہت عمدہ تحائف بھیجے تھے جن میں وہاں کے گھوڑے، خیر اور اس ملک کے خاص اور نادر اشیاء نیز خالص سونا بھی شامل تھا۔ سلطان ناصر نے اس قافلہ کا نہایت شاندار طریقے سے استقبال کیا اور ان کے ساتھ اپنا افسر بھیجا (جو حج کے) راستے میں انکی خوراک اور کھانے کا اچھی طرح سے انتظام کرے۔ وہ حج سے فارغ ہونے تک ان کے ساتھ مقرر تھا۔

تحائف کا تبادلہ یہ اپنی (علاء الدین) ایذغری ۷۰۵ھ میں حج سے فارغ ہوا تو سلطان ناصر نے اس کے ساتھ اس کے تحائف کا بدلہ اسی شان دار پیمانے پر بھیجا اور اس کے ساتھ اپنے دو افسروں کو بھیجا۔ ان میں سے ایک ایذغری بابلی اور دوسرا

ایدغری خوارزمی تھا اور دونوں کے لقب بھی علاء الدین تھے۔ یہ لوگ سلطان یوسف بن یعقوب کے پاس ماہ ربیع الآخر ۶۷۱ھ میں پہنچے جب کہ وہ تلمسان کا محاصرہ کر رہا تھا۔ اس نے اس جماعت کو انعام و اکرام سے نوازا اور انہیں ان کے شایان شان اور بھیجنے والے سلطان کے لائق صلہ دیا۔ سلطان نے انہیں فاس اور مراکش کی سیاحت کے لئے بھیجا تاکہ وہ پچشم خود وہاں کے مسرت انگیز (حالات) کا معائنہ کر سکیں۔

دو بارہ تحائف سلطان یوسف بن یعقوب تلمسان کا محاصرہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا تھا مذکورہ بالا دونوں ایچی فاس کے دورہ سے ماہ رجب ۶۷۱ھ میں واپس آئے تو اہل مغرب کے ایک عظیم قافلہ نے جو فریضہ حج ادا کرنے جا رہا تھا ان کا استقبال کیا یہ ایچی سلطان ابو ثابت جزولی سے بھی ملے جو سلطان یوسف بن یعقوب کے بعد وہاں کا بادشاہ ہوا تھا۔ اس نے بھی ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور ان کے ساتھ سلطان ناصر کو دو بارہ گھوڑوں، شجروں اور اونٹوں کے تحائف بھیجے۔

قافلہ پر حملہ یہ لوگ تلمسان کے پاس سے بھی گزرے یہاں سلطان عثمان بن ہنمر اس کے دونوں فرزند حکومت کرتے تھے۔ ان دونوں نے اس قافلہ کا اچھی طرح استقبال نہیں کیا۔ تاہم ان دونوں ایچیوں نے ان سے محافظ اور رہنما دستہ طلب کیا، جو ان کی ان کے ملک کی سرحد تک ان کی حفاظت کر سکے۔ کیونکہ سلطان یوسف بن یعقوب کی موت کے بعد تلمسان میں اس و امان قائم نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ عربوں کو ان کے ساتھ بھیجا مگر وہ مفید نہیں ثابت ہو سکے۔ کیونکہ المریہ کے قریب قلعہ زعبہ کے بدمعاشوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ یہ لٹیرے تمام قافلے پر غالب آ گئے تھے، انہوں نے تمام حاجیوں اور سلطان ناصر کے ایچیوں کا سامان لوٹ لیا۔ وہ (فریاد لے کر) شیخ بکر ابن زعلی کے پاس پہنچے جو حمزہ کے وطن میں بجایہ کے قریب بنو یزید بن زعبہ کا گھر تھا۔

سلطان بجایہ کی آمد: اس نے انہیں بجایہ کے سلطان ابو البقاء خالد کے پاس پہنچایا جو افریقیہ کے بادشاہ ابو زکریا یحییٰ بن عبد الواحد بن ابی حفص کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے انہیں پوشاکیں دیں اور انہیں تونس کے پائے تخت تک پہنچایا جہاں اس کا چچا زاد بھائی سلطان ابو عسیدہ محمد بن یحییٰ ابو دائق تھا۔ اس نے ان کا بے حد استقبال کیا اور ان کے ساتھ منومرین کی شاخ بنود سنار کے ایک افسر ابراہیم بن عیسیٰ نے سفر کیا۔

اندلس کا مجاہد: وہ اندلس کے مجاہدوں کا امیر تھا اور فریضہ حج ادا کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا جب وہ تونس میں سے گزرا تو اس کے سلطان نے اسے جزیرہ جربہ کے فرنگیوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ وہاں فوج کشی کی۔ اس کے ساتھ بنو مرین کا سردار عبد الحق بن عمر بھی تھا۔

ابویحییٰ کیانی: شیخ ابویحییٰ بن زکریا ابن احمد کیانی تونس کی فوج کے ساتھ اس کا محاصرہ کر رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصے تک ان کا ساتھ دیا مگر پھر ابویحییٰ کیانی تونس کے سلطان سے ناراض ہو گیا تو وہ طرابلس چلا گیا۔ وہ سب لوگ مصر پہنچے تو سلطان مصر نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد وہ فریضہ حج ادا کر کے مغرب (اقصی) واپس چلے گئے۔

ابویحییٰ کیانی نے سلطان ناصر سے امداد طلب کی تو سلطان نے مال و دولت اور بہت سے غلام (ممالک) دے کر اس کی امداد کی اور یہی امداد اس کے لئے تونس کی سلطنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنی۔

بیرس کا عہد حکومت

۷۷۷ھ میں سلطان ناصر اور اس کے دونوں نگران سلطنت بیرس اور سلار کے تعلقات میں کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ اس نے شاہی احکام اور فرمانوں پر دستخط کرنا بند کر دیا۔ سلطان اور ان کے درمیان چغل خوروں نے ملامت کی اور ناراضگی کے پیغام پہنچائے بلکہ کچھ امراء اور حکام آدھی رات کے وقت قلعہ کے میدان میں سوار ہو کر پہنچے، جنہیں محافظ فوجی دستوں نے روکا (اس قسم کے واقعات سے) سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بکتر جو کندار نے حالات درست کرنے کی کوشش کی اور سلطان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے خاص غلاموں کو بیت المقدس جلا وطن کر دے۔ کیونکہ بیرس کا خیال تھا کہ وہی اس فتنہ اور اختلافات کے نشوونما کا ذریعہ ہیں۔ لہذا سلطان نے انہیں بھگا دیا اور ان دونوں نگران حکام کو خوش کیا مگر کچھ عرصے کے بعد ان موالی کو بیت المقدس سے بلوا کر انہیں ان کی ملازمتوں پر بحال کر دیا گیا۔ پھر سلطان نے جو کندار پر چغل خوری کا الزام لگا کر اس کا تبادلہ کر دیا اور اسے صغد کے علاقے کا نائب حاکم بنا کر دور بھیج دیا۔

سلطان کا الکرک میں قیام سلطان (اس قسم کے) خود سری اور استبداد کے کام کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرس اور سلار نے اسے چھوڑ دیا اور ۷۸۷ھ میں اس نے فریضہ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا اور وہ قلعہ الکرک کی طرف روانہ ہوا۔ امرائے مصر نے اسے الوداع کیا اور کچھ حکام اس کے ساتھ گئے۔ جب وہ قلعہ الکرک کے پاس سے گزرا تو وہ قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے وہاں کے نائب حاکم جمال الدین الزعفرانی کو مصر بھجوادیا۔ اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی واپس بلوایا جو محل جازی کے ساتھ (حج کرنے کے ارادے سے) جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ عقبہ کے مقام سے اس کے پاس لوٹ آئے۔

ناصر کی دست برداری: اس نے ان حکام کو بھی واپس کر دیا جو اس کے ساتھ آئے تھے اس کا ارادہ تھا کہ وہ قلعہ الکرک میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مصروف ہو جائے۔

بیرس کی تخت نشینی اس نے اہل مصر کو اجازت دی کہ وہ جسے حکومت کے لائق سمجھیں اسے اپنا بادشاہ مقرر کر لیں لہذا تمام حکام مصر دار النیابت میں اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار اتفاق رائے سے انہوں نے بیرس کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور ماہ شوال ۷۸۷ھ میں انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا لقب مظفر رکھا۔ خلیفہ ابو الریح نے اسے تخت پر بٹھایا۔ اس نے ناصر کو الکرک کا نائب حاکم مقرر کیا اور اس کے لئے اس نے جاگیریں مخصوص کیں۔

سیف الدین سلار بدستور سابق نائب السلطنت برقرار رہا۔ اس نے تمام عہدیداروں اور افسروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اہل شام نے اطاعت کا اظہار کیا اور بیرس کی سلطنت قائم ہو گئی۔

ملک میں بے چینی: ۷۹۰ھ میں ناصر کے بعض موالی بھاگ کر (اس کے پاس) الکرک پہنچ گئے۔ سلطان بیرس مظفر کو اس واقعہ سے پریشانی لاحق ہوئی اور اس نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا، مگر وہ نہیں مل سکے۔ البتہ دوسرے لوگوں پر الزامات لگائے گئے اور اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس سے (دوبارہ) بے چینی شروع ہوئی۔

شامی حکام کی خط و کتابت: اس کے بعد شام کے حکام نے ناصر سے الکرک میں خط و کتابت شروع کر دی اور اس نے پہلے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے پاس جائے، مگر پھر وہ لوٹ آیا۔ کیونکہ دمشق کے حاکم اقوش افرم کا خط آنے سے حالت تبدیل ہو گئی تھی۔

پھر جاشنگیر بھرس نے (سابق) سلطان ناصر کو علاء الدین مغلطائی ایغلی اور قطلو بغا کے ہاتھ پیغام پہنچایا جو غلط خبروں پر مشتمل تھا۔ اس سے وہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے دونوں ایلچیوں کو سزا دی۔

فریاد نامہ: ناصر نے شام کے حکام کے پاس بھرس اور اس کے ساتھی امرائے مصر کے خلاف فریاد نامہ ارسال کیا۔ اس میں اس نے تحریر کیا تھا:

”میں نے بادشاہت ان کے حوالے کر دی اور خود تنگی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس توقع پر کہ میں آرام اور سکون حاصل کر سکوں، مگر وہ اب بھی باز نہیں آئے ہیں اور مجھے دھکیاں دے رہے ہیں۔ وہ معز ایک اور بھرس الظاہر کی اولاد کے ساتھ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔“

ناصر نے اپنی تربیت اور آ زاد کردینے کے حقوق جتا کر ان سے یہ امداد طلب کی کہ وہ ان لوگوں کو اس کی ایذا رسانی سے روکیں ورنہ وہ (دشمن) تاتاریوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔

شامی حکام کی اطاعت: ناصر نے یہ پیغام (خط) ایک سپاہی کے ہاتھ بھیجا۔ جو اقوش اشرفی کے زمانے میں قلعہ الکرک میں ملازم تھا اور وہ وہاں رہنے لگا تھا۔ وہ سیر و شکار کا بہت جزمین تھا اور سلطان سے اس کی واقفیت کسی شکار گاہ میں ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک دن اس کے سامنے یہی شکایت کی اور خط بھیجے گا کہ ”کہا“ میں آپ کا پیغام شام کے حکام کو پہنچاؤں گا۔“ چنانچہ وہی یہ خط لے کر ان کے پاس آیا۔ وہ (اس کو پڑھنے سے) بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی اطاعت کریں گے۔“

مصری فوج کی روانگی: اس کے بعد (سابق) سلطان (ناصر) بقاء پہنچا (اس کے پہنچنے ہی) حاکم دمشق جمال الدین اقوش افرم نے مصر میں جاشنگیر بھرس کو صورت حال سے آگاہ کیا اور اس سے فوجی امداد طلب کی تاکہ وہ اس مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ چار ہزار کی فوج روانہ کی۔ اس نے ان فوجیوں کی خامیوں کو دور کر دیا تھا اور مصر کی باقی ماندہ فوج پر بھی بے تحاشا روپیہ صرف کیا۔

مصر میں ہنگامہ: اس کے بعد بہت افواہیں پھیل گئیں اور عوام میں شور و غل برپا ہو گیا۔ سلطان کے ممالک (غلاموں) نے گرد و نواح کی طرف بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ ان کا وجود خطرہ میں تھا۔ پھر یہ خبر ملی کہ (سابق) سلطان فیصلہ تبدیل کر کے بقاء سے الکرک پہنچ گیا ہے۔ اس کے واپس آنے پر اس کے دوستوں اور ملازموں کے جوصلے پست ہو گئے اور اُسے بھی یہ اندیشہ ہوا کہ چونکہ یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ بھرس فوج کشی کرنے والا ہے اس لئے کہیں مصری فوجیں ان پر حملہ نہ کریں۔

ناصر کی فوج کشی: ناصر نے اپنے ممالک کو پوشیدہ پیغام بھیج کر انہیں اپنا طرفدار بنانا چاہا، وہ اس کے حامی ہو گئے۔ پھر

اس نے شام کے جن حکام کو دوبارہ خط بھیجا ان میں شمس الدین اقسقر نائب حاکم حلب اور سیف الدین نائب حاکم حمص شامل تھے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا بلکہ حلب کے نائب حاکم نے اپنا فرزند بھی اس کے پاس بھیجا اور ان سب نے اسے فوج کشی کے لئے آمادہ کیا۔ چنانچہ ناصر ماہ شعبان ۷۰۹ھ میں قلعہ الککک سے روانہ ہوا تو دمشق کے کئی حکام بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔

(حاکم دمشق) اتوش نے دو افسروں کو راستوں کی حفاظت کے لئے روانہ کیا تو وہ بھی (سابق) سلطان کی فوج میں شامل ہو گئے۔

حاکم شام کی بے بسی: (یہ خبر سن کر) بیبرس جاشنگیر نے تمام حکام کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ دمشق کے حاکم جمال الدین اتوش کی حمایت کریں۔ اور (سابق) سلطان ناصر کو دمشق پہنچنے سے روکیں مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ (سابق) سلطان سے مل گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتوش بے یار و مددگار رہ گیا اور وہ بقاع اور شقیف کی طرف روانہ ہوا اور سلطان سے پناہ مانگی۔ چنانچہ ناصر نے اپنے دو بڑے افسروں کے ہاتھ اسے پروانہ امن بھیج دیا۔

ناصر کا دمشق پر قبضہ: پھر سلطان دمشق میں (فاتحانہ طور پر) داخل ہو گیا اور اسے امیر جامد ارسیف الدین کے حوالے کر دیا جو اس کے پاس صغد سے آیا تھا۔ اور انہوں نے ہجرت کر کے سلطان کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ لہذا سلطان نے اس کو بہترین صلہ دیا۔ اس کے بعد اتوش افرم بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو سلطان نے اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی اور اسے دمشق کا حاکم برقرار رکھا۔

مصری عوام کی بغاوت: ادھر مصر میں جاشنگیر بیبرس کے محاللات سلطنت بد سے بدتر ہوتے گئے۔ سلطان کے ممالک وہاں سے نکل کر شام کی طرف بھاگنے لگے تو اس نے ان کے تعاقب میں فوجیں روانہ کیں اور ان فوجوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ کر مارڈالا یا زخمی کر دیا اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے مگر مصر کے عوام کا ہنگامہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر کے کھلم کھلا بیبرس کی تخت سے دست برداری کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر سزا دی گئی۔ مگر اس کے باوجود ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔

تجدید بیعت کی کوشش: جب جاشنگیر بیبرس کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اس نے لوگوں کو حلف (وفاداری) کے لئے اکٹھا کیا۔ جس میں خلیفہ (عباسی) بھی شریک ہوا اور اس نے ازسرنو (سلطان سے) اور عوام سے حلف (وفاداری) لیا اور بیعت نامہ کا ایک فرمان بھی ارسال کیا تا کہ جمعہ کے دن (مصر کی) جامع مسجد میں پڑھ کر سنایا جائے، مگر عوام نے شور و غل برپا کر دیا اور منبر پر ہنگامہ کرنے لگے۔

حامیوں کا اضافہ: اب بیبرس نے مال و دولت صرف کر کے لوگوں کو قابو کرنا چاہا۔ پھر اس نے شام کی طرف فوج کشی کا ارادہ کیا۔ مگر جب اس نے بڑے بڑے حکام کو روانہ کیا تو وہ سلطان (ناصر) کے ساتھ جا کر مل گئے۔ آخر کار سلطان بھی پندرہویں رمضان المبارک کو دمشق سے نکلا۔ اس نے غزہ کے حکام میں سے دو حکام کو روانہ کیا اور وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ پھر عرب اور ترکمان بھی سلطان کی فوج میں شامل ہو گئے۔

بھیرس کی معزولی: جب یہ خبر جاشنگیر کے پاس پہنچی تو اس نے شمس الدین سلار بدر الدین بکتوت جو کندار اور سیف الدین سلحدار کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملہ میں مشورہ لیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور اب صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ناصر کو بادشاہ بنا دیا جائے اور پھر اس سے درخواست کی جائے کہ وہ بھیرس کو الکرک یا حماقا یا صہیون کا علاقہ دے دے۔ اس فیصلہ پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھیرس دو ادار اور سیف الدین بہادر کو بھیجا۔ انہوں نے جاشنگیر کی معزولی کی شہادت دی۔ اس لئے وہ قلعہ سے نکل کر اور اپنے غلاموں کو لے کر اٹلیخ کے مقام کی طرف چلا گیا، مگر وہاں نہیں رہا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسوان کا قصد کیا۔ بھیرس (معزول سلطان) اپنے ساتھ جس قدر اس سے ممکن ہو مال و دولت کا ذخیرہ اور اصطلح کے گھوڑے لے گیا۔

تیسری بار ناصر کی حکومت

سیف الدین سلار بدستور قلعہ کی حفاظت کرتا رہا۔ اس نے مساجد کے منبروں پر سلطان کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اذان گا ہوں پر بھی سلطان (ناصر) کا نام پکارا جانے لگا اور سڑکوں اور گلیوں میں عوام اس (ناصر) کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ یوں سلار نے اس کی تخت نشینی کے رسوم و شعائر کے سارے انتظامات مکمل کر لئے تھے۔

جشن تخت نشینی: جاشنگیر کے قصد اس کا مطالبہ نے کر سلطان کے پاس پہنچے۔ تو سلطان نے اسے صہیون کا حاکم مقرر کر کے اسے پناہ دے دی۔ سلطان خود (مصر) عید الفطر کے مبارک دن پہنچا۔ وہاں سیف الدین سلار نے اس کا استقبال کیا اور اظہار اطاعت کیا۔ اس کے بعد سلطان (ناصر) قلعہ میں داخل ہو گیا اور وہاں ایوان شاہی میں عید کا عظیم جشن منایا اور عوام سے حلف (وفاداری) لیا۔

سلار کو اجازت: سلطان نے سلار کو بھی خلعت عطا کیا، اس کے بعد سلار نے اس سے اپنی جاگیروں کی طرف جانے کی اجازت مانگی تو سلطان نے اجازت دے دی۔ (اس کے بجائے) اس کا فرزند سلطان کا دربان مقرر ہوا اور وہ ماہ شوال کی تیسری تاریخ کو روانہ ہو گیا۔

مال و ذخیرہ ضبط: سلطان نے حکام کو انہوں نے جاشنگیر سے وہ تمام مال و دولت اور ذخیرہ چھین کر ضبط کر لیا جو وہ مصر سے لے گیا تھا اور ان سب اشیاء کو سرکاری خزانوں میں پہنچایا۔ ان کے ساتھ ان کے عمالیک کی وہ جماعت بھی لوٹ آئی جو خود بھی حکام تھے۔ انہوں نے سلطان کے پاس واپس آنے کو ترجیح دی۔

حکام کا تقرر و تبادلہ: سلطان نے سیف الدین بکتور جو کندار اور امیر جامد ارکو مصر کا نائب السلطنت مقرر کیا اور قراستقر منصور کو دمشق کا حاکم بنایا۔ وہاں کا جو سابق حاکم افرم تھا اسے صرخدا کا حاکم مقرر کیا گیا۔ سیف الدین قحقی کو حلب کا نائب حاکم متعین کیا اور سیف الدین بہادر طرابلس کا حاکم مقرر ہوا اور وہ سب شام کی طرف اپنے عہدے حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔

نیا وزیر: سلطان نے ان امراء اور حکام کو گرفتار کر لیا جن پر اسے شک و شبہ تھا۔ اس نے ضیاء الدین ابو بکر کے بجائے فخر

الدین عمر الخلیل کو اپنا وزیر مقرر کیا۔

بھیرس کی گرفتاری: بعد ازاں بھیرس جاشنگیر صہیون کی طرف روانہ ہوا (راستے) میں وہ حکام جو اس کے ساتھ تھے لوٹ کر سلطان کے پاس چلے گئے۔ سلطان نے ان میں سے کچھ کو اپنے ممالیک (غلاموں) میں شامل کر لیا اور کچھ کو مقید کر دیا۔ اس کے بعد سلطان کی رائے تبدیل ہوئی اور اس نے قراسنقر اور بہادر کو جو ابھی غزہ میں مقیم تھے اور شام کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے یہ پیغام بھیجا کہ وہ دونوں بھیرس کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اسے گرفتار کر کے ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں (مصر کے شاہی) قلعہ میں بھیج دیا جہاں اسے نظر بند کیا گیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔

سلار کا انجام: سلار نے سلطان ناصر کی حکومت قائم کرنے میں بہت کوشش کی تھی اور اسی نے اس کو بادشاہ بنایا تھا اس لئے سلطان کو اس کے حقوق ادا کرنے کا بڑا خیال تھا۔ لہذا جب اس کی سلطنت مستحکم ہو گئی تو سلار نے سلطان سے یہ درخواست کی کہ وہ شوبک میں اپنی جاگیر کی طرف جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں الگ تھلک زندگی گزارے۔ سلطان نے نہ صرف اس کی اجازت دی بلکہ اس کی جاگیر میں بھی اضافہ کیا اور اسے خلعت عطا کیا اور اس کے ممالیک (غلاموں) کی جاگیر میں اضافہ کیا اور ایک سولازمین کو ان کی جاگیروں کے عطیہ کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ وہ ماہ شوال ۷۰۸ھ میں مصر سے شوبک کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد شوبک کے علاقہ کے ساتھ علاقہ الکمرک کا اضافہ کر کے اسے جھنڈا سنہری خلعت بھاری اور قیمتی سواری اور جوہر دار پٹکا بھیجا گیا۔ سلار وہاں (امن دکن کے) ساتھ رہنے لگا۔

بھائی کی سازش: ۷۰۹ھ میں سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ امراء کی ایک جماعت بغاوت کی سازش کر رہی ہے ان میں سلار کا بھائی بھی شریک ہے۔ لہذا سلطان نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور سلار کے ان حامیوں اور ملازموں کو بھی گرفتار کر لیا جو مصر میں موجود تھے۔

سلار کی وفات: پھر سلطان نے علم الدین جو ان کو بھیجا تاکہ وہ سلار کو الکمرک سے لے آئے تاکہ وہ (مصر میں) سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے۔ چنانچہ وہ اسی سال کے ماہ ربیع الاول میں سالار کو لے آیا اور وہ (مصر میں) نظر بند کر دیا گیا۔ اور اسی نظر بندی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔

اس کی بے اندازہ دولت: (اس کی موت کے بعد) مصر اور الکمرک میں اس کے مال و متاع اور ذخیرہ کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کی مال و دولت موتی جواہرات، کپڑے، زرہیں، مویشی اور اونٹ بے اندازہ تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اراضی اور جاگیروں سے روزانہ ایک ہزار دینار آمدنی حاصل کرتا تھا۔

سلار کا ابتدائی حال: اس کا ابتدائی حال یہ ہے کہ جب اس نے تاتاریوں کی قید سے رہائی حاصل کی تو وہ علاء الدین علی بن منصور قلاؤن کا مولیٰ ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے والد قلاؤن سے متعلق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا تعلق اشرف اور پھر اس کے بھائی محمد بن ناصر سے قائم رہا اور ہر ایک بادشاہ کے دور میں وہ اعلیٰ مرتبہ پر رہا۔ اس کی لاشین کے ساتھ بھی گہری دوستی تھی اس لئے وہ اس کے دور میں بھی خدمات بجالاتا رہا اور اس کا مقرب بارگاہ ہوا۔ وہ سلطان کی محبت حاصل کرنے کی

انتہائی کوشش کرتا رہا تا آنکہ اسے زوال آ گیا۔
 کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے قید خانے میں ابھی جان کنی (عالم نزع) کی حالت میں تھا کہ اسے لوگوں نے بتایا کہ
 سلطان تم سے خوش ہو گیا ہے“ (اس بات سے وہ اس قدر خوش ہوا کہ) وہ فوراً لپک کر کھڑا ہو گیا اور پھر چند قدم چلنے کے بعد
 اس کا دم نکل گیا (وہ فوت ہو گیا)

حکام کے تقرر اور تبادلے: جب سلطان ناصر نے سیف الدین قشق کو حلب کا نائب حاکم مقرر کیا تھا تو اس کے تھوڑے
 عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس نے اس کے بجائے سلطان نے استدھر کر جی کو حلب کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس کا حماہ
 سے ۱۰۷ھ میں یہاں تبادلہ کر دیا گیا تھا (وہاں کے) لوگوں نے اس کے مظالم کی بہت شکایت کی اس لئے سلطان نے اسے
 گرفتار کر لیا اور دمشق کے حاکم قراسنقر منصور کو حلب کا حاکم مقرر کیا اور اس کے بجائے ۱۰۷ھ میں دمشق کا حاکم سیف الدین
 کرائی منصور کو مقرر کیا۔ پھر سلطان اس پر بھی ناراض ہو گیا اور اسے نظر بند کر دیا اور اس کے بجائے جمال الدین اتوش
 اشرفی کو الکفرک سے منتقل کر کے دمشق کا حاکم مقرر کیا۔

جب طرابلس کا نائب حاکم فوت ہو گیا تو اتوش افرم کا صرحد سے تبادلہ کر کے وہاں کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔
 پھر سلطان نے مصر کے نائب السلطنت کبیر جو کندار کو بھی گرفتار کر کے اسے قلعہ الکفرک میں مقید رکھا اور اس کے
 بجائے بھرس دو ادار کو نائب السلطنت مقرر کیا۔

قراسنقر کی بغاوت: جب سلطان حلب کے نائب حاکم قراسنقر سے بھی بدگمان ہو گیا تو وہ جنگل بیابانوں کی طرف
 بھاگ گیا اور وہاں (عرب کے قبائل کے سردار) مہنا بن عیسیٰ کے ساتھ مل گیا۔

کہتے ہیں کہ قراسنقر نے سلطان سے حج ادا کرنے کی اجازت طلب کی سلطان نے اس کی اجازت دے دی۔ مگر
 جب وہ جنگل بیابانوں کے درمیان سے گزرا تو اسے یہ سفر مشکل معلوم ہوا اس لئے وہ لوٹ آیا۔ حلب میں جو حکام موجود تھے
 انہوں نے سلطان کی اجازت کے بغیر اسے داخل ہونے سے روکا اس لئے وہ دریائے فرات کی طرف پھرتا گیا اور وہاں
 پہنچ کر مہنا بن عیسیٰ کو سلطان کے پاس اپنی سفارش کرانے کے لئے بھیجا۔ سلطان نے اس کی سفارش قبول کر کے اسے حلب کی
 حکومت پر بحال کر دیا۔

شاہی حکم کی نافرمانی: پھر سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاریوں کا بادشاہ خربندہ شام پر فوج کشی کرنے والا ہے۔ لہذا
 سلطان نے مصر سے شام کی طرف فوجیں بھیجیں اور شام کی فوجوں کو یہ ہدایت بھیجی کہ وہ ان (مصری) فوجوں کے ساتھ حمص
 کے مقام پر شامل ہو جائیں۔ اس بات سے قراسنقر بدگمان ہو گیا اور وہ حلب سے نکل کر دریائے فرات کو عبور کر کے بھاگ
 گیا۔ پھر اس کے دل میں کچھ خیال آیا تو اس نے سلطان سے پناہ مانگی اور کہا کہ وہ دریائے فرات کے قریب قیام کرے گا۔
 سلطان نے اس کے قیام کے لئے شوبک کا علاقہ جاگیر میں دینے کا وعدہ کیا، مگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ وہ دریائے
 فرات کے قریب ایک مقام میں مہنا بن عیسیٰ (عرب قبائل کے سردار) کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر (شام کے) دیگر امراء نے بھی
 سرکشی اختیار کی اور وہ بھی بھاگ کر اس (قراسنقر) کے پاس پہنچ گئے۔

شاہ تاتار کی حمایت ان میں طرابلس کا نائب حاکم اقوش فرم بھی شامل تھا۔ ان سب نے (تاتاریوں کے بادشاہ) خربندہ کے ساتھ شامل ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا اور وہ مار دین پہنچے۔ وہاں کے حاکم نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ اس نے انہیں نوے ہزار درہم دیئے اور ان کی خوراک اور رسد کا بندوبست کیا۔ وہاں سے وہ خلاط پہنچے جہاں انہیں خربندہ سے ملاقات کرنے کا اجازت نامہ موصول ہوا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچے اور اسے شام پر (حملہ کرنے کے لئے) آمادہ کیا۔

سازش کا الزام: جب سلطان (مصر) کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے شام کے حکام پر قراستہ کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام لگایا۔ اس لئے انہیں ان کی فوجوں سمیت بلوالیا۔ پھر اس نے قراستہ کے بجائے سیف الدین (سودی حمد ار اشرفی) کو مقرر کیا اور اقوش کے بجائے بکتر ساقی کو طرابلس کا حاکم مقرر کیا اور عرب (قبائل) کا سردار مہنا بن عیسیٰ کے بجائے اس کے بھائی فضل بن عیسیٰ کو مقرر کیا۔

شامی حکام کی گرفتاری: جب امراء حکام (شام) مصر پہنچے تو اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اس نے دمشق کے حاکم اقوش اشرفی کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے بجائے تنکوناصری کو لے آیا۔ اس میں حاکم مقرر کیا اور باقی ماندہ اسلامی ممالک کی حکومت بھی اس کے سپرد کی۔ اس نے اپنے نائب، السلطنت بیہرس دوادار کو بھی گرفتار کر کے قلعہ الککک میں مقید کر دیا اور اس کے بجائے ارغون دوادار کو نائب السلطنت مقرر کیا۔

سلطان کی فوج کشی: سلطان نے قلعہ کے باہر فوجوں کو اکٹھا کیا اور اسی سال عید الفطر کے بعد کوچ کیا۔ راستے میں اسے یہ اطلاع ملی کہ خربندہ (شاہ تاتار) رجب پہنچا تھا اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد وہاں سے لوٹ گیا (یہ سن کر) سلطان بھی دمشق کی طرف لوٹ گیا اور وہاں شام کے مختلف علاقوں میں فوجیں بھیجیں۔

فریضہ حج کی ادائیگی: پھر وہ الککک کی طرف روانہ ہوا اور اسی سال زحہ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا اور الککک سے حج کے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ (حج سے فارغ ہو کر) ۳۱۷ھ میں شام واپس آ گیا۔ (یہاں آ کر) اس نے مہنا بن عیسیٰ کو اپنا طرف دار بنانے کے لئے پیغام بھیجا، مگر قاصد یہ پیغام لے کر آیا کہ اس نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ۱۶۷ھ میں وہ خربندہ کے پاس پہنچ گیا، جہاں خربندہ نے اسے عراق میں جاگیر بخشی اور وہ وہیں رہنے لگا پھر وہ خربندہ کی موت کے بعد ہی واپس آیا۔

حماة پرايوبي خاندان کی حکومت

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شہر حماة تقي الدين عمر بن شہنشاہ بن ایوب کے ماتحت تھا۔ اس کو اس کے چچا سلطان صلاح الدین بن ایوب نے ۴۷۵ھ میں وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ یہ شہر اس کے قبضہ میں رہا، یہاں تک کہ اس نے ۵۸۷ھ میں وفات پائی۔ پھر اس کا فرزند ناصر الدین محمد یہاں کا حاکم مقرر ہوا اس کا لقب منصور تھا۔ وہ اپنے چچا سلطان صلاح الدین اور سلطان عادل کی وفات کے بعد ۶۱۷ھ میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند قلیچ ارسلان حاکم ہوا اس کا لقب ناصر تھا۔

اس کا بھائی مظفر جو ولی عہد تھا، کامل بن عادل کے پاس مقیم تھا۔ چنانچہ اس نے اُسے دمشق سے لشکر دے کر بھیجا اور اس نے اپنے بھائی سے یہ شہر چھین لیا اور خود حکومت کرنے لگا جب وہ ۶۲۳ھ میں فوت ہوا تو اس کا فرزند محمد منصور کا لقب اختیار کر کے وہاں حکومت کرنے لگا۔

فتنہ تاتار کا اثر: جب تاتاریوں نے شام پر حملہ کیا تو یوسف ابن عبدالعزیز کے ساتھ جو شام کا بادشاہ تھا، حاکم حماة منصور اور اس کا بھائی افضل بھی بھاگ کر مصر پہنچ گئے۔

پھر انہیں مصر کے ترکوں سے بھی خوف لاحق ہوا تو یہ جماعت ہلاکو کے پاس پہنچ گئی مگر منصور (حاکم حماة) مصر ہی میں مقیم رہا۔ اس عرصے میں ہلاکو نے شام پر قبضہ کر کے ناصر اور اس کے تمام ایوبی امراء کا خاتمہ کر دیا۔ جب ہلاکو خاں اپنی قوم کے فتنہ و فساد کی وجہ سے شام سے لوٹ گیا تو سلطان قطز نے شام پر حملہ کر کے اسے تاتاریوں کے قبضہ سے نکال لیا اور اس کی تمام سرحدوں اور شہروں پر حکومت کرنے لگا۔ اس وقت اس نے منصور کو حماة کی حکومت پر بحال کر دیا اور وہ وہاں کا حاکم ہو گیا۔

منصور کی بحالی: منصور نے (حاکم بننے کے بعد بھی) مصر کی طرف اپنی آمد و رفت جاری رکھی وہ تاتاریوں کے خلاف قلاطن کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا جو ۶۲۳ھ میں حمص کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس نے ارمینیا وغیرہ کی طرف بھی نکلے، ہمیں بھیجی تھیں اور سلاطین مصر جب مطالبہ کرتے تھے تو وہ اپنی فوجیں لے کر ان کے پاس پہنچتا تھا۔ اس کی وفات ۶۸۳ھ میں ہوئی۔

مظفر بن منصور کی حکومت: اس کے بعد سلطان قلاطن نے اس کے فرزند مظفر کو اپنے باپ کی عملداری کا حاکم بنایا اور اس نے بھی (سلاطین مصر کے ساتھ) سابقہ رویہ برقرار رکھا اور جب الاشین کے بعد ناصر محمد بن قلاطن مصر کا حاکم تسلیم کیا گیا تو ۶۹۸ھ میں اس کی وفات ہو گئی۔

قراسنقر کی حکومت: اب منصور کی نسل منقطع ہو گئی تھی۔ اس لئے سلطان مصر نے ایک ترکی حاکم قراسنقر کو حماة کا حاکم مقرر کیا۔ اس کا تبادلہ ضمینہ کے مقام سے کیا گیا تھا اور اسے ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ ایوبی خاندان اور دیگر افراد کی جاگیریں بحال رکھے۔

کتبغا کا تقرر: اس کے بعد قازان شام پر غالب آ گیا اور ۶۹۹ھ میں وہ واپس چلا گیا۔ تو بھروس اور سلار نے وہاں پہنچ کر تاتاریوں کے تسلط سے شام کو آزاد کرایا اس جنگ میں مصر کے سابق سلطان کتبغا نے جسے الاشین نے تخت سے اتار دیا تھا اور وہ صرغدا کا نائب حاکم مقرر کیا تھا، بہادرانہ کارنامے انجام دیے اور بھروس اور سلار کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور ان کے ساتھ دمشق بھی گیا تھا۔ لہذا انہوں نے اسے حماة کا حاکم مقرر کیا۔

کتبغا نے اس کے بعد ارمینیا کی طرف فوج کشی کی اور سلطان ناصر کے ساتھ مل کر ۷۰۲ھ میں تاتاریوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ حماة کی طرف لوٹ گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔

مختلف حکام: سلطان مصر نے اس کے بعد سیف الدین قتیق کو (حماة کا) حاکم مقرر کیا، مگر جب سلطان مصر لوٹنے لگا تو اس نے سیف الدین قتیق کو حلب کا نائب حاکم مقرر کیا اور اس کے بجائے ایدمر کرچی کو حماة کا حاکم مقرر کیا مگر جب قتیق فوت ہو گیا تو ایدمر کا حماة سے حلب کی طرف تبادلوہ کر دیا گیا۔

منصور حاکم حماة کا بھائی افضل علاء الدین منصور کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا ایک فرزند تھا جس کا نام اسماعیل تھا اور لقب عماد الدین تھا اسے علم و ادب کا بہت شوق تھا اور اسے علم و ادب کا بہت بڑا حصہ ملا۔ چنانچہ اس کی تاریخی کتاب (تاریخ ابوالفداء) بہت مشہور ہوئی۔

ابوالفداء کا تقرر: سلطان ناصر نے جب قلعہ الکڑک سے اپنے پائے تخت کی طرف کوچ کیا تو اس نے ایوبی خاندان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے علاء الدین اسماعیل (ابوالفداء) کو ۱۶۷ھ میں حماة کا حاکم مقرر کیا۔ اس کا لقب ابوید تھا۔ وہ حماة کا حاکم رہا۔ یہاں تک کہ ۲۴۷ھ میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وصیت کے مطابق سلطان ناصر نے اس کے فرزند افضل محمد کو اس کا جانشین مقرر کیا۔

ایوبی حکومت کا خاتمہ: جب سلطان ناصر قلاؤں نے ۴۳۷ھ میں وفات پائی۔ تو اس کے آزاد کردہ غلام قوص نے خود سلطنت کا انتظام سنبھالا اور اس کے فرزند ابوبکر محمد کو حاکم مقرر کیا اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ افضل کو حماة کی حکومت سے معزول کیا اور اس کے بجائے صقر دمبولی کو نائب حاکم بنا کر بھیجا۔ افضل اس کے بعد دمشق چلا گیا اور وہیں ۴۳۳ھ میں فوت ہو گیا۔ یوں حماة کے علاقے سے بھی ایوبی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

بغاوت کی سرکوبی: سلطان ناصر نے ۳۷۷ھ میں لشکر لے کر الہرام کا قلعہ کیا نظر اس کا مقصد سیر و تفریح تھا، مگر واقعہ یہ تھا کہ اسے مصر کے بالائی حصے (صعید) میں عربوں کے فتنہ و فساد کی یہ اطلاع ملی کہ وہ مسافروں کے قافلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لہذا اس نے وہاں کے ہر علاقے میں فوجیں بھیجیں اور انہیں تباہ و برباد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ (باغی) مغلوب ہو گئے اور ہر علاقے سے ان کا صفایا کر دیا گیا اور جو ان کے پیچھے تھے وہ سب بھاگ کر منتشر ہو گئے۔

فتح ملتطیہ: اس کے بعد سلطان نے ۴۷۷ھ میں ارمینیا کے علاقہ ملتطیہ پر فوج کشی کی اور اسے بزور شمشیر فتح کر لیا۔ اس مقصد کے لئے لشکر حاکم دمشق شام کی فوجوں اور مصر کے چھ جرنیلوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ اس نے باہر محرم ۷۷۷ھ میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں ارمینیا کی اور عرب تھے اور تھوڑے سے وہ مسلمان بھی تھے جنہوں نے جزیہ قبول کر رکھا تھا۔ جنگ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے تو شاہی لشکر بزور شمشیر شہر میں داخل ہو گیا اور ان کا صفایا کر کے ان کے بادشاہوں کو قیدیوں

۱۔ دیگر مؤرخین کا بیان ہے کہ ابوالفداء اسماعیل عالم و ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھا اور اس نے سلطان ناصر بن قلاؤن کے لشکر میں رہ کر تاریخوں کے خلاف جنگ میں شجاعت کے کارنامے انجام دیئے جس سے متاثر ہو کر اس نے اسے حماة کا مطلق العنان حاکم مقرر کر دیا۔ تاریخ کے علاوہ اس نے جغرافیہ میں بھی ایک کتاب تقویم البلدان کے نام سے لکھی تھی جو مصر و شام اور عرب و ایران کے حالات میں ایک اہم اور مستند کتاب ہے۔ یہ یورپ میں بہت مقبول ہوئی۔ (مترجم)

کے ساتھ گرفتار کر کے سلطان کے پاس لے آئے۔

سلطان نے ان کے بادشاہ کی جاں بخشی کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ یہ بادشاہ سلاطین عراق سے خط و کتابت کر رہا ہے تو اسے قید خانے میں ڈال دیا۔

۱۷۷ھ میں سلطان نے حلب سے آمد کے علاقہ عرقیہ کی طرف فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے اس علاقہ کو فتح کر لیا۔ پھر دوبارہ فوجیں ۱۷۷ھ میں امد آئیں تو اسے بھی فتح کر لیا اور اسے تباہ کر کے وہاں سے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

حکام کا تقرر اور معزولی: ۱۷۸ھ میں سلطان طرابلس کے حاکم سیف الدین بکتھر پر ناراض ہو گیا جو اقوش افرم کے بعد حاکم مقرر ہوا تھا چنانچہ اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا اور اس کے بجائے سیف الدین کستانی کو حاکم مقرر کیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بجائے شہاب الدین قرطائی کو حاکم مقرر کیا۔ اس کا حصہ سے تبادلہ کیا گیا تھا۔ حصہ کا حاکم سیف الدین اقطائی کو مقرر کیا گیا۔

۱۷۸ھ میں جاشنگیر یہ (کی جماعت کے سردار) طغائی حسامی کو گرفتار کیا گیا اور اسے صفد کا نائب حاکم بکتھر حاجب کے بجائے مقرر کیا گیا۔ پھر سلطان اس سے ناراض ہو گیا تو اسے گرفتار کر کے اس کے پاس لایا گیا سلطان نے اسے اسکندریہ میں قید کر دیا اور حصہ سے اس کا تبادلہ کر کے سیف الدین اقطائی کو صفد بھیجا اور حصہ کا حاکم بدر الدین بکتوت کرمانی کو مقرر کیا۔

عمارات کی تعمیر سلطان محمد بن قلاؤن نے ۱۷۷ھ میں مصر میں نئی جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کے لئے نفع بخش اوقاف مقرر کئے۔

پھر سلطان موصوف نے ۱۷۴ھ میں شاہی محل قصر ابلق کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ سب سے شاندار شاہی محل ثابت ہوا۔

سلطان نے ۱۷۸ھ میں حکم نافذ کیا کہ قلعہ کی جامع مسجد کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ اس کے چاروں طرف کے گھروں کو گرا کر اس جامع مسجد کی اس حد تک توسیع کی گئی جو آج کل موجود ہے۔

سلطان نے ۱۷۳ھ میں حکم دیا کہ سریاقوس میں اس کے رہنے کے لئے محلات تعمیر کئے جائیں چنانچہ (ان محلات کی تعمیر کے بعد) اس کے سامنے ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی گئی جو اس کے نام سے منسوب ہے۔

۱۷۳ھ میں سلطان نے حکم دیا کہ شاہی قلعہ کے اندر ایک عظیم الشان دربار ہال تعمیر کیا جائے جہاں وہ دربار منعقد کرے اور وہیں اس کا تخت شاہی ہو۔ سلطان نے اس کا نام دارالعدل رکھا۔

شاہی حج و زیارت: سلطان ناصر محمد بن قلاؤن نے اپنے عہد حکومت میں تین مرتبہ حج کیا۔ سب سے پہلے ۱۷۷ھ میں حج کیا۔ جب قراسقر نائب حاکم حلب اقوش افرم نائب حاکم طرابلس اور مہنا بن عیسیٰ امیر عرب کا خاتمہ ہو گیا تھا اور (تاتاری امیر) خربنداشام پہنچ کر رجب آ کر واپس چلا گیا تھا۔

اس وقت سلطان ناصر مصر سے شام پہنچا اور جب اسے معلوم ہوا کہ خربنداشام واپس چلا گیا ہے تو وہ وہاں سے حج کے

ارادہ سے نکلا اور ۳۱ھ میں فریضہ حج ادا کر کے شام واپس آ گیا۔

دوسرا حج۔ سلطان نے دوسرا حج ۱۹ھ میں کیا، چنانچہ شاہی سواری ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں مصر سے روانہ ہوئی۔ اس کے ساتھ حاکم حماة المؤمنید (ابوالفداء) اور شہزادہ محمد بھی روانہ ہوئے جو شہنشاہ ہندوستان (دہلی) سلطان علاء الدین کا بھانجا تھا جب سلطان نے فریضہ حج ادا کیا تو سلطان علاء الدین کا بھانجا شہزادہ محمد وہاں سے یمن کی طرف روانہ ہوا اور سلطان مصر آ گیا۔

مصر آ کر (حج کی خوشی میں) سلطان نے (خاندان) بنو حسن کے امیر مکہ رمیثہ کو (قید خانہ سے) رہا کر دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جو اس کے قید خانہ میں مقید تھے۔ اس کے بعد اس نے امیر مکہ اور دوسرے (رہا شدہ قیدیوں کو) انعام و اکرام سے نوازا۔

تیسرا حج۔ سلطان نے تیسرا حج ۳۲ھ میں کیا۔ اس وقت اس کے ہمراہ حاکم حماة افضل بن المؤمنید (ابوالفداء) تھا۔ وہ بھی اپنے والد کے معمول کے مطابق سلطان کا ہمراہ رہتا تھا۔ سلطان اس حج سے ۳۳ھ میں واپس آیا (مصر آ کر) اس نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے دروازہ کو چاندی کا بنایا جائے۔ چنانچہ اس میں پینتیس ہزار درہم صرف ہوئے۔

بکتھر کی وفات۔ جب وہ اس حج سے واپس آیا تو سلطان کا عظیم ترین امیر اور خواص بکتھر ساقی فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، بکتھر بکتھر س جاشگیر کے غلاموں میں سے تھا۔ پھر جب وہ سلطان ناصر کے پاس پہنچ گیا تو اس نے اسے ساقیوں کا امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان کے ساتھ اس کے تعلقات اس قدر گہرے ہو گئے تھے اور ان کی دوستی اس قدر مستحکم ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے یا نہ وہ دونوں سلطان کے محل میں ہوتے تھے یا خود بادشاہ اس کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بکتھر بہت ماہر سیاست دان تھا۔ اس نے اپنی وفات کے بعد بے شمار مال و دولت جواہرات اور (دیگر قیمتی اشیاء) کے ذخیرے چھوڑے۔

سبیل سلیمہ

اہل نوبہ کے حالات

بکتھر اور منصور قلاؤن کے عہد میں ترکوں نے نوبہ کے علاقے پر لشکر کشی کی تھی۔ کیونکہ حضرت عمر بن العاص نے فتح مصر کے وقت ان پر جزیہ مقرر کیا تھا۔ ان کے بعد مصر کے جو بادشاہ (اور حکام) ہوئے انہوں نے بھی یہ جزیہ ان پر برقرار رکھا۔ اہل نوبہ اکثر اس کی ادائیگی میں نال منول کرتے تھے یا اس کو ادا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ لہذا ایسے موقع پر مصر سے مسلمانوں کی فوجیں آ کر ان پر حملہ کرتی تھیں تو وہ پھر درست ہو جاتے تھے۔

نوبہ کے حکام۔ جب ۱۶۸ھ میں سلطان قلاؤن کی فوجوں نے وہاں حملہ کیا تھا تو ان کا بادشاہ و نقلہ کے مقام پر تھا اور اس کا نام سامون تھا۔ موجودہ زمانہ (عہد ناصر بن قلاؤن) میں اہل نوبہ کے بادشاہ کا نام آمی تھا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ آیا وہ سامون کا خود ہی جانشین ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی اور بادشاہ مقرر ہوا۔ اسی زمانے میں ان کے شاہی خاندان کا ایک فرد مصر چلا آیا۔ اس کا نام نشلی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام کے فرائض کا بہت پابند ہو گیا تھا، اس لئے سلطان نے اس کا

وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور وہ مصر ہی میں مقیم ہو گیا تھا۔

مسلمان حاکم کی حکومت: ۱۶۷ھ میں کرہیں (شاہ نوبہ) نے جزیہ ادا کرنا بند کر دیا تھا۔ لہذا سلطان نے (اس کی سرکوبی کے لئے) لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ نیشلی کو بھی روانہ کیا جو ان کے شاہی خاندان میں سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ کرہیں ان کا مقابلہ کرنے سے گھبرایا اور وہ الابواب کے شہر کی طرف بھاگ گیا۔ لہذا لشکر مصر چلا گیا اور نیشلی مسلمان ہونے کے باوجود نوبہ کا بادشاہ بن گیا۔

اہل نوبہ کا اسلام قبول کرنا: سلطان مصر نے الابواب کے بادشاہ سے کرہیں کو طلب کیا تو اس نے کرہیں کو سلطان کے پاس بھیج دیا اور وہ وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد اہل نوبہ نے سازش کر کے کچھ عربوں کی امداد سے نیشلی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے کرہیں کو لانے کے لئے ایک وفد الابواب بھیجا مگر وہ مصر میں تھا۔ سلطان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے کرہیں کو نوبہ کے علاقے میں بھیجا چنانچہ وہ وہاں پہنچ کر وہ نوبہ کا بادشاہ ہو گیا (پھر اہل نوبہ سب مسلمان ہو گئے تو) ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر سے جزیہ کا حکم دور کر دیا گیا۔

نوبہ کی سلطنت کا خاتمہ: اس کے بعد قبیلہ جہینہ کے عرب نوبہ کے علاقہ میں آباد ہو گئے اور انہوں نے اسے اپنا وطن بنا کر اس پر قبضہ کر لیا اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگا۔ نوبہ کے حکام نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا مگر ناکام ہو گئے۔ پھر ان سے مصالحت کر طور پر شادی بیاہ کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور نجی رسم و رواج کے مطابق قبیلہ جہینہ کے عرب فرزند بہن اور بھانجے کے مالک بننے لگے اور ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قبیلہ جہینہ کے عرب بدوان کے ملک پر قابض ہو گئے اور بدوانہ نظام کے مطابق کوئی ایک دوسرے کی امانت قبول نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور اس علاقے کی کوئی ملکی حیثیت برقرار نہیں رہی بلکہ اہل نوبہ ہی عرب بدوؤں کی طرح خانہ بدوش قوم بن گئی اور وہ سرسبزی اور بارش کے مقامات کی تلاش میں گھومنے پھرنے لگے اور عرب بدوؤں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی وجہ سے وہ بھی ان کے رنگ میں پختہ ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کی سلطنت کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

ارمینیا کے باقی حالات

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلا و روم میں تاتاریوں کے نمائندے ایدغرئی نے ارمینیا کے بادشاہ ہشوم کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا بھائی اوسیر بن لیون بیس کے مقام پر تخت نشین ہو گیا تھا۔ اس نے ترکمانوں کے بادشاہ قرمان کے ساتھ ۱۹۷ھ میں جنگ کی تھی جس میں قرمان نے اسے شکست دے دی تھی۔ تاہم اوسیر بن لیون ارمینیا کا بادشاہ رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو اہل ارمینیا نے اس کے بارہ سال کے نو عمر فرزند لیون ثانی کو تخت نشین کیا۔

اس سے پہلے سلطان ناصر نے اوسیر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان قلعوں سے دستبردار ہو جائے جو شام کے قریب تھے مگر اس نے انکار کیا۔ لہذا اس کے خلاف شام کی فوجیں بھیجی گئی تھیں انہوں نے اس کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اوسیر فوت ہو گیا تھا۔

ارمینیا کی فتوحات: اس کے بعد سلطان ناصر نے حلب کے نائب حاکم کتبغا کو حکم دیا کہ وہ (ان کے پائے تخت) سیس پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ فوجیں لے کر ان کے شہر میں ۳۶۷ھ میں داخل ہو گیا اور ہر سمت سے اس کا صفایا کیا۔ اس نے قلعہ نقیر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا اور ارمینوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو تھی۔ جب شہر ایاس کے عیسائیوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ ان مسلمانوں پر جو وہاں تھے ٹوٹ پڑے اور ان ارمینوں کی حمایت میں جوان کے ہم مذہب عیسائی تھے انہیں جلا دیا۔

فتح ایاس: تھوڑے عرصے کے بعد بلا دروم میں مغلوں کے نمائندہ اور منتظم مرواش بن جو بان نے سلطان مصر کو اطلاع دی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر اس نے فوجی امداد بھی طلب کی تاکہ وہ ارمینی عیسائیوں کے خلاف جہاد کرے۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کی اور ۳۷۷ھ میں دمشق، حلب اور حما سے فوج جمع کر کے شامی فوجوں کو اس کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ ان سب نے مل کر ایاس کے شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں کی شکست خوردہ فوجوں نے پہاڑوں میں پناہ لی مگر حلب کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد یہ فوجیں اپنے شہروں کی طرف لوٹ گئیں۔

دیگر فتوحات: ۶۱۷ھ میں حلب کا نائب حاکم بندر خوارزمی سیس پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے اذنہ طرطوس اور مصیصہ کے علاقے فتح کئے۔ اس کے بعد اس نے کلال والجزیرہ اور سنباط کلا اور ترمور کے قلعے بھی فتح کر لئے۔ اس نے اذنہ اور طرطوس میں الگ الگ حاکم مقرر کئے اور بھر وہ حلب لوٹ آیا۔

اس کے بعد حلب کا حاکم عشقیم انصاری مفرجہ اور اودہ ۶۷۷ھ میں فوج لے کر روانہ ہوا۔ وہ سیس اور اس کے قلعہ کا دو مہینے تک محاصرہ کرتا رہا۔ جب ارمینوں کے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور وہ محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور پناہ طلب کی۔ ان کے بادشاہ کلفور اس کے امراء اور فوجیوں کو شہر سے نکل کر عشقیم کے پاس پہنچیں اور اس نے ان سب کو مصیصہ بھیج دیا اس کے بعد سلطان سیس اور اس کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے اس کے بعد ان علاقوں سے ارمینوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

تاتاریوں کی دو سلطنتیں: اس زمانے میں تاتاریوں کی دو وسیع سلطنتیں قائم تھیں۔ ان میں سے ایک ہلاکو کے خاندان کی سلطنت تھی، جس نے بغداد فتح کر لیا تھا اور عراق میں اسلامی مرکز پر مسلط تھی۔ اس خاندان نے اس کو اپنا پائے تخت مقرر کیا، حالانکہ عراق، عجم، فارس، خراسان اور ترکستان (مادراء انہر) کے ممالک بھی اس کے ماتحت تھے۔

تاتاریوں کی دوسری سلطنت پر دوشی خاں بن چنگیز خاں کی اولاد قابض تھی۔ یہ سلطنت شمالی علاقے میں خوارزم کے قریب تھی اور مشرق میں قرم تک اور جنوب میں قسطنطنیہ کے حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور مغرب میں مملکت بلغار کا احاطہ کئے ہوئے تھی۔

خانہ جنگیاں: ان دونوں سلطنتوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے اور جنگیں برپا رہتی تھیں جو پڑوسی سلطنتوں کا معمول ہے۔

مصر و شام کی ترک سلطنت خاندان ہلاکو کی سلطنت کے قریب تھی۔ یہ تاتاری سلطنت شام کا علاقہ فتح کرنا چاہتی

تھی۔ اس لئے وہاں بار بار حملے کرتی تھی اور اپنے حامی عرب اور ترکان قبائل کو ورغلا کر ان سے امداد حاصل کرتی تھی جیسا کہ ان کے حالات میں مذکور ہے۔

ان کے سلاطین کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں کسی ایک کا پلہ بھاری نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ دوشی اور ہلاکو کے تاتاری خاندانوں کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر (مسلمان حکومتیں) غالب آجاتی تھیں۔ وہ دوشی خان کے خاندان کی سلطنت سے بہت دور تھیں۔ کیونکہ مصر و شام کی سلطنت کے درمیان دیگر ممالک حاکم تھے۔ اس لئے ترک اسلامی سلطنت کی شمالی سلطنت سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔

شمالی سلطنت سے مصالحت: چنانچہ ہر وقت ان میں باہمی خط و کتابت اور مصالحت کے لئے نامہ و پیام جاری رہتے تھے۔ ترک سلاطین دوشی خاں کی سلطنت کو ہلاکو خاں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے تاکہ وہ خراسان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں اور شام کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ یوں ان کا علاقہ ان کی یلغار سے محفوظ رہا۔ (سیاسی طور پر) ترک سلطنت کے آغاز ہی سے ان کا یہ معمول رہا تھا۔ چنانچہ دوشی خاں خاندان کے سلاطین ان کے اس رویہ کو بہت پسند کرتے تھے اور ہلاکو کے خاندان کے مقابلہ میں یہ چیز ان کے لئے باعث فخر تھی۔

شمالی سلطنت سے رشتہ ازواج: جب دوشی خاندان کا سلطان ایک ۳۷ سالہ عورت میں صراحتاً میں تخت نشین ہوا تو بادشاہ روم میں اس کا نائب فضنعیم مقرر ہوا۔ حسب معمول مصر سے اس کے پاس سفیروں کا وفد آیا۔ اس موقع پر قطنغیر نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تاتارے شاہی خاندان کی کسی خاتون سے سلطان ناصر کا رشتہ کرا دیا جائے، بشرطیکہ سلطان موصوف اس کے بارے میں منظوری دیں۔

شادی کے قافلہ کی روانگی: لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے سلاطین کی یہ عادت رہی ہے (کہ وہ دوسرے سلاطین کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں) لہذا سلطان نے اس قسم کے رشتہ کی منظوری دے دی اور اس مقصد کے لئے چھ سال تک سفیروں اور تحائف کا تبادلہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ یہ رشتہ مستحکم ہو گیا اور ان تاتاریوں نے سلطان کی منگیتر طلبناش بنت طقاجی بن ہندو ابن بکر بن دوشی کو ۲۰ لاکھ سے بڑے مغل کی زیر قیادت بھیج دیا۔ ان کے ہمراہ ان کے امراء اور برہان الدین امام ازبک بھی تھے۔ وہ قطنظیہ کے راستے سے گزرے تو (شاہ) شکری نے اس قافلہ کی بے حد تعظیم و تکریم کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ان پر ساٹھ ہزار دینار صرف کئے۔ وہاں سے وہ بحری راستے سے اسکندریہ پہنچے۔

شاہی قافلہ کا استقبال: وہاں سے وہ قافلہ مصر کی طرف ایک گاڑی میں روانہ ہوا جس پر سونے اور ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے اس جلوس کی قیادت ان کے دو غلام کر رہے تھے اور یہ قافلہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو سلطان کے دونوں نائب ارغون اور یکتر ساتی فوج اور سلطان کے وکیل کریم الدین کو لے کر پیشوا کی کے لئے پہنچے۔ خاتون کو شاہی محل میں پہنچایا گیا۔

رسم نکاح: ان کی آمد کے تیسرے دن قلعہ کی جامع مسجد میں قاضیوں، علماء اور مختلف درجوں کے دیگر افراد کو بلایا گیا۔ وہ مہمان جو ساتھ آئے تھے انہیں خلعت عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کے وکیل اور ازبک کے وکیل کی موجودگی میں رسم

نکاح ادا گئی کی۔ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا۔ یہ تقریب قابل دید تھی۔

معاهدہ صلح کی تکمیل: ۲۲ھ میں بغداد اور عراق کے حاکم ابوسعید کے قاصد (مصر) پہنچے۔ ان میں قاضی توریز بھی شامل تھے۔ انہوں نے مصالحت اتحاد اور اسلامی شعائر اور حج کو برقرار رکھنے راستوں کی درستی اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کی تجاویز پیش کیں۔ سلطان نے ان کی یہ تجاویز منظور کر لیں۔ اس نے سیف الدین محمدی کو بھیجا تا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان تجاویز کو عملی جامہ پہنائے۔ سلطان نے اسے بیش قیمت تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ چنانچہ جب سلطان کا قاصد ۲۳ھ میں واپس آیا تو سلطان ابوسعید کے قاصد اور جو بان اس کے ہمراہ تھے۔ یوں باہمی معاہدہ تکمیل پزیر ہوا۔

اس سے پیشتر ازبک صاحب سرائے (تاتاریوں کی شمالی سلطنت) اور سلطان ابوسعید کے درمیان ازسرنو اختلافات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ جو بان سلطان ابوسعید پر مسلط ہو گیا تھا اور وہ مغل تاتاریوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کر رہا تھا۔

ازبک کو امداد: اس سے پہلے جو بان اور حاکم خوارزم و ماوراء النہر (ترکستان) کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جس میں ازبک نے اسے فوجی امداد دی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ازبک نے خراسان کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا۔ چونکہ اس اثناء میں اس کے سلطان ناصر کے ساتھ سمہدانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اس لئے سلطان ابوسعید نے جو بان کے برخلاف فوجی امداد طلب کی تو سلطان نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔

ابوسعید سے صلح: جب سلطان ابوسعید نے مصالحت کی درخواست کی تو سلطان نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ جب ازبک کو مصالحت کی خبر ملی تو اس وقت سلطان ناصر کے قاصد اس کے دربار میں موجود تھے۔ اس نے اس موقع پر سخت کلامی کی اور سلطان کو ناراضگی کا خط لکھا۔

سلطان ناصر نے معذرت کرتے ہوئے یہ تحریر کیا کہ ”انہوں نے اسے شعائر اسلامی قائم کرنے کی دعوت دی تھی لہذا اس معاملے میں وہ پیچھے نہیں رہ سکتا تھا“۔ ازبک نے اس کا یہ عذر قبول کر لیا۔

سلاطین کے درمیان مصالحت: اس کے بعد جب جو بان نے ازبک سے خراسان کے چھینے ہوئے علاقے لوٹا لئے تو ازبک اور سلطان ابوسعید کے درمیان مصالحت کا سلسلہ شروع ہوا اور ان تمام سلاطین نے آپس میں صلح کر لی اور کچھ عرصے کے لئے جنگ بندی ہو گئی۔ بعد میں حالات اور واقعات میں زبردست انقلاب آیا۔

حکام حجاز کے حالات: یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قوادہ نے ہاشمی خاندان سے مکہ معظمہ اور حجاز کی حکومت چھین لی تھی۔ اس کے بعد یہ حکومت اس کی اولاد میں قائم رہی اور ان میں سے ابونبی ان پر غالب رہا۔ اس کا اصل نام و نسب محمد بن ابوسعید علی بن قوادہ تھا۔ وہ ۵۲ھ میں فوت ہو گیا۔

اس کے بعد اس کے دو فرزند رمیثہ اور حمیصہ حجاز کے حکام ہوئے۔ انہوں نے اپنے دو بھائیوں عطیفہ اور ابوالغیث کو نظر بند کر دیا۔

جب مصری سلطنت کے دوسرے برائے یعنی بھروس اور سلار نے حج کیا تو وہ دونوں بھائی اپنی نظر بندی کے مقام

سے بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ان کے (دونوں بھائی) رمیثہ اور خمیصہ نے انہیں بہت تکالیف دی ہیں۔

حکام کی گرفتاری: ان دونوں حکام نے ان دونوں کی فریادری کی اور رمیثہ اور خمیصہ کو گرفتار کر کے انہیں مصر پہنچا دیا اور ان کے بجائے عطیفہ اور ابوالغیث کو (حجاز کا) حاکم بنایا۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے ان دونوں کو ایدمر کوکبی کے ہمراہ سلطان کے پاس بھجوایا جو انہیں اپنے لشکر کے ساتھ لے گیا۔

سلطان نے ان سے خوش ہو کر ان دونوں بھائیوں کو رمیثہ اور خمیصہ کے بجائے حاکم مقرر کیا اور ۱۳۱ھ میں دوبارہ اپنی فوجیں ان دونوں کے ساتھ بھیجیں۔ رمیثہ اور خمیصہ ملک سے بھاگ نکلے اس کے بعد شاہی لشکر واپس آ گیا۔

بھائیوں کی خانہ جنگی: ابوالغیث اور عطیفہ حکومت کرنے لگے مگر (تھوڑے عرصہ کے بعد) رمیثہ اور خمیصہ واپس آ کر جنگ کرنے لگے۔ جس میں ابوالغیث اور عطیفہ کو شکست ہوئی اور وہ دونوں مدینہ پہنچ کر منصور بن حماد سے مدد کے طالب ہوئے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو بنو عقبہ اور بنو مہدی کے افراد کے ذریعے مدد پہنچائی۔ پھر یمن مرد کے مقام پر ان (چاروں بھائیوں) کی جنگ ہوئی۔ جس میں ابوالغیث کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا اور رمیثہ اور خمیصہ نے دوبارہ حکومت حاصل کر لی۔ ان کا (مخالف) بھائی عطیفہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔

سلطان کی مداخلت: ۱۵۱ھ میں ان بھائیوں میں جنگ ہوئی۔ اس وقت رمیثہ اپنے دونوں بھائیوں کے خلاف فریاد لے کر سلطان (مصر) کے پاس پہنچا۔ سلطان نے اس کے ساتھ لشکر بھیجا جسے (دیکھ کر) خمیصہ قبیلہ مدن کی طرف بھاگ گیا۔ شاہی لشکر نے اس کا پیچھا کیا۔ شہر والوں نے اس کے ساتھ مل کر جنگ کی، مگر شکست کھائی تاہم خمیصہ بذات خود بچ نکلا۔

جب مصری فوجیں لوٹ گئیں تو خمیصہ واپس آ گیا۔ لہذا رمیثہ نے بھر سلطان سے مدد طلب کی تو سلطان نے فوجیں بھیجیں (انہیں دیکھ کر) خمیصہ بھاگ گیا۔ بعد ازاں واپس آ کر اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ صلح کر لی۔

۱۸۱ھ میں عطیفہ سلطان مصر کے پاس پہنچا تو سلطان نے اس کے ہمراہ فوجیں بھیجیں انہوں نے رمیثہ کو پکڑ کر سلطان کے پاس پہنچا دیا۔ جہاں اسے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔

اس کے بعد عطیفہ مکہ معظمہ میں حکومت کرنے لگا اور خمیصہ در بدر مارا پھر تار ہا۔ آخر میں وہ تاتاری بادشاہ عراق خربنداکے پاس پہنچ گیا اور حجاز کے حاکم کے برخلاف اس سے امداد طلب کی تو اس نے اسے اپنی فوجیں دے کر بھیجا۔

مکر وہ سازش کی افواہ: اس وقت عوام الناس میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اس نے ان رافضیوں سے مل کر جو خربندہ کے پاس تھے یہ سازش کی تھی کہ وہ شیخین (حضرت ابو بکر و عمرؓ) کی لاشوں کو ان کے مزاروں سے نکال پھینکیں گے۔ مسلمانوں پر یہ اطلاع بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ مہنا (عرب سردار) کے بھائی محمد بن عیسیٰ نے جو خربندہ کے پاس رہتا تھا مذہبی غیرت اور ثواب حاصل کرنے کے لئے اس کا تعاقب کیا اور راستے میں اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔

کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے قبضے سے وہ کپھاڑیاں اور پھاوڑے بھی برآمد کئے جو اس مقصد کے لئے لے جائے جا رہے تھے۔ اس کے اس کارنامے سے سلطان (مصر) بہت خوش ہوا۔

دوبارہ خانہ جنگی: خمیصہ ۱۷۸ھ میں مکہ معظمہ میں آیا تو سلطان ناصر نے اس کے مقابلے کے لئے فوجیں بھیجیں تو وہ بھاگ نکلا۔

رمیثہ ۱۹ھ میں رہا ہوا تو وہ حجاز کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر علی بن نجس بھی تھا، مگر اسے راستے ہی میں پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ جب سلطان ۲۰ھ میں حج سے واپس آیا تو اس وقت اسے رہا کیا گیا۔

خمیصہ کا قتل: ۲۰ھ میں خمیصہ نے سلطان کو پناہ حاصل کرنے کی درخواست دی اس وقت ممالیک مصر کی ایک بڑی جماعت بھاگ کر پہنچی ہوئی تھی انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس کے ہمراہ سلطان کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اس لئے انہوں نے خمیصہ کو اچانک قتل کر دیا اور پھر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے (سلطان کو قتل کی اطلاع مل گئی تھی) اس نے رمیثہ کو قید سے رہا کر دیا تھا اس لئے سلطان نے اسے اختیار دیا کہ (وہ جسے چاہے قتل کرے) مگر اس نے اپنے بھائی کے اصل قتل سے انتقام لیا اور باقی افراد کو معاف کر دیا۔

بعد ازاں سلطان نے رمیثہ کو مکہ معظمہ کی طرف بھیج دیا اور اس کے بھائی عطیہ کے ساتھ مل کر اسے بھی حاکم بنا دیا اور وہ دونوں مل کر حکومت کرنے لگے۔

سلطان کی فریادرسی ۲۱۰ھ میں عطیہ، بیوع کے حاکم قزاقہ کو لے کر بارگاہِ سلطانی میں پہنچا۔ قزاقہ اپنے چچا زاد بھائی عمیل کے خلاف فریاد لے کر آیا تھا، جس نے اس کے فرزند کو قتل کر دیا تھا۔

سلطان نے اس کی فریادرسی کی اور اس کی مدد کے لئے فوجیں ارسال کیں۔ اس نے ان دونوں کو انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔

شرفاء اور غلاموں کا بلوہ: ۳۱۰ھ میں مکہ معظمہ میں بہت بڑا بلوہ ہوا۔ وہاں کے غلاموں نے امراء اور ترکوں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا تھا۔ لہذا سلطان نے ایدعش کو بہت بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا جسے دیکھ کر وہاں کے شرفاء اور غلام دونوں بھاگ گئے۔ البتہ رمیثہ (حاکم مکہ) نے حاضر ہو کر اطاعت کا اقرار کیا۔ پھر اس نے حلف اٹھا کر ان واقعات سے اپنی بریت (بے تعلقی) کا اظہار کیا۔ سلطان نے اس کی معذرت قبول کر لی اور اسے معاف کر دیا۔

اس کے بعد وہ اپنی موت تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد حکومت اور اس کے دونوں فرزند عجلان اور بقیہ کے درمیان گردش کرتی رہی تا آنکہ عجلان خود مختار ہو گیا اور اس کے بعد اب موجودہ زمانے میں اس کی اولاد حکمران ہے۔

سوڈان اور مالی کے حالات

سوڈان کا ملک مغرب کے صحرا کے قریب پہلی اور دوسری اقلیم میں واقع ہے وہاں کئی قسم کی سیاہ فام قومیں رہتی ہیں۔ بحر اوقیانوس کے قریب صوصو کی قوم آباد ہے جو غانہ کے علاقہ کی حاکم ہے وہ فتوحات کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جغرافیہ میں دو جیر کی کتاب کے مؤلف (ادریسی) نے بیان کیا ہے کہ ”بنو عبد اللہ بن حسن بن الحسن کی ایک شاخ بنو صالح کی اس علاقہ پر حکومت تھی اور یہ بہت عظیم ملک ہے۔“

اس کے بارے میں ہمیں دوسرے ذرائع سے تحقیق نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنو حسن میں صالح نام کے شخص کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہل خانہ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ صوصو قوم کے علاوہ اور کوئی خاندان ان کا حاکم رہا تھا۔

صوصو قوم کے مشرق میں مالی قوم ہے ان کا پائے تخت شہر بنی میں ہے ان کے بعد مشرق کی سمت کوکو قوم ہے ان کے بعد کے علاقے میں تکرور کی قوم ہے تکرور اور نوبہ کے درمیان کانم وغیرہ کے قبائل ہیں۔

مالی کی وسیع سلطنت: زمانے کے انقلاب کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے رہے چنانچہ مالی قوم اپنے پیچھے اور سامنے کے صوصو اور کوکو کے علاقوں پر قابض ہو گئی اور آخر میں وہ تکرور کے علاقوں پر بھی غالب آ گئی اور ان کی سلطنت بہت وسیع ہوتی گئی۔ چنانچہ ان کا پائے تخت شہر بنی مغرب میں تمام سوڈان کا پائے تخت بن گیا۔ اس قوم نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔

مالی کے سلاطین کے حج: مالی قوم کے متعدد سلاطین نے حج کیا تھا۔ ان کا سب سے پہلے بادشاہ جس نے حج کیا تھا برمندار ہے۔ ان کے بعض علماء اس کا نام برمندار نہ بتاتے ہیں۔ اس نے حج کرنے کے لئے جو راستہ اختیار کیا تھا۔ اسی کو بعد کے سلاطین نے بھی اختیار کیا۔

(سلطان مصر) ظاہر بھرس کے زمانے میں جس بادشاہ نے حج کیا تھا اس کا نام منسا ولی بن ماری جاط تھا۔ اس کے بعد ان کے آزاد کردہ غلام صا کورہ نے حج کیا۔ یہ غلام بادشاہ ان کے ملک پر مسلط ہو گیا تھا اور اس نے کوکو کے شہر کو فتح کیا تھا۔

سلطان ناصر کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں منسا موسیٰ نے حج کیا جیسا کہ بربر سلطنتوں کے حالات میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب کہ بربر قوم ضہاجہ اور لتونہ سلطنتوں کا حال بیان کیا جائے گا۔

شاہ تکرور کی تعظیم: جب موسیٰ (منسا) مغرب کے علاقے سے حج کے لئے روانہ ہوا تو اس نے اس صحرا کا راستہ اختیار کیا جو مصر کے اہرام کے پاس سے نکلا۔ اس نے سلطان ناصر کو بہت بڑا تحفہ پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں پچاس ہزار دینار تھے۔ سلطان نے اسے بڑے قبرستان کے قریب کے محل میں ٹھہرایا جو اس کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ سلطان نے اسے اپنی

تاریخ ابن خلدون
مجلس (خاص) میں ملاقات کی اور اس سے گفتگو کر کے اسے انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ اسے زادراہ بھی دیا اور گھوڑے اور خچر بھی پیش کئے۔

سلطان نے (مکرور کے بادشاہ) کے ہمراہ اس کی خدمت کے لئے اپنے افسر بھیجے جو اس کی اس وقت تک خدمت کرتے رہے جب تک کہ اس نے ۲۴ھ میں فریضہ حج ادا کیا اور پھر واپس آیا۔

راہ سے بھٹکنا: اس بادشاہ کو جاز کے راستے میں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس سے اس نے بڑی مشکل سے جان بچائی وہ پریشانی یہ تھی کہ وہ سفر میں راستہ سے بھٹک گیا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ عرب رہنماؤں سے جدا ہو گیا تھا ان کے لئے یہ راستے نامعلوم تھے۔ لہذا نہ تو وہ کسی بستی تک پہنچ سکے اور نہ کوئی پانی کا گھاٹ ملا وہ ایک سمت کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ وہ سولیس کے علاقے میں گھس گئے۔ وہاں انہیں مچھلی مل گئی اور وہ اسی کا گوشت کھاتے رہے۔ آخر کار عرب بدوؤں نے انہیں تلاش کر کے اس مصیبت سے نجات دلائی۔

(جب مکرور کا بادشاہ حج سے فارغ ہو کر مصر پہنچا تو) سلطان نے دوبارہ اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے بخشش سے مالا مال کیا۔

قرض لینا: کہا جاتا ہے کہ اس (بادشاہ) نے (اپنے حج) کے اخراجات کے لئے اپنے ملک سے چاندی کی بھری ہوئی سو بوریاں تیار کی تھیں اور ہر بوری میں تین قنطار چاندی تھی، مگر (راستے میں) وہ تمام خرچ ہو گئیں۔ لہذا اس نے بڑے بڑے تاجروں سے قرض رقم لی۔ اس کے ہمراہ بنو الکویک کے تاجروں کی جماعت تھی۔ انہوں نے اسے پچاس ہزار دینار قرض دیئے۔ اس نے ان سے وہ محل خرید لیا جو سلطان نے اسے جاگیر کے طور پر دیا تھا۔

سراج الدین کو بک نے اس کے ساتھ اس کے وزیر کو بھیجا کہ وہ اس کا قرض دیا ہو مال لوٹا کر لائے مگر وہ وہاں فوت ہو گیا۔ سراج الدین نے پھر اپنا لڑکا بھیجا وہ بھی وہاں مر گیا۔ تاہم اس کا فرزند فخر الدین ابو جعفر کچھ حصہ لے کر آیا۔ مگر منسا موسیٰ اس کی وفات سے پہلے فوت ہو گیا۔ اس لئے وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔

یمن کے حالات

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علی بن رسول یمن کا خود مختار حاکم ہو گیا تھا، وہ اپنے آقا یوسف آتسز بن الکامل بن العادل ایوب کی وفات کے بعد جو مسعود کے لقب سے مشہور تھا، بادشاہ بن بیٹھا۔ اس سے پہلے وہ مسعود کا افسر مال اور اس کی سلطنت کا مختار تھا۔ جب وہ ۶۲۶ھ میں فوت ہوا تو علی بن رسول نے مسعود کے فرزند موسیٰ اشرف کو (برائے نام) بادشاہ مقرر کیا اور خود اس کی نگرانی اور کفالت کرتا رہا۔

اس کے بعد وہ خود یمن کا بادشاہ بن گیا اس کے بعد اس کی اولاد یمن کی سلطنت کی وارث ہوئی اور یہ سلطنت اس کے خاندان میں ابھی تک (تا عہد ابن خلدون) برقرار ہے۔

خانہ جنگیاں: ۲۱ھ میں یمن کی سلطنت مجاہد علی بن داؤد المؤمن بن یوسف المظفر بن عمر بن منصور بن علی بن رسول کی

طرف منتقل ہوئی۔ اس کے زمانے میں اس کے چچا زاد بھائی جلال الدین بن اشرف نے بغاوت کی تو مجاہد اس پر غالب آیا اور اس نے اسے نظر بند کر دیا۔

پھر ۷۲۳ھ میں اس کے چچا منصور نے باغی ہو کر مجاہد کو قید کر دیا۔ جب مجاہد قید سے رہا ہوا تو اس نے اپنے چچا منصور کو نظر بند کر دیا۔

فوجی امداد کی درخواست: ۷۲۴ھ میں منصور کے فرزند عبداللہ الظاہر نے اپنے والد کی طرف سے بادشاہت کا دعویٰ کر دیا اور مجاہد کے ساتھ برسرا پیکار ہو گیا۔ اس وقت مجاہد نے سلطان ناصر سے فوجی امداد طلب کی، کیونکہ وہ اور اس کی قوم اس کے مطیع اور فرماں بردار تھے۔ وہ اس کے پاس خراج کے طور پر مال و دولت، تحائف اور یمن کی نادر اور عمدہ چیزیں بھیجتے تھے۔

بغاوت کا قلع قمع: لہذا سلطان ناصر نے بھرس حاجب اور طینال کی زیر قیادت جو اس کے عظیم ترین افسروں میں سے تھے فوج بھیجی۔ چنانچہ جب وہ یمن پہنچے تو عدن کے مقام پر مجاہد نے ان سے ملاقات کی۔ مصری (افسروں نے) فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کی، اس شرط پر کہ ظاہر کے پاس اس کا علاقہ رہے، مگر یمن کا بادشاہ مجاہد ہی رہے گا۔ پھر انہوں نے جو فتنہ پراز تھے انہیں قتل کر دیا اور تمام یمن کے علاقوں میں گشت لگا کر وہاں کے باشندوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ مجاہد کے مطیع و فرماں بردار ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ بارگاہ سلطانی کی خدمت کے لئے واپس روانہ ہو گئے۔

شہزادہ احمد کی حکمرانی: جب سلطان ناصر کی سلطنت وسیع اور مستحکم ہو گئی اور اس کی اولاد زیادہ ہو گئی تو اس نے اپنے لڑکے کو حاکم بنانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ بھی حکمرانی سے لطف اندوز ہو۔ لہذا اس نے اپنے بڑے فرزند احمد کو ۷۲۶ھ میں قلعہ الککرک کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان امراء و احکام کی جو شاہی عہدوں پر مقرر تھے، صحیح ترتیب قائم کی۔

شہزادہ احمد نے قلعہ الککرک پہنچ کر وہاں چار سال تک حکومت کی۔ اس کے والد (سلطان ناصر) اپنی زندگی میں اس کو حاکم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر سلطان نے ۷۳۰ھ میں شہزادہ کو واپس بلا لیا اور اس کے ختنہ کی مسنون رسم ادا کی اور اس تقریب میں ایک جشن منعقد کیا۔ سلطان نے شہزادہ کے ختنے کے موقع پر اپنے امراء اور خواص کے خاص فرزندوں کا انتخاب کیا اور ان کے ختنے بھی کرائے۔

پھر سلطان نے شہزادہ کو اس کے دار الحکومت الککرک واپس بھیج دیا جہاں وہ سلطان ناصر کی وفات تک حکومت کرتا رہا۔

جوبان اور اس کی اولاد

چونکہ سلطان ابوسعید بن خزینہ بنو عمر تھا۔ اس لئے تاتاری سلطنت کا نائب حاکم جوبان خود مختار بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے والد خزینہ کے عہد میں بھی اسی طرح خود مختار تھا۔ جوبان نے اپنے فرزند و مرداش کو بلا دروم کا حاکم مقرر کر دیا۔

نائب کا قتل: اس کے بعد ان کی شمالی سلطنت کے حاکم ازبک سے خراسان کے معاملے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لہذا

جوبان ۲۹ھ میں خراسان کی مدافعت کے لئے روانہ ہوا اور اس نے بغداد میں سلطان ابوسعید کے پاس اپنے فرزند خواجہ دمشق کو نائب مقرر کیا۔ اس کے دشمنوں نے سلطان سے اس کے خلاف شکایتیں بیان کیں اور اس کے ایسے افعال شیعہ سے مطلع کیا جسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ لہذا اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔

جوبان کی بغاوت اور قتل: اس کے والد جوبان کو یہ اطلاع ملی تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مگر سلطان ابوسعید جلد خراسان پہنچ گیا۔ اس لئے اس کے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا اور جوبان بھاگ گیا۔ مگر ہرات کے مقام پر پکڑا گیا اور اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ تاہم سلطان ابوسعید نے اس کے اہل و عیال کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اسے وہاں لے جاسکتے ہیں جہاں اس نے مدفون ہونے کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ وہ اس کی لاش مدینہ منورہ لے گئے مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے لئے حاکم مصر کی اجازت لینی ضروری تھی۔ چنانچہ حاکم مدینہ نے اجازت نہیں دی۔ لہذا اسے بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

دمرداش کا فرار: جب جوبان کے فرزند دمرداش کو جو بلا دروم کا حاکم تھا اپنے باپ کے قتل کی اطلاع ملی تو اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا لہذا وہ مصر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے آزاد کردہ غلام ارتق کو شہر کے انتظام کے لئے چھوڑا اور اسے سیواس کے مقام پر ٹھہرایا۔

مصر میں قیام: جب دمرداش دمشق پہنچا تو اسے حاکم اس سے ملاقات کے لئے آیا اور اسے اپنے ہمراہ مصر لے گیا۔ سلطان نے اس کا استقبال کیا اور اس کی تعظیم و تکریم کی۔ اس کے ہمراہ سات افسران تھے اور تقریباً ایک ہزار فوجی سوار تھے۔ سلطان نے ان سب کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا اور ان کے لئے وظائف مقرر کر دیئے اور وہ سب اس کے پاس رہنے لگے۔

سلطان ابوسعید کا پیغام: یہاں پہنچنے کے بعد سلطان ابوسعید نے قاصد سلطان کے پاس پہنچے اور اس سے صلح نامہ کی شرائط پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سلطان کو آگاہ کیا کہ وہ اور اس کا باپ دونوں بدکردار تھے اور وہ زمین میں فتنہ و فساد کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لہذا وہ شرعی قصاص کے مستحق ہیں۔

سلطان مصر نے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ بھی اسی طرح حکم خداوندی کی تعمیل نائب حلب قراسنقر کے بارے میں کرے جو ۱۲ھ میں اقوش افرم کے ساتھ خربندا کے پاس بھاگ کر چلا گیا تھا اور اس نے (خربندا کو) ورغلا یا تھا کہ وہ شام کے علاقہ پر قبضہ کر لے گا مگر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور وہ خربندا کے پاس رہنے لگے تھے۔

خربندانے اقوش افرم کو ہمدان کا حاکم مقرر کیا تھا اور جب وہ ۱۱ھ میں فوت ہو گیا تو اس کے بجائے اس کے دوست قراسنقر کو ہمدان کا حاکم مقرر کیا تھا۔

قراسنقر کا قتل: جب یہ واقعہ یاد دلایا گیا تو سلطان ابوسعید نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو قراسنقر کے بارے میں نافذ کیا۔ کیونکہ یہ لوگ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اس لئے دمرداش اور اس کے ساتھیوں کی طرح ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔

سلطان ابوسعید سے مصالحت: اس کے بعد سلطان ابوسعید کا فرزند اپنی قوم کی ایک جماعت کو لے کر سلطان ناصر کے پاس آیا۔ اس نے صلح نامہ کی پابندی کرنے اور سلطان سے سدھیانہ کا رشتہ قائم کرنے پر زور دیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے شایان

شان ان کی تعظیم و تکریم کی گئی۔

بہر حال ان دونوں بادشاہوں میں خط و کتابت اور تحائف کا تبادلہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان دونوں نے

وفات پائی۔

شام کے عرب قبائل

شام میں مہنا بن یسعی عرب قبائل کا سردار تھا جو آل فضل کہلاتا تھا۔ یہ قبائل شام الجزیرہ نجد و حجاز کے درمیان سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے قافلے سال کے دونوں موسموں میں سفر کرتے تھے ان کا نسب نامہ قبیلہ طے تک پہنچتا تھا۔ زبید، کلب، ہذیل اور مذحج کے قبائل ان کے حلیف تھے۔ تاہم طاقت اور تعداد کے لحاظ سے آل مراد ان کا مقابلہ کرتا تھا۔

ماہرین انساب کا خیال ہے کہ فضل اور مراد ربیعہ کے فرزند تھے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فضل کی نسل آل مہنا اور آل علی میں منقسم ہے اور آل فضل کے تمام افراد حوران کی سرزمین میں آباد تھے مگر آل مراد نے ان پر غالب آ کر انہیں وہاں سے نکال دیا۔ لہذا وہ حمص اور اس کے گرد و نواح میں مقیم ہو گئے، مگر ان کا حلیف قبیلہ زبید حوران ہی میں مقیم رہا۔ چنانچہ وہ ابھی تک وہیں آباد ہیں اور وہاں سے نہیں گئے ہیں۔

آل فضل کا غلبہ: مؤرخین کا بیان ہے کہ آل فضل اپنے ملک کے سلاطین سے وابستہ ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے آل فضل کو عرب قبائل کا سردار بنایا اور انہیں شام و عراق کے درمیان کی گزرگاہوں اور راستوں کو درست رکھنے (اور وہاں امن و امان قائم کرنے) پر مقرر کیا۔ یوں آل مراد پر ان کا پلہ بھاری ہو گیا اور شام کے سرد مقامات میں وہ ان پر غالب آ گئے چنانچہ ان کے بدوانہ سفر شام کی سرحدوں کے اندر ہی ہوتے تھے اور وہ قریب کے نخلستانوں اور دیہاتوں کی طرف منتقل ہوتے تھے اور بہت کم جنگوں میں اقامت اختیار کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے حلیف قبائل مذحج، عامر اور زبید بھی خانہ بدوشوں کی طرح پھرا کرتے تھے۔

بنو حارثہ: ان عرب قبائل میں سے آل مراد کے ساتھ جو قبیلہ تعداد اور ساز و سامان کے لحاظ سے زیادہ طاقت ور تھا وہ قبیلہ طے کی شاخ میں سے بنو حارثہ بن سہس کا قبیلہ تھا۔ مجھے ان عربوں کے مستند ماہر (نسب) نے یہی بیان کیا ہے۔

بنو حارثہ کا یہ قبیلہ ابھی تک شام کے اونچے ٹیلوں پر مسلط ہے اور وہ آبادی سے باہر رہتا ہے۔

آل فضل کی سیادت اس زمانے میں بنو مہنا کو حاصل ہے۔ وہ اپنا نسب نامہ آخر میں سمجھ پر ختم کرتے ہیں۔

غلط روایت: ان کے عوام کا یہ بیان ہے کہ سمیع وہ شخص تھا جو جعفر بن یحییٰ برکی کے تعلق سے مامون الرشید کی ہمیشہ عباسہ کے ہاں پیدا ہوا تھا مگر ہارون الرشید اور اس کی ہمیشہ کے بارے میں یہ قول سراسر بہتان ہے۔ اس طرح عرب کے (شریف) قبیلہ طے کے بزرگوں کو عجم کے برکی غلاموں کے خاندان سے منسوب کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی عقل اور وجدان کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جو صحیح النسب نہ ہوں وہ اس عرب قبیلہ کے سردار بن جائیں۔

سیادت کا آغاز: ہم اپنے مقدمہ میں اس واقعہ کی تردید کر چکے ہیں کہ بنو مہنا کی سرداری کا آغاز بنو ایوب کی سلطنت کے

آغاز سے ہوا۔ چنانچہ عماد اصفہانی اپنی کتاب البرق السامی میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

”جب ملک عادل مرج دمشق میں مقیم ہوا تو اس کے ساتھ عیسیٰ بن محمد بن ربیعہ بھی تھا جو عرب بدوؤں کا سردار تھا اور اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی۔“

بنو جراح کی سیادت: اس سے پہلے فاطمی عہد حکومت میں عرب بدوؤں کے سردار قبیلہ طے کا ایک خاندان بنو جراح تھا۔ ان کا بزرگ مفرج بن ذغفل بن جراح تھا۔ اس کے دائرہ اختیار میں رملہ تھا۔ جب سلاطین بویہ کا آزاد کردہ غلام افتنگین عراق میں بختیار سے شکست کھا کر بھاگا تو مفرج اسے گرفتار کر کے (سلطان) المعز کے پاس لے گیا۔ اس (فاطمی سلطان) نے (اس کا رنامے پر) اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا اور اسے ترقی کے عہدہ پر پہنچایا۔

حسان کے کارنامے: مفرج ۴۵۴ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے یہ چار فرزند تھے: حسان، محمود، علی، جران۔ ان میں سے حسان اس کا جانشین تھا۔ اسے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے فاطمی حکام کے ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے رملہ کو تباہ و برباد کیا اور ان کے سپہ سالار ہاروق ترکی کو شکست دے کر اسے مار ڈالا تھا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی تہامی نے مدح کی تھی۔

عبیدی (فاطمی) سلطنت کے مورخ سسچی وغیرہ نے حسان بن مفرج کے رشتہ داروں میں فضل بن ربیعہ بن حازم اور اس کے بھائی بدر بن ربیعہ کا تذکرہ بھی کیا ہے اور جاننا یہ فضل وہی ہے جو آل فضل کا جد اعلیٰ ہے۔

فضل کے حالات: (مورخ) ابن الاثیر کا بیان ہے:

”فضل بن ربیعہ بن حازم کے آباء و اجداد بلفاء اور بیت المقدس کے حاکم تھے اور یہ فضل کبھی فرنگیوں کی حمایت کرتا تھا اور کبھی مصر کے خلفاء (فاطمی حکام) کا ساتھ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت دمشق کا حاکم طغرکین اسے ناپسند کرتا تھا اور اس نے اسے شام سے نکال باہر کیا تھا۔ چنانچہ وہ صدقہ بن مزید کے پاس چلا گیا تھا اور اس کا حلیف بن گیا تھا۔ اس نے جب وہ دمشق سے آیا تھا نو ہزار دینار سے اس کی مدد کی تھی۔“

جب ۵۰۰ھ اور اس کے بعد صدقہ بن مزید نے سلطان محمد بن ملک شاہ کے خلاف بغاوت کی اور دونوں برسر پیکار ہو گئے تو یہ فضل حاکم موصل، قرداش بن شرف الدولہ مسلم بن قریش اور بعض وہ ترکمانی حکام جو صدقہ بن مزید کے دوست تھے اکٹھے ہو گئے اور جنگ کے اگلے دستوں میں شریک ہو کر سلطان کی طرف بھاگ گئے۔ سلطان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں خلعت عطا کئے۔

سلطان نے فضل بن ربیعہ کو بغداد میں صدقہ بن مزید کے گھر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد جب سلطان صدقہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو فضل نے سلطان سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ جنگ بیابان میں گھس کر صدقہ کا مقابلہ کرے گا۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے انبار کے مقام پر دریا کو عبور کیا اس کے بعد وہ سلطان کے پاس واپس نہیں آیا۔

آل جراح سے تعلق: مسیحی اور ابن الاثیر کے بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضل اور بدر درحقیقت آل جراح میں سے

ہیں اور یہ بھی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل ان کا جد اعلیٰ ہے۔ کیونکہ نسب نامہ میں وہ فضل بن علی بن مفرج تحریر کرتے ہیں۔ دوسرے (مورخین) فضل بن علی بن جراح تحریر کرتے ہیں۔ غالباً انہوں نے ربیعہ کو مفرج کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ بنو الجراح کا بزرگ تھا اور یہ سیدھے سادھے بادیہ نشین عرب اپنے نسب کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔

قبیلہ طے کی سیادت: قبیلہ طے کی سرداری کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ (قدیم زمانے میں) قبیلہ طے کا سردار ایاس بن قبیصہ تھا جو بنو سنس بن عمرو بن الغوث بن طسی کی نسل سے تھا۔ جب نعمان بن المنذر مارا گیا تو آل منذر کے بعد ایران کے کسریٰ نے اسے حیرہ کا بادشاہ بنایا تھا اور اس نے فتح حیرہ کے موقع پر حضرت خالد بن الولید سے مصالحت کی تھی۔

اس کے بعد قبیلہ طسی کی قیادت قبیسہ کے خاندان میں مسلمانوں کے ابتدائی زمانے میں رہی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آل فضل اور آل جراح انہی کی نسل میں سے تھے اور اگر ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی تو یہ دونوں خاندان ان کے قریبی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ قبیلوں کا سردار انہی بنایا جاتا تھا۔ جو نہایت خالص شریف اور اعلیٰ خاندان کے ہوتے تھے۔

قبیلہ طسی کی تاریخ: ابن حزم نے قبیلہ طسی کے نسب کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے ”جب وہ (قبیلہ طسی) یمن سے نکلے تو وہ کوہ اجادسلی کے قریب مقیم ہوئے اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ قبیلہ اسد نے ان کے اور عراق کے درمیانی علاقے میں قیام کیا مگر پھر بھی ان (قبیلہ طسی) کی بہت سی شاخیں آباد نہیں ہو سکیں جن میں بنو خارجہ بن سعد ابن عبادہ شامل تھے۔ اس قبیلہ کو جدیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ان کی والدہ کی نسبت سے مشہور ہو گیا تھا جو تیم اللہ کی دختر تھیں۔ جیش اور اسعد بھی ان کے بھائی تھے۔ یہ لوگ فتنہ و فساد کی جنگ میں ان دونوں پہاڑوں کے علاقوں سے کوچ کر گئے تھے اور حلب اور حاضر طسی کے علاقوں میں پہنچ گئے تھے انہوں نے ان شہروں کو اپنا وطن بنایا۔ مگر ان کی ایک شاخ بنو رمان ابن جنذب بن خارجہ بن سعد کے افراد ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی مقیم رہے۔ لہذا کوہستان کے باشندوں کو کوہستانی (جلیون) اور اہل حلب اور حاضر طسی کے ان قبائل کو میدانی باشندے (سہلیون) کہا جائے گا۔“

بنو خارجہ سے تعلق: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام میں بنو الجراح اور آل فضل کے جو قبائل تھے ان کا تعلق بنو خارجہ کے قبیلے سے تھا اور یہی وہ افراد تھے جن کے بارے میں ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ وہ حاضر طسی تھے اور حلب کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ کیونکہ بنو الجراح فلسطین میں مقیم تھے۔ لہذا یہ مقامات قبیلہ کے اصل وطن کو اجادسلی کی بہ نسبت ان کے لئے زیادہ قریب تھے۔ بہر حال خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے نسب کو کون سی شاخ سے تعلق قائم کرنا زیادہ صحیح ہو سکتا ہے۔

آل فضل کی امارت: اب ہمیں آل فضل کی سرداری کا حال بیان کرنا چاہئے۔ ان کی سرداری کا آغاز یوبی سلطنت سے ہوا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے عماد کا تب اصفہانی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ملک عادل یوبی کے زمانے میں ان عربوں کا امیر عیسیٰ بن محمد بن ربیع تھا۔ اس کے بعد حسام الدین مانع بن حدینہ ہوا۔ وہ ۶۳۰ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مہنا (امیر عرب) مقرر ہوا۔

جب مصر کا تیسرا سلطان قطز بادشاہ ہوا اور اس نے تاتاریوں کے قبضہ سے شام کا ملک حاصل کر لیا اور تاتاری لشکر کو عین جالوت کے مقام پر شکست دی تو اس نے سلمیہ کا علاقہ مہنا بن مانع کو حاکم حماة منصور بن مظفر کی عملداری سے نکال کر

دے دیا۔ مہنا کی تاریخ وفات کا ہمیں علم نہیں ہو سکا۔

عیسیٰ بن مہنا: جب مصر کے ترکوں کی سلطنت وسیع اور مستحکم ہو گئی اور سلطان ظاہر مستعصم کے چچا خلیفہ حاکم کو بغداد رخصت کرنے کے لئے دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت اس نے عیسیٰ بن مہنا بن مانع کو عرب قبائل کا امیر مقرر کیا اور راستوں کی حفاظت کے لئے اس نے اسے بہت سی جاگیریں عطا کیں اور اس کے چچا زاد بھائی زائل بن علی بن ربیعہ کو اس کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے قید کر دیا۔

عیسیٰ بن مہنا بن مانع نے عربوں کو اچھی طرح قابو کر لیا کیونکہ وہ اپنے والد کے برخلاف ان پر نرمی کرتا رہا۔ اس وجہ سے عرب قبائل اس کے زمانے میں درست رہے۔ البتہ جب سنقر اشقر بھاگ کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے ابغا (تاتاری سلطان) سے خط و کتابت شروع کر دی اور اسے ملک شام فتح کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔

مہنا ثانی: جب عیسیٰ بن مہنا ۶۸۴ھ میں فوت ہو گیا تو منصور قلادان نے اس کے فرزند مہنا ثانی کو (امیر عرب) مقرر کیا۔ پھر جب اشرف بن قلادان شام کی طرف روانہ ہوا اور حمص کے مقام پر اس نے قیام کیا تو مہنا ثانی بن عیسیٰ اپنی قوم اور جماعت کے ساتھ اس سے ملاقات کے لئے آیا۔ اس وقت اس نے مہنا ثانی اور اس کے فرزند موسیٰ اور اس کے دونوں بھائیوں محمد و فضل بن عیسیٰ بن مہنا کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا۔ انہیں وہ قید خانے میں رہے۔

جب کتبغا عادل تخت سلطنت پر ۶۹۴ھ میں بیٹھا تو اس نے مہنا اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا اور اس کو (امیر عرب کے عہدہ پر) بحال کر دیا۔

مہنا ثانی کی مخالفت: سلطان ناصر کے زمانے میں اسے (مصری سلاطین سے) نفرت اور مخالفت رہی وہ عراق کے تاتاری بادشاہوں کا حامی تھا اسی لئے وہ غازان کی جنگوں میں بالکل شریک نہیں ہوا۔

جب سنقر اقوش افرم اور ان دونوں کے ساتھیوں نے ۱۱۷۱ھ میں بغاوت کا اعلان کیا تو (یہ عرب قبائل) ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ اس کے پاس سے خربندا (تاتاری بادشاہ) کے پاس چلے گئے۔ وہ خود بھی سلطان سے ناراض رہا اور اپنے قبیلے ہی میں مقیم رہا۔ کبھی سلطان سے ملاقات کرنے کے لئے نہیں گیا۔

فضل کا تقرر: مہنا ثانی کا بھائی فضل ۱۱۷۱ھ میں سلطان کے پاس وفد لے کر گیا تو سلطان نے اس کی ملاقات کا حق ادا کیا اور اس کے بھائی مہنا ثانی کے بجائے اسے عربوں کا امیر مقرر کیا اور مہنا ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر وہ ۱۱۷۶ھ میں شاہ تاتار خربندا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس کا استقبال کیا اور عراق میں اسے جاگیر بھی عنایت کی۔

مہنا ثانی کی بحالی: جب اسی سال خربندا فوت ہو گیا تو مہنا ثانی اپنے قبائل کے پاس لوٹ آیا اور اس نے اپنے دونوں فرزند احمد و موسیٰ اور اپنے بھائی محمد بن عیسیٰ کو سلطان ناصر کے پاس معافی منگوانے کے لئے بھیجا۔ سلطان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں قصر ابلق میں ٹھہرایا اور ان پر بہت احسانات کئے۔ اس نے مہنا ثانی کو معافی دے دی اور اس کو اس کے عہدے پر اور جاگیر پر بحال کیا یہ واقعہ ۱۱۷۶ھ میں ہوا۔

اسی سال اس کے فرزند عیسیٰ بن مہنا اور اس کے بھائی محمد اور آل فضل کی ایک بڑی تعداد نے جو بارہ ہزار افراد پر

مشتمل تھی، حج کیا۔

آل فضل کی جلا وطنی: مہنا اس کے بعد پھر اپنی فطری سازشوں میں مشغول ہو گیا۔ اس نے تاتاریوں کے ساتھ گلہ جوڑ کر ایسا اور انہیں شام پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کرتا رہا۔ جب لگاتار اس کا یہی رویہ رہا تو نہ صرف سلطان مصر اس پر ناراض ہو گیا بلکہ اس کی تمام قوم اور قبائل اس کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ جب ۷۲۰ھ میں سلطان حج سے واپس آیا تو اس نے اس کے خلاف شام کے حکام کو احکام صادر کر دیئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام شہروں سے آل فضل کو نکال دیا گیا اور ان کے ہم پلہ خاندان آل علی کو ان کا قائم مقام مقرر کیا گیا۔

نیا سردار: چنانچہ محمد بن ابی بکر کو ان عرب قبائل کا سردار مقرر کیا گیا اور جو جاگیریں مہنا اور اس کے فرزندوں کو دی گئی تھیں، وہ محمد بن ابی بکر اور اس کے فرزند کی طرف منتقل کر دی گئیں۔

دو بارہ واپسی: مہنا کچھ مدت تک ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر ۷۳۱ھ میں حاکم حماة افضل بن مؤید کو سفارشی بنا کر سلطان مصر کے پاس پہنچا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جاگیر اور عہدہ کی طرف اسے لوٹا دیا۔

مہنا کی خودداری: مجھے مصر کے بعض بزرگوں نے جو اس کی ملاقات کے وقت موجود تھے یا اس وقت کے حالات انہوں نے سنے تھے یہ بیان کیا ہے کہ مہنا ثانی نے اس ملاقات کے موقع پر بھی سلطان کی کوئی چیز قبول کرنے سے پرہیز کیا۔ یہاں تک کہ اس نے خود اپنی اونٹنیوں کو دوڑھ کر صرف ان کا دوڑھ لیا۔ اس نے وہاں کے کسی حاکم یا امیر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور نہ ان سے کوئی چیز طلب کی۔

دیگر امرائے عرب: پھر مہنا ثانی اپنے قبائل کے پاس آ گیا اور ۷۳۱ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مظفر الدین موسیٰ جانشین مقرر ہوا۔ وہ سلطان ناصر کی وفات کے بعد ۷۳۳ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بھائی سلیمان مقرر ہوا۔ سلیمان بھی فوت ہو گیا تو اس کے بجائے اس کے چچا افضل بن عیسیٰ کا فرزند شرف الدین عیسیٰ امیر مقرر ہوا۔ وہ بھی ۷۳۳ھ میں بیت المقدس کے مقام پر فوت ہو گیا۔ اسے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے پاس دفن کیا گیا۔

مہنا سوم: اس کا جانشین اس کا بھائی سیف الدین بن فضل ہوا۔ مگر سلطان کامل بن ناصر نے ۷۳۶ھ میں اسے معزول کر کے اس نے اس کے بجائے مہنا سوم بن عیسیٰ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ اس کے زمانے میں سیف بن مہنا نے لشکر کشی کی۔ قیاض بن مہنا نے اس کا مقابلہ کیا تو سیف بن مہنا کو شکست ہو گئی۔

خیار بن مہنا: جب سلطان حسین بن ناصر بھقا روس کی زیر کفالت تھا تو اس نے اپنی سلطنت کے پہلے دور میں احمد بن مہنا کو امیر مقرر کیا۔ یوں (بھائیوں کی) خانہ جنگی رُخ ہو گئی۔ جب وہ بھی ۷۳۹ھ میں فوت ہو گیا تو اس کا جانشین اس کا بھائی فیوض بن مہنا مقرر ہوا۔ جب وہ بھی ۷۶۲ھ میں فوت ہو گیا تو اس کا جانشین خیار بن مہنا مقرر ہوا۔ اسے سلطان حسین بن ناصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے دور میں مقرر کیا تھا۔

وہ ۷۶۵ھ میں باغی ہو گیا اور بھاگ کر جنگل بیابانوں کے کھلے میدانوں میں مقیم رہا۔ آخر کار حماة کے نائب حاکم

نے اس کے بارے میں سفارش کی تو اسے اس کے عہدہ پر بحال کیا گیا۔
 خیار بن مہنا نے ۵۷۰ھ میں دوبارہ بغاوت کی لہذا سلطان اشرف نے اس کے بجائے اس کے چچا زاد بھائی زامل
 بن موسیٰ بن عیسیٰ کو (امیر عرب) مقرر کیا۔

زامل کی بغاوت: زامل (بھی باغی ہو گیا اور وہ) حلب کے علاقوں میں گھس آیا۔ وہاں اس کے ساتھ قبیلہ بنو کلاب وغیرہ
 شامل ہو گئے اور انہوں نے شہروں میں فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔

اس زمانے میں حلب کا حاکم قشتر منصور ہی تھا وہ ان کے مقابلے کے لئے نکلا اور ان کے خیموں کے پاس پہنچ کر ان
 کے مویشی ہنکالایا۔ جب وہ ان کے خیموں کے سامنے پہنچا تو عرب قبائل نے جان کی بازی لگا کر اس کا مقابلہ کیا۔ اور اس کی
 فوجوں کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں قشتر اور اس کا فرزند مارے گئے اور خود زامل (امیر عرب) نے انہیں قتل کیا اور پھر
 علم بغاوت بلند کرتا ہوا وہ چھیل بیابانوں میں گھس گیا۔

اب اس کے بجائے معقیل بن فضل بن عیسیٰ کو امیر مقرر کیا گیا۔ اس نے ۵۷۵ھ میں سلطان کو پیغام بھیجا اور خیار
 بن مہنا کے لئے پناہ طلب کی تو سلطان نے اسے پناہ دے دی۔ پھر خیار بن مہنا بھی سلطان کے پاس ۵۷۵ھ میں آیا تو
 سلطان نے خوش ہو کر اسے اس کے عہدہ پر بحال کر دیا۔

آخری امیر: جب ۵۷۷ھ میں وہ فوت ہو گیا تو اس کا بھائی قارہ اس کا جانشین مقرر ہوا۔ جب وہ بھی ۵۸۱ھ میں فوت
 ہو گیا تو اس کا جانشین معقیل بن فضل بن عیسیٰ اور زامل بن موسیٰ بن مہنا دونوں کو مقرر کیا گیا۔ ایک سال کے بعد ان دونوں کو
 ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا اور ان کا جانشین بصیر بن جبار بن مہنا کو مقرر کیا گیا اس کا اصلی نام محمد تھا موجودہ زمانے
 (ابن خلدون کا عہد) میں وہی آل فضل اور تمام قبائل طے کا امیر ہے۔

ہلا کو خاندان کا خاتمہ

عراق کا تاریک بادشاہ سلطان ابو سعید بن خربند ۳۶۳ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے بیس سال حکومت کی تھی۔ چونکہ
 اس کی اولاد نہ تھی اس لئے اس کے مرنے کے بعد ہلا کو کی نسل کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عراق کی سلطنت پر دوسرے لوگوں کا
 قبضہ ہو گیا۔ دوسرے ممالک میں بھی تاریک سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

جب بغداد میں سلطان حسن انہی کی نسل میں سے خود مختار بادشاہ ہو گیا تو اس کے برخلاف بہت سے دعوے دار پیدا
 ہو گئے۔ اس لئے اس نے سلطان ناصر کی وفات سے پہلے اپنے قاصد اس کے پاس بھیجے اور اس سے فوجی امداد طلب کی۔ اس
 نے بغداد اس کے حوالے کرنے اور فوجوں کو یرغمال کے طور پر رکھوانے کا وعدہ بھی کیا۔ بشرطیکہ وہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ
 کرے۔ سلطان نے اس کی شرائط منظور کر لی تھیں مگر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس لئے یہ کام پورا نہ ہو سکا۔

شاہ مغرب اقصیٰ سے تعلقات: اس زمانے میں خاندان بنومرین کا بادشاہ مغرب اقصیٰ (مراکش) میں طاقت ور رہا
 گیا تھا۔ اس وقت سلطان ابو یوسف یعقوب بن عبدالحق کی اولاد میں سے سلطان ابوالحسن علی بن عثمان مغرب اقصیٰ کا بادشاہ

تھا۔ اس کے اپنے پڑوسی سلطنت سے تعلقات خراب تھے۔ اس لئے اس نے مغرب اوسط کے علاقے پر حملہ کر دیا جو اس کی دشمن قوم زناقہ کے ماتحت تھا اور اس وقت بنو عبدالوہاب کا بادشاہ ابوتاشغین عبدالرحمن بن موسیٰ وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس کا پائے تخت تلمسان تھا۔

مغرب اقصیٰ کے بادشاہ نے وہاں پہنچ کر شہر پر محبتیں نصب کرا دیں اور فصیل کے چاروں طرف باڑ لگوا دی تاکہ غلہ اور خوراک وہاں نہ پہنچ سکے۔ پھر اس نے ایک ایک شہر کے تمام علاقے فتح کر لئے اور آخر میں بمابہ رمضان المبارک ۷۳۷ھ میں پائے تخت کو بھی زبردستی فتح کر لیا مخالف فوج منتشر ہو گئی اور شاہی محل کے دروازے کے قریب ہی اس کا بادشاہ بھی مارا گیا جیسا کہ آگے چل کر ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

بعد ازاں شاہ موصوف نے اس فتح کا حال سلطان ناصر کو لکھ بھیجا اور تحریر کیا کہ ان فتوحات کے بعد حاجیوں کی آمد و رفت کی رکاوٹ دور ہو گئی اور اب وہ حاجیوں کے راستوں کی سہولت کا پورا پورا انتظام کرے گا۔

ہمشیرہ شاہ کا حج: مغرب اقصیٰ کے بادشاہ نے اپنی ہمشیرہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ تلمسان کا شہر فتح کر لے گا تو وہ اسے حج کرنے کے لئے روانہ کرے گا۔ لہذا جب یہ شہر فتح ہو گیا اور وہاں سے اس کے دشمن کا خاتمہ ہو گیا تو اس کی ہمشیرہ نے اپنے شایان شان حج کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔

مغرب کی سوغاتیں: بادشاہ نے اس کے ہمراہ سلطان ناصر حاکم مصر کے لئے نہایت شان دار تحائف بھیجے کا ارادہ کیا۔ ان میں پانچ سو نہایت عمدہ اصل مغربی گھوڑے بہ ساز و سامان اور عمدہ ترین زین اور لگام سمیت شامل تھے ان کے علاوہ تلواریں اور مغرب کی مختلف نادر سوغاتیں بھی تھیں۔ نیز ریشمی اونی اور سوتی کپڑے اور چمڑے کی مصنوعات بھی شامل تھیں۔ تحائف میں انواع و اقسام کے موتی، یاقوت اور جواہرات بھی تھے۔ سب دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔

مغربی قافلہ کی آمد: شاہ مغرب نے سلطان مشرق کو مغرب کے حالات کی تحریر کئے تھے اور عظیم شاہی مہمان خانوں کے ہمراہ قوم کے اکابر وزراء اور بادشاہ کی درباری شخصیتیں بھی تھیں۔

یہ تمام مہمان سلطان ناصر کی خدمت میں ۷۳۸ھ میں پہنچے۔ سلطان نے انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور اپنے شاہی اصطبل سے اونٹ اور اونٹنیوں کے علاوہ تیس شاہی خچر بھیجے تاکہ وہ دریائے نیل سے ان کے تحائف لے کر آئیں۔

مغربی مہمانوں کا استقبال: پھر سلطان نے ان کے اعزاز میں ایک دن دربار منعقد کیا جو قابل دید تھا۔ اس دن وہ مہمان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے تحائف پیش کئے۔ سلطان نے وہ تحفے اہل دربار میں تقسیم کر دیئے اور صرف موتی اور یاقوت اپنے لئے مخصوص رکھے۔

اس کے بعد سلطان نے ان مہمانوں کو اپنے مختلف محلوں میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہرایا۔ یہ محل نہایت عمدہ فرش اور ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ سلطان نے ان پر بے حد بخشش کی اور بکثرت زاد راہ ان کے لئے مہیا کیا۔ سلطان نے اپنے خاص امراء و حکام کو ان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہ اس سال نہایت سہولت کے ساتھ فریضہ حج

تحائف کا تبادلہ: جب وہ بارگاہ سلطانی میں واپس آئے تو سلطان نے بھی شاہ مغرب کے لئے عمدہ تحائف روانہ کئے جو مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتمل تھے۔ (۱) اسکندریہ کا تیار کیا ہوا ریشمی لباس بھیجا اور ہر سال بھیجنے کا حکم دیا۔ یہ لباس اس زمانے کی قیمت کے لحاظ سے پچاس ہزار دینار کا تھا۔

(۲) شام کے کارخانوں میں بنے ہوئے تیار شاہی خیمے جن میں جداگانہ گھر اور گنبد بنے ہوئے تھے اور وہ میخوں اور لکڑیوں سے جڑے ہوئے گشتی خیمے اور چلتے پھرتے گنبد نما محل تھے۔ ان خیموں کا اندرونی حصہ عراقی ریشم کے کپڑوں کا بنا ہوا اور بیرونی حصہ عمدہ سوتی کپڑے کا نہایت کاریگری سے بنا ہوا تھا اور دیکھنے میں یہ نہایت شاندار معلوم ہوتے تھے۔ دھوپ سے بچانے کے لئے نہایت عمدہ قسم کے چتر بھی بنے ہوئے تھے۔

(۳) نہایت شاندار اور عمدہ شاہی گھوڑے تھے جن کی زمینیں اور لگا میں سونے چاندی کی بنی ہوئی تھیں اور وہ موتیوں اور نگینوں سے مرصع تھے۔ ان گھوڑوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لئے سائیس بھی تھے جو ان کی اچھی طرح سے خبر گیری کرتے تھے۔

جب یہ تحفے سلطان مغرب کی خدمت میں پہنچے تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعہ شکر یہ کے خطوط بھیجے۔ یوں ان دونوں بادشاہوں کے درمیان خلوص و محبت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہوئے اور ان میں آخری وقت تک تحفوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔

خلفاء کے حالات

یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ظاہر نے خلیفہ راشدلی اولاد میں سے مصر میں خلافت قائم کی تھی کیونکہ وہاں بغداد سے ایک شخص پہنچا تھا جس کا نام احمد بن محمد تھا۔ اس کا نسب نامہ خلیفہ راشد تک پہنچتا تھا۔ چنانچہ ۶۱۰ھ میں بیعت لے کر اسے خلیفہ تسلیم کیا گیا اور اس کا لقب الحالم رکھا گیا۔ وہ بدستور خلیفہ رہا۔ یہاں تک کہ ۷۱۰ھ میں وہ فوت ہو گیا۔

اس نے اپنے فرزند سلیمان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ لہذا سلطان ناصر کے ارکان سلطنت نے جو خلافت کے منتظم تھے اس کے ماتھ پر بیعت کی اور اس کا لقب **مستغنی** رکھا۔ وہ سلطان ناصر کے پورے عہد میں خلیفہ رہا۔

نظربندی اور جلاوطنی: ۳۶۱ھ میں سلطان کے پاس اس کے فرزندوں کے بارے میں شکایت پہنچی تو سلطان نے ناراض ہو کر اسے قلعہ میں نظر بند کر دیا اور اسے لوگوں سے ملاقات کرنے سے روک دیا۔ وہ پورے ایک سال تک نظر بندی کی حالت میں رہا۔ پھر اسے رہا کر دیا اور وہ اپنے گھر میں رہنے لگا۔ اس کے بعد دوبارہ اسے اس کے فرزندوں اور اس کے تمام رشتہ داروں کو جلاوطن کر کے قوص بھیج دیا۔ چنانچہ خلیفہ وہیں مقیم رہا اور ناصر کی وفات سے پہلے ۳۷۰ھ میں وہیں فوت ہو گیا۔

واثق کا تقرر: خلیفہ نے اپنے فرزند احمد کو خلافت کے لئے ولی عہد بنایا تھا اور اس کا لقب حاکم رکھا تھا۔ مگر سلطان ناصر نے اسے جانشین مقرر نہیں کیا، کیونکہ اسے زیادہ تر اسی ولی عہد کے بارے میں شکایات موصول ہوتی تھیں۔ لہذا اس نے مستغنی

کے بعد اس کے چچا زاد بھائی ابراہیم بن محمد کو خلافت کے لئے نامزد کیا اور اس کا لقب واثق رکھا۔ مگر وہ چند مہینوں کے بعد فوت ہو گیا۔

احمد کا تقرر: اس کے بعد ارکان سلطنت نے خلیفہ مستکفی کی وصیت پر عمل کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے فرزند احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے ۷۴۷ھ میں اسے خلیفہ مقرر کیا۔ وہ ۷۴۳ھ تک خلیفہ رہا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابو بکر خلیفہ مقرر ہوا۔ اس کا لقب معتضد تھا۔ وہ دس سال تک خلیفہ رہا اور ۷۶۳ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند محمد خلیفہ مقرر ہوا۔ اس کا لقب متوکل تھا۔

تنکز کا عروج و زوال

تنکز (سابق سلطان) لاشین کا آزاد کردہ غلام تھا جسے سلطان ناصر بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے اسے اپنا مقرب بارگاہ بنا لیا۔ وہ اس کے ساتھ تاتاریوں کے برخلاف جنگوں میں بھی شریک ہوا تھا اور جب سلطان کو معزول کیا گیا تو وہ معزولی کے زمانے میں اس کے ساتھ قلعہ لکرک گیا اور وہیں اس کی خدمت میں مشغول رہا۔

دمشق کا حاکم: جب سلطان (بحال ہو کر) اپنے ہائے تخت واپس آیا اور اپنی سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تو اس نے اپنے پسندیدہ حکام کو صوبائی حکومتوں کے عہدے دیئے۔ جب اس نے تنکز کو دمشق کا نائب حاکم اور بلا دروم کا گران مقرر کیا تو اس نے ملطیہ کا علاقہ فتح کیا اور ارمینیا پر حملے کرتا رہا۔

وہ اکثر سلطان کے پاس مشورہ کے لئے مصر پہنچتا تھا جہاں سلطان اس سے مشورہ کیا کرتا تھا اور اکثر وہ اہم کاموں میں گفت و شنید کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ اسے بلواتا تھا۔ کیونکہ وہ تاتاریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بہت ماہر تھا۔

جب سلطان ابو سعید فوت ہو گیا اور ہلا کو خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو بغداد اور تورین کا انتظام خراب ہو گیا۔ یہ دونوں پڑوسی سلطنتیں تھیں اور دونوں نے سلطان سے فوجی امداد کی درخواست کی تھی۔

ان میں سے کوئی تنکز سے ناراض ہو گیا اور اس نے سلطان کو یہ اطلاع دی کہ تنکز اسے فریب دے رہا ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی کر کے اس کے دشمنوں کے ساتھ سازش کر رہا ہے۔

لہذا سلطان نے اس کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ اس سے پہلے سلطان اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے اپنے دو ادارہ جارا کو بھیجا کہ وہ اسے نکاح کی تقریب کے لئے بلا لائے۔ وہ ہمسری اور غیرت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔ اس لئے اس نے اس کی بے وفائی اور مکر و فریب کا تذکرہ کر کے اسے سلطان کے خطروں سے آگاہ کیا اور (دمشق ہی میں) رہنے کا مشورہ دیا۔

تنکز کی گرفتاری: اب سلطان ناصر نے صغد کے نائب حاکم طشتر کو پیغام بھیجا کہ وہ دمشق پہنچ کر تنکز کو گرفتار کر لے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر اسے ۷۴۷ھ میں گرفتار کر لیا۔ تنکز نے دمشق میں اٹھائیس سال تک حکومت کی تھی۔

سلطان ناصر نے اپنے آ زاد کردہ غلام بشتک کو فوج دے کر دمشق بھیجا۔ چنانچہ اس نے وہاں پہنچ کر اس کے تمام مال و دولت کو ضبط کر لیا۔ اس کے پاس اس قدر مال و دولت تھی کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اسے بیڑیوں میں جکڑ کر مصر لایا گیا جہاں اسے اسکندر یہ میں قید کر دیا گیا اور قید خانے ہی میں اسے قتل کر دیا گیا۔

سلطان ناصر کی وفات

سلطان ناصر محمد بن قلاؤن ماہ ذوالحجہ میں ۴۱۱ھ کے آخر میں طبعی موت فوت ہوا۔ اس کی موت سے تھوڑے عرصہ پہلے اس کا فرزند انوک فوت ہو گیا تھا جسے اس نے صبر و شکر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ مصر کا سب سے زیادہ خود مختار اور بہترین بادشاہ تھا۔ اگر اس کی حکومت کا اس وقت سے شمار کیا جائے تب کہ وہ طبعا کے زیر نگرانی بادشاہ بنا تھا تو اس کی مدت حکومت اڑتالیس سال ہوتی ہے اور اگر بیہوش کے بعد اس وقت سے اس کا شمار کیا جائے جب کہ وہ خود مختار بادشاہ ہو گیا تھا اور کوئی اس کا حریف نہ رہا تھا تو اس کی مدت حکومت بیس سال ہے۔

ناصر کے حکام

نائب السلطنت: اس کے دور حکومت میں صرف تین افراد اس کے نائب مقرر ہوئے تھے۔ سب سے پہلے بیہوش دوادار مورخ نائب ہوا۔ اس کے بعد بکتر جو کندر نائب مقرر ہوا۔ پھر ارغون دوادار نائب ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے کسی کو نائب مقرر نہیں کیا اور اس کے آخری زمانے تک یہ عہدہ خالی رہا۔

چیف سیکرٹری: سلطان ناصر کے دوادار (چیف سیکرٹری) بالترتیب مندرجہ ذیل حضرات تھے:

(۱) ایدمر (۲) سلار (۳) حلی (۴) یوسف بن الاسبغ (۵) بقا (۶) طاجار۔

ناصر کے کاتب: اس کے کاتب (سیکرٹری) اس ترتیب سے تھے:

(۱) شرف الدین بن فضل اللہ (۲) علاء الدین بن الامیر (۳) محی الدین بن فضل اللہ (۴) شہاب الدین بن محی الدین (۵) علاء الدین بن محی الدین۔

ناصر کے قاضی: اس کے دور میں پہلے قاضی (مشہور عالم) تقی الدین بن دققی العبدتھے۔ پھر بدر الدین بن جماعہ قاضی مقرر ہوئے۔

اس (تاریخی) کتاب میں عہدیداروں کے نام بیان نہیں کئے جاتے ہیں۔ مگر ان عہدوں کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے کہ ناصر کی سلطنت بہت بڑی تھی اور اس کا عہد حکومت بھی طویل تھا۔ اس کے زمانے میں ترکوں کی سلطنت بہت مستحکم ہو گئی تھی۔

کاتبوں کا ذکر قاضیوں سے پہلے اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ سلطان کے مددگار ہوتے ہیں۔ تاہم قاضیوں کا مرتبہ ان سے اعلیٰ ہے۔

دو حاکموں کی کش مکش جب سلطان کا مرض شدید ہو گیا تو اس کا عظیم ترین حاکم قوصون جلدی سے اپنے مسلح غلاموں کو لے کر شاہی محل میں داخل ہوا۔ اس کے ہم پلہ حاکم بشک تھا۔ اسے اس کے بارے میں شک و شبہ ہوا۔ لہذا اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو مسلح کر لیا اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔

بشک نے پوشیدہ طور پر سلطان سے اس کی شکایت کی تو سلطان نے ان دونوں کو بلوا کر ان میں مصالحت کرا دی۔ سلطان نے پہلے یہ ارادہ کیا کہ قوصون کو اپنا جانشین بنائے مگر وہ باز رہا۔ پھر وہ اپنے فرزند ابو بکر کو جانشین بنا کر فوت ہو گیا۔

(اس کے مرنے کے بعد امراء میں اختلاف رائے ہوا) بشک اس کے دوسرے فرزند احمد حاکم الکبرک کو جانشین بنانا چاہتا تھا مگر قوصون سلطان کی وصیت کو پورا کرنے پر مہر تھا۔

باب چہارم

سلطان ناصر کے جانشین

ابوبکر کی بادشاہت آخر کار ہشک بھی قوصون کی رائے سے متفق ہو گیا اور ابوبکر کے ہاتھ پر (بادشاہت کی) بیعت کی گئی اور اس کا لقب منصور رکھا گیا، مگر سلطنت کا انتظام قوصون اور اس کے ساتھی قطلو بغا فخری کے ہاتھوں میں تھا۔

نئے حکام کا تقرر ان دونوں (سربراہوں) نے سلطان کا نائب طقمر مد کو مقرر کیا اور حلب کا حاکم طشتر مد کو بنا کر بھیجا اور حمص کا حاکم طغرانی کے بجائے اخضر کو مقرر کیا گیا۔ البتہ کتبغا صالحی کو دمشق کا حاکم برقرار رکھا۔

قوصون اور قطلو بغا نے حریت کے کاموں میں ہشک کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لئے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا جائے کیونکہ جب وہ تنگد مال و جائیداد ضبط کرنے کے لئے دمشق گیا تھا تو اسے یہ علاقہ بہت پسند آیا تھا۔ لہذا انہوں نے اس کا استغنیٰ منظور کر لیا۔ مگر جب وہ رخصت ہونے کے لئے آیا تو قطلو بغا فخری نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اسے اسکندریہ بھیج دیا گیا۔ جہاں وہ نظر بند رہا۔

سلطان ابوبکر کی معزولی: ادھر سلطان ابوبکر عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور سلطنت کے انتظام سے الگ ہو گیا۔ وہ رات کے وقت بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرنے لگا اور عام رعایا سے علی مل گیا۔

ارکان سلطنت نے اس کے اس رویہ کو بہت ناپسند کیا لہذا قوصون اور قطلو بغا نے ستاون دنوں (تقریباً دو مہینے) کے بعد اسے معزول کر دیا اور اسے قوص کے مقام پر بھیج دیا۔

کجک اشرف کی بادشاہت: اب ارکان سلطنت نے اس کے بھائی کجک کو حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب اشرف رکھا گیا۔ انہوں نے طقمر مد کو بھی نائب سلطان کے عہدہ سے معزول کر دیا اور قوصون خود اس عہدہ پر فائز ہو گیا انہوں نے طقمر مد کو حجاجہ کا نائب حاکم بنا کر بھیجا اور وہاں کے حاکم افضل بن المویذ کو الگ کر دیا۔ یوں ایوبی خاندان کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا۔

انہوں نے طاہر وادار کو بھی گرفتار کر کے اسکندریہ بھیجا۔ جہاں وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ انہوں نے اسکندریہ کے قید خانے میں ہشک کو قتل کرنے کے لئے بھی ایک آدمی بھیجا۔

امرائے شام کی بغاوت: جب شام کے امراء کو یہ اطلاع ملی کہ قوصون مصر کی سلطنت کا مطلق العنان حاکم بن گیا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے احمد بن الناصر کو بادشاہ بنانے کا عزم مصمم کر لیا۔ وہ ان دنوں قلعہ الکرك میں مقیم تھا۔

لہذا حاکم حمص طشتر اور حاکم حلب اخضر نے اس سے خط و کتابت کی اور اس سے بادشاہ بننے کی درخواست کی۔ یہ اطلاع مصر بھی پہنچ گئی تھی۔ اس لئے قطلو بغا فوجیں لے کر قلعہ الکرك کے محاصرہ کے لئے روانہ ہوا۔ دمشق کے حاکم طنبغا صالحی کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اس لئے وہ بھی لشکر لے کر حلب کی طرف روانہ ہوا۔ تاکہ وہ طشتر (حاکم حمص) اور اخضر (حاکم حلب) کو گرفتار کر سکے۔

احمد بن الناصر کی حمایت: قطلو بغا فخری بذات خود اپنے ساتھی قوصون سے تنگ آیا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھی حاوی ہو چکا تھا۔ اس لئے جب وہ فوجیں لے کر مصر سے روانہ ہوا تو اس نے احمد بن الناصو کی بادشاہت کو تسلیم کر کے اسے الکرك پیغام بھجوایا تھا۔ جب وہ شام پہنچا تو اس نے دمشق احمد کی بادشاہت کا اعلان کیا اور طمر مرد نائب حماة کو بھی پیغام بھجوایا۔ چنانچہ اس نے اس کا پیغام منظور کر لیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ اطلاع دمشق کے حاکم طنبغا کو اس وقت ملی جب کہ وہ حلب کا محاصرہ کر رہا تھا۔ لہذا اس نے محاصرہ ہٹا لیا۔ قطلو بغا نے اسے بھی احمد کی بادشاہت کے حق میں دعوت دی مگر اس نے انکار کیا۔ لہذا اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ مصر چلا گیا۔

بادشاہت کا اعلان: اب قطلو بغا فخری شام کے پورے ملک پر قابض ہو گیا تھا وہ احمد کی بادشاہت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس نے امرائے مصر کو بھی یہ دعوت دی۔ چنانچہ وہ بھی احمد کے حامی ہو گئے۔

چنانچہ امرائے مصر میں سے اید غش، افسر، سلاری، غازی اور دیگر حضرات احمد بن ناصر کی حمایت کے لئے اکٹھے ہوئے۔ سلطنت کے سربراہ کو ان کے بارے میں شک دہا ہوا اور اس نے انہیں گرفتار کرنے کا قصد کیا۔ طنبغا صحیادی نے اپنے ساتھیوں سے جو اس کے پاس تھے مشورہ کیا مگر انہوں نے اسے دھوکا دیا۔

اید غش اصطلیل کے قریب اس کے پاس تھا وہ امیر ماصور یہ تھا۔ لہذا جب یہ لوگ سوار ہو کر نکلے تو قوصون نے بھی سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ مگر اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کر کے اسے جانے سے روکا۔ پھر ان کے ساتھ خود سوار ہو کر نکلا اور شور و غل مچایا۔

بلوہ اور فساد: اس نے عوام کو چیخ کر اور غلایا کہ وہ قوصون کے گھروں کو لوٹ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے گھروں کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے ان حماموں کو بھی برباد کر دیا جو اس نے قبرستان کے پاس قلعہ کے نیچے بنوائے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں کے شیخ شمس الدین ابن نہانی کو بھی لوٹ لیا اور ان کے کپڑے اتار لئے۔ پھر یہ بلوائی شہر پہنچے اور وہاں بھی عام لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ وہ حنفی قاضی حسام الدین غوری کے گھر میں بھی گھس گئے اور انہیں لوٹ کر ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا۔

قاضی کے گھر بلوائیوں کو وہ شخص لے کر گیا جو کسی مقدمہ کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا تھا۔ یوں اس حرکت سے ان لوگوں کی رسوائی ہوئی۔

قوصون کی گرفتاری اور موت: پھر اید غش اور اس کے ساتھی قلعہ میں گھس گئے اور انہوں نے قوصون کو گرفتار کر کے اسکندریہ بھیجا جہاں وہ قید خانے ہی میں فوت ہو گیا۔

توصون نے امراء کی ایک جماعت کو طنبغا صالحی کے استقبال کے لئے روانہ کیا تھا۔ لہذا قراستقر سلاری ان کے تعاقب میں روانہ ہوا اور انہیں اور صالحی کو گرفتار کر لیا اور ان سب کو ۲۵ھ کے بعد اسکندریہ بھیجا۔ اس کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ احمد بن الناصر کو تمام حالات سے مطلع کیا گیا۔ پھر امراء و حکام کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے مقید کر دیا گیا۔

سلطان احمد کی حکومت

سلطان احمد قلعہ الکراک سے ماہ رمضان میں ۳۲ھ میں مصر پہنچا تو اس کے ہمراہ نائب حاکم محص طشتر اور نائب حاکم حلب اخضر اور قطلو بغا فخری آئے۔ اس نے (آتے ہی) طشتر کو مصر کا نائب مقرر کیا اور قطلو بغا فخری کو دمشق کا نائب حاکم بنا کر بھیجا۔ ایک مہینے کے بعد سلطان احمد نے اخضر کو گرفتار کر لیا اور اید غمش اور قسفر سلاری کو بھی گرفتار کیا۔ پھر اید غمش کو حلب کا حاکم بنایا۔

جب قطلو بغا فخری کو دمشق پہنچنے سے پہلے یہ خبریں ملیں تو اس نے حلب کی طرف راستہ بدل دیا۔ فوجوں نے اس کا تعاقب کیا مگر اسے گرفتار نہیں کر سکیں۔

امراء کی بے اعتمادی اید غمش کو حلب میں گرفتار کر کے مصر بھیج دیا گیا جہاں وہ طشتر کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ یوں امراء اور حکام ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سلطان بھی ان سے بیزار ہو گیا۔

احمد کا الکراک میں قیام: جب امراء اور حکام سلطان سے بیزار ہو گئے اور وہ بھی انہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا تو وہ اپنی بادشاہت کے تین مہینے کے بعد قلعہ الکراک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ طشتر اور اید غمش کو بھی نظر بندی کی حالت میں لے گیا۔ خلیفہ حاکم بھی اس کے ہمراہ گیا۔

ادھر صفد کا نائب حاکم بھیرس احمد کا باغی ہو کر دمشق چلا گیا جہاں کوئی منظم حکومت قائم نہ تھی۔ تاہم فوجوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ سلطان نے اس کی گرفتاری کا حکم صادر کیا تو اس کے ماتحت افراد نے تعیل حکم سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مصر کے بادشاہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ الکراک کے حاکم کا حکم قابل تعیل نہیں ہے۔

شام میں بے چینی: سلطان احمد نے الکراک میں بہت عرصہ تک قیام کیا جس سے شام کے علاقے میں بے چینی پھیل گئی۔

لہذا مصر کے امراء و حکام نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پائے تخت واپس آ جائے مگر سلطان نے انکار کیا اور یہ جواب بھیجا۔

”یہ بھی میری ملک کا حصہ ہے۔ مجھے اختیار ہے کہ میں اس کے کسی شہر میں جہاں چاہوں قیام کروں۔“

اس کے بعد اس نے طشتر اور اید غمش فخری کو (جو قید کی حالت میں اس کے ہمراہ گئے تھے) قتل کر دیا۔

صالح اسماعیل کی تخت نشینی (اس واقعہ کے بعد) مصر کے امراء و حکام کا اپنے بزرگ بھیرس علانی اور ازغون کا ملی کی قیادت میں ایک اجتماع ہوا جس میں سلطان احمد کو حزول کر کے اس کے بھائی اسماعیل کو ماہ محرم ۳۳ھ میں تخت نشین کیا گیا اور اس کا لقب صالح رکھا گیا۔

اس نے اقسقر سلاری کو حاکم مقرر کیا اور ایدغمش ناصری کا حلب کی حکومت سے دمشق کی حکومت پر تبادلہ کیا اور اس کے بجائے حلب کا حاکم طغر مرد کا مقرر کیا۔ پھر اس نے ایدغمش کو دمشق کی حکومت سے معزول کر دیا اور اس کے بجائے طغر مرد کا تقرر کیا اور حلب کا حاکم طنبغا مردانی کو مقرر کیا۔ جب مردانی فوت ہو گیا تو اس کے بجائے طنبغا سحیوی کو مقرر کیا۔ اس کے بعد تمام انتظامی معاملات درست ہو گئے۔

رمضان کی بغاوت اور قتل بعد ازاں چند غلاموں نے رمضان بن ناصر کو بھڑکایا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرے۔ انہوں نے اسے مدد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ مگر جب وہ سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اب کچھ دیر تو وہ اپنے غلاموں کے درمیان کھڑا رہا جو اس کی حمایت میں نعرے لگاتے رہے۔ پھر وہ قلعہ الککرک کی طرف فرار ہو گیا۔ فوج نے اس کا تعاقب کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کر لیا جب وہ اسے لے کر آئے تو مصر میں وہ مارا گیا۔

اس کے بعد سلطان صالح بہت سے امراء سے بدگمان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے نائب اقسقر سلاری کو گرفتار کر کے اسکندریہ بھجوا دیا۔ جہاں اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس کے بجائے انجاء الملک کو نائب السلطنت مقرر کیا گیا۔

قلعہ الککرک کا محاصرہ ۴۳۰ھ میں سلطان نے قلعہ الککرک کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں روانہ کیں تو اس وقت سلطان احمد کے کچھ فوجی دستے الککرک سے بھاگ کر پہنچ گئے۔

۴۳۵ھ میں الککرک کے محاصرہ کے لئے جو امراء مصر آ کر میں روانہ ہوئے تھے وہ قماری اور مساری تھے۔ یہ لوگ سلطان احمد کا محاصرہ کر کے اس کے گھر میں گھس گئے تھے اور پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔

سابق سلطان احمد کا قتل سلطان احمد مصر کے پائے تخت میں تین مہینے اور چند دن مقیم رہا۔ پھر وہاں سے وہ ۴۳۳ھ میں بماء محرم قلعہ الککرک منتقل ہو گیا تھا۔ آخر کار اس کا محاصرہ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔

اس کے زمانے میں طنبغا مردانی نائب حاکم حلب فوت ہو گیا تھا۔ لہذا اس کے بجائے طنبغا سحیوی کو حاکم مقرر کیا گیا۔ سیف الدین طرائی جاشگیر طرابلس کا نائب حاکم تھا۔ اس کے بجائے اقسقر ناصری کو مقرر کیا گیا۔

سلطان صالح کی وفات سلطان صالح اسماعیل ۴۳۶ھ میں اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ اس نے تین سال اور تین مہینے حکومت کی۔

الکامل کی بادشاہت

اس کا بھائی زین الدین شعبان تخت نشین ہوا اس کا لقب الکامل تھا۔ اس کی سلطنت کا انتظام ارغون حلاوی کے سپرد تھا اور وہی مصر کا نائب السلطنت تھا انجاء الملک کو پہلے صغد بھیجا گیا۔ پھر اسے راستے ہی میں گرفتار کر کے دمشق لایا گیا۔ وہاں سے اسے قماری الکبیر کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اسے اسکندریہ کے قید خانے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے نائب حاکم دمشق طغر مرد اور بک اشرف بن ناصر کو جسے قوصون نے بادشاہ بنایا تھا اور پھر وہ معزول کر دیا

گیا تھا بلو الیا۔ انجاء الملک جو کندار دمشق کے قید خانے میں فوت ہو گیا۔

سلطان الکامل کا قتل۔ سلطان الکامل نے اپنے ارکان سلطنت پر بہت مظالم برپا کرنے شروع کر دیئے تھے کیونکہ اسے یہ خیال تھا کہ وہ اس پر پابندی کرادیں گے۔ لہذا مصر و شام کے امراء و حکام نے آپس میں خط و کتابت کر کے فیصلہ کیا کہ اس سے چھکارا حاصل کیا جائے۔

چنانچہ ۷۷۲ھ میں طلبغا سحیادی اور اس کے ساتھیوں نے دمشق میں علم بغاوت بلند کیا، وہ لشکر لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

سلطان الکامل نے منجوسنی کو ان کی جاسوسی کے لئے بھیجا تو سحیادی نے اسے قید کر لیا۔ جب یہ خبر سلطان کامل کو ملی تو اس نے شام کی طرف فوجیں بھیجیں اور حاجی بن الناصر اور امیر حسین کو قلعہ میں بند کر دیا۔

ادھر مصر کے امراء و حکام بغاوت کے لئے اکٹھے ہو گئے اور وہ سب ایڈمر حجازی اقسقر ناصری اور ارغون شاہ کی قیادت میں قبتہ النصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لئے سلطان الکامل نے اپنے موالی کو اپنے نائب ارغون علاادی کی سرکردگی میں بھیجا۔ اس خانہ جنگی میں ارغون علاادی میں مارا گیا۔

سلطان الکامل شکست کھا کر شہر قلعہ واپس آ گیا۔ وہ پوشیدہ طور پر خفیہ دروازہ سے قلعہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے قید خانے کا قصد کیا، ان دونوں کو قتل کر دئے، مگر خدام اس راہ میں حائل ہوئے اور انہوں نے ان کے دروازے بند کر لئے۔

سلطان الکامل نے (مال و دولت کے) ذخیرے نکال کر لے جانے کا ارادہ کیا۔ مگر (باغی فوجیں) جلد قلعہ میں داخل ہو گئیں اور آتے ہی وہ حاجی بن الناصر کو قلعہ کے قید خانے سے نکال کر لائے اور اسے تخت نشین کرایا۔

پھر انہوں نے الکامل کو تلاش کیا اور اس کی لونڈیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اس کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اسے (پوشیدہ مقام سے نکال لیا گیا اور) حاجی کے قید خانے میں اسے بند کر دیا گیا اور دوسرے دن اس کا کام تمام کر دیا گیا۔

مظفر حاجی کا عہد حکومت

اب (دوسرے بھائی) امیر حسین کو بھی رہا کر دیا گیا اور مظفر حاجی کی سلطنت کا انتظام ارغون شاہ حجازی کے سپرد کیا گیا اور طقتر احمدی کو حلب کا نائب حاکم اور صلاحی کو حمص کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔

الکامل کے تمام موالی کو قید کر دیا گیا۔ پھر الکامل کے گھر سے ایک صندوق نکالا گیا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں سحر و طلسمات کے اثرات ہیں۔ لہذا تمام امراء کے سامنے اسے جلادیا گیا۔

ظلم و استبداد کا طریقہ۔ اس کے بعد مظفر حاجی نے بھی ظلم و استبداد کا وہی طریقہ اختیار کیا جو اس کے بھائی کا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تخت نشینی کے چالیس دن کے بعد حجازی اور ناصری کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس نے ارغون شاہ کو بھی گرفتار کیا

اور اسے سعد کا نائب حاکم بنا کر بھیج دیا۔

اس نے طقتر احمدی کے بجائے حلب کا نائب حاکم تدمر بدری کو مقرر کیا اور اپنا نائب الحاج ارطائی کو مقرر کیا۔
 مکیاوی کی بغاوت: جب اس کے ظلم و استبداد کا طریقہ حد سے بڑھ گیا تو مصر و شام کے امراء و حکام بدگمان ہو گئے۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ ۷۲۸ھ میں مکیاوی نے بغاوت کی اور اس بغاوت میں شام کے حکام شامل ہو گئے۔

نا کام سازش: جب یہ خیر مصر پہنچی تو وہاں کے حکام نے بھی حملہ کرنے کی سازش کی۔ جب سلطان مظفر حاجی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے آدھی رات کو اپنے موالی کو سوار کر کر قلعہ کا گشت کرایا اور امراء کو دوسرے دن شاہی محل میں بلوایا۔ چنانچہ جس کسی پر مخالفت کا الزام تھا ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے کچھ امراء جب بھاگ گئے تو شہر کے اندر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سب کو گرفتار کر کے اسی رات قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا مگر وہ راستے ہی میں قتل کر دیئے گئے۔

دوسرے دن سلطان حاجی نے ان (مقتول) حکام کے بجائے پندرہ حکام کا تقرر کیا۔
 جب یہ اطلاع شام پہنچی تو حجابی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے کئی حکام کو گرفتار کیا۔

مکیاوی کا قتل: سلطان مظفر کو جب طبعاً مکیاوی کی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے اپنے خاص حاکم اطمینا کو شام بھیجا تاکہ وہ رائے عامہ کا اندزہ لگائے۔ چنانچہ اس نے وہاں پہنچ کر عوام الناس کو سلطان مظفر کی اطاعت پر آمادہ کیا اور انہیں مکیاوی کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ (انہوں نے مشتعل ہو کر) مکیاوی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مصر بھیجا۔
 یوں (سلطان کے خلاف) بغاوت کا فتنہ رفع ہو گیا اور سلطان مظفر کی حکومت مستحکم ہو گئی۔

کبوتر بازی پر ملامت: ۷۲۸ھ میں جب جبقا (شام سے مصر کی طرف) لوٹا تو اس نے دیکھا کہ مصر کے حکام سلطان مظفر (کی بری عادتوں سے) پریشان تھے۔ وہ اس کی کبوتر بازی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جبقا کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کی (یہ بری عادت) چھڑا دے۔

لہذا جبقا سلطان پر بہت ناراض ہوا۔ پھر اس کے حکم سے تمام کبوتر ذبح کر دیئے گئے اس وقت سلطان نے جبقا سے

کہا:

”میں تمہارے اچھے افراد اسی طرح ذبح کروں گا جس طرح تم نے (میرے یہ) کبوتر ذبح کئے ہیں۔“

امراء کی بغاوت: جبقا اس کی اس بات سے بہت پریشان ہوا اور صبح سویرے امراء مصر اور نائب السلطنت بیقاروں کے پاس پہنچا۔ ان سب نے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور وہ سب قبۃ النصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان مظفر بھی اپنے موالی اور اپنے حامی امراء کو لے کر پہنچا مگر وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کی معزول پر سب متفق تھے۔ سلطان نے امیر شیخو کو بھیجا تاکہ وہ انہیں ٹھنڈا کرے مگر وہ سب اس کو معزول کرنے پر مصر تھے۔ لہذا وہ یہی اطلاع لے کر آیا۔

سلطان مظفر کا قتل: (یہ حالت دیکھ کر) سلطان نے جنگ شروع کر دی۔ آغاز جنگ ہی میں سلطان کے ساتھی حکام

باغیوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد بیقاروس نے سلطان پر حملہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے اس کے حوالے کر دیا اس وقت بیقاروس نے قلعہ کے باہر اس کی والدہ کے مزار کے قریب سلطان کو ذبح کر ڈالا اور وہیں اُسے دفن کر دیا گیا۔

حسن ناصر کی حکومت

یہ لوگ اسی سال ماہ رمضان میں قلعہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے پورا دن بادشاہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کرنے میں گزارا۔ (جب بہت دیر ہو گئی تو) اکثر موالی بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور سوار ہو کر قبۃ انصر کی طرف جانے لگے۔ (یہ صورت حال دیکھ کر) تمام امراء نے حسن بن الناصر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے والد کے لقب کے مطابق اس کا لقب بھی الناصر رکھا۔ اس نے اپنے بھائی حسین اور اپنے موالی کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ مال و دولت جو باہر نکال گئی تھی خزانہ میں داخل کی گئی۔

حسن ناصر کے حکام۔ سلطنت کا انتظام کرنے کے لئے چھ حکام کی ایک کمیٹی قائم کی گئی وہ حکام یہ تھے: (۱) شیخوا (۲) طاز (۳) جقا (۴) احمد شادی (۵) شرنخاناہ (۶) ارغون اسماعیلی۔

ان سب کا سردار بیقاروس تھا جو قاضی کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے مظفر کی حکومت کے دنوں سربراہوں یعنی جاز اور اسقتر کو قلعہ کے قید خانے ہی میں قتل کر دیا اور خود بیقاروس مصر کا نائب السلطنت مقرر ہوا۔

ارقطائی اور ارغون شاہ تدمر بدری کے بجائے حلب کے نائب حاکم مقرر ہوئے۔ بعد میں صحیوی کے مقتول ہونے کی وجہ سے اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا گیا اور اس کے بجائے ایاس مصر کو حلب کا حاکم مقرر کیا گیا۔

اب بیقاروس نے اپنے ساتھی احمد شادی شرنخاناہ کو گرفتار کر لیا اور اسے صغد کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس نے جقا کو بھی اپنی مجلس سے الگ کر کے اسے طرابلس کا نائب حاکم بنا کر بھیجا اور ارغون اسماعیلی کو حلب کا نائب حاکم مقرر کیا۔

اسی سال مہنا بن عیسیٰ (امیر عرب) نے بغاوت کی اور جنگ میں اسے شکست ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بھائی احمد سلطان کے پاس آیا تو اسے امیر عرب مقرر کیا گیا۔ یوں عربوں کا فتنہ و فساد دور ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بھائی فیاض (امیر عرب) مقرر ہوا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

ارغون شاہ کا قتل۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ رونما ہوا کہ جب جقا کو طرابلس کا نائب حاکم بنا کر بھیجا گیا تو وہیں وہ ایاس الحاجب کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وہ حلب کا نائب حاکم مقرر ہوا تھا۔

جب وہ دمشق پہنچے تو جقا کو یہ اطلاع ملی کہ ارغون شاہ نے دمشق کے ارکان سلطنت کی خواتین کی تحریک پر اس کے حرم (خواتین) کی بے عزتی کی ہے۔ (جقا یہ خبر سن کر بہت مشتعل ہوا لہذا) وہ رات کے وقت اس کے گھر پہنچا۔ جب ارغون شاہ باہر نکلا تو اس نے اس کو پکڑ کر اسی وقت ذبح کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے (جعلی) شامی حکم جاری کیا۔ جس میں ان لوگوں اور امراء کی حمایت کی گئی تھی۔ پھر وہ اس کا عمدہ مال و سامان نکال کر طرابلس روانہ ہو گیا۔

قاتلوں کی گرفتاری اور قتل۔ اس کے بعد مصر سے (شامی) حکم آیا کہ جقا کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم میں اس

(جعلی) حکم نامہ کی تردید کی گئی تھی جو انہوں نے جاری کیا تھا۔ لہذا دمشق سے فوجیں روانہ ہوئیں اور انہوں نے جبقا اور ایاس حاجب کو طرابلس میں گرفتار کر لیا اور انہیں مصر لے آئے جہاں وہ دونوں قتل کر دیئے گئے۔
ارغون شاہ کے بجائے شمس ناصری دمشق کا نائب حاکم مقرر ہوا اور ارغون کا فلی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ تمام کارروائی ماہ جمادی الاول ۷۵۷ھ میں مکمل ہوئی۔

ارغون شاہ کے حالات ارغون شاہ دراصل چین کا باشندہ تھا جو بغداد کے تاتاری بادشاہ سلطان ابوسعید کو پیش کیا گیا تھا۔ اس نے اسے امیر خواجہ کو عطیہ کے طور پر دیا جو امیر جوہان کا نائب تھا۔ امیر خواجہ نے اسے سلطان ناصر کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ سلطان کے دربار میں اس نے بہت ترقی کی۔ یہاں تک کہ سلطان نے اس کا نکاح امیر عبدالواحد کی دختر سے کر دیا۔

سلطان الکامل نے اسے استازار (افسر مال) مقرر کیا۔ سلطان مظفر کے عہد میں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ چنانچہ پہلے اسے صغد کا نائب حاکم اور پھر اسے حلب کا حاکم مقرر کیا گیا۔
جب طلبغا سمیایوی جو دمشق کا حاکم تھا۔ جبقا کی شکایت پر قید کیا گیا تو ارغون شاہ کو دمشق کا حاکم مقرر کیا گیا۔

بیقاروس کی اسیری سلطان حسن نے محمد ظلم و استبداد کا رویہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے افسر مال منجک یوسفی اور سلحدار کو بیقاروس اور اس کے ساتھیوں کے مشورہ کے بغیر گرفتار کر کے مقید کر دیا۔

منجک بیقاروس کا خاص آدمی تھا اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا اب بیقاروس کو اپنا معاملہ بھی مشتہ نظر آیا۔ لہذا اس نے اور طاز نے سلطان سے حج کرنے کی اجازت طلب کی تو دونوں کو اجازت مل گئی۔ مگر سلطان نے پوشیدہ طور پر طاز کو یہ ہدایت کی کہ وہ بیقاروس کو (آگے چل کر) قتل کر دے۔

آخر کار وہ دونوں (حج کے لئے) روانہ ہو گئے۔ جب وہ بیبوع کے مقام پر پہنچے تو طاز نے بیقاروس کو گرفتار کر لیا۔ بیقاروس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے حج ادا کرنے کے لئے بیڑیوں میں جکڑ کر آزاد چھوڑ دے۔ (اس نے ایسا ہی کیا) جب اس نے مراسم حج ادا کئے اور وہ واپس آنے لگے تو طاز نے سلطان کے حکم کے مطابق اسے قلعہ الککرک کے مقام پر مقید کر دیا۔

بیقاروس کو بعد میں رہا کر کے اسے حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا، مگر وہاں اس نے بغاوت اختیار کی جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

جب بیقاروس کی اسیری کی خبر احمد شادی شہر منخانہ کو صغد کے مقام پر موصول ہوئی تو اس نے بھی پھر علم بغاوت بلند کیا۔ سلطان نے اس کے برخلاف فوجیں بھیجیں اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا جہاں اسے اسکندریہ کے مقام پر قید کر دیا گیا اور اس کے بجائے امرائے مصر میں سے منطائی حاکم مقرر ہوا۔

شاہ یمن کی گرفتاری اور رہائی: ۷۵۷ھ میں جب کہ طاز حج کرنے کے لئے آیا ہوا تھا، شاہ یمن مجاہد علی بن داؤد المویذ بھی حج کرنے کے لئے آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں عوام میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ وہ غلاف کعبہ لینا چاہتا ہے۔ مصر

کے حاجیوں کے وفد نے اہل یمن کی اس حرکت کو ناپسند کیا۔ لہذا حاجیوں کے قافلوں میں اس پر جنگ ہوئی۔ اس زمانے میں بیقاروس مقید تھا لہذا اسے رہا کر کے اسے گھوڑے پر سوار کر لیا گیا۔ اس نے اس ہنگامہ میں بہت بہادری کا ثبوت دیا۔ مجاہد کو شکست ہوئی، یمن کے حاجیوں کو لوٹ لیا گیا اور مجاہد کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا گیا، جہاں وہ مقید رہا تا آنکہ سلطان صالح کے دور میں ۷۵۲ھ میں اسے رہا کیا گیا۔

بیقاروس کو بھی (اس خانہ جنگی کے بعد) مقید کر دیا گیا۔

جب (شاہ یمن) مجاہد کو رہا کیا گیا تو اس کے ہمراہ قشتر منصور کی بھیجا گیا تاکہ وہ اسے (صحیح سالم) اس کے ملک واپس پہنچا دے۔ جب وہ ینبوع کے مقام پر پہنچا تو یہ خبر اڑ گئی کہ مجاہد نے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا۔ لہذا قشتر منصور نے اسے دوبارہ گرفتار کر کے قلعہ الکراک میں مقید کر دیا۔ اس کے بعد اسے رہا کر کے اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا۔

سلطان حسین صالح کی حکومت مصر

جب سلطان حسن نے بیقاروس کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور اپنے ارکان سلطنت سے بدسلوکی کرنے لگا اور مغلطی کو ترقی دے کر اس سے خصوصی تعلقات قائم کر لئے تو امرائے مصر اس سے سخت ناراض ہوئے اور وہ سازشیں کرنے لگے۔ ان کے سرغنہ طاز نے امراء کو ملا کر بغاوت کا ارادہ کیا۔ آخر میں بیقوشی نے بھی اس کی حمایت کی اور وہ سب اسے معزول کرنے پر متفق ہو گئے۔

جب وہ ماہ جمادی الاولیٰ ۷۵۲ھ میں سوار ہو کر بغاوت کے ارادے سے نکلے تو کسی نے ان کی مزاحمت نہیں کی۔ وہ قلعہ میں داخل ہو گئے جہاں طاز نے حسن الناصر کو گرفتار کر کے قید کر لیا اور اس کے بھائی حسین کو قید خانے سے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا لقب صالح رکھا اور خود طاز نے سلطنت کا بوجھ سنبھالا۔ اس نے بیقوشی کو امیر بنا کر دمشق بھیجا اور بیقوشی کو امیر بنا کر حلب بھیجا۔ اب تنہا حکومت کرنے لگا۔ (یہ حال دیکھ کر) دیگر ارکان سلطنت اس سے حسد کرنے لگے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اکٹھے ہو گئے۔ ان کی قیادت مغلطی، منکھی اور بیقاقمری کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا یہ سب اکٹھے ہو کر اور جنگ کے لئے سوار ہو کر قبة النصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

امیر طاز اور سلطان صالح بھی اپنی فوجیں لے کر حملہ آور ہوئے اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیا اور قتل عام کیا۔ پھر مغلطی اور منکھی کو گرفتار کر کے اسکندریہ میں مقید کر دیا۔

اس نے منجک اور شیخو کو رہا کر دیا اور اسے فوجوں پر اپنا نائب مقرر کیا اور حکومت میں بھی اپنا شریک کار بنایا۔ اب سیف الدین طائی کو نائب السلطنت مقرر کیا گیا اور سرعتمش کو خصوصی طور پر ترقی دی گئی۔ دمشق کے نائب حاکم شمس محمدی کو گرفتار کر کے اس کا تبادلہ کیا گیا کیونکہ اس کا ارغون کاملی سے تعلق تھا۔

بیقاروس کو قلعہ الکراک سے رہا کیا گیا اور اسے حلب بھیج دیا گیا۔ منجک (ترقی دینے کے باوجود) مخالف ہو گیا اور قاہرہ میں کہیں چھپ گیا۔

بیقاروس کی بغاوت: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیقاروس کوچ کے راستے میں قلعہ الکراک کے مقام پر قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد طاز نے اسے رہا کر کے حلب کا حاکم مقرر کیا۔ جب وہ حاکم مقرر ہو گیا تو اس کے دل میں امیر طاز کے خلاف رشک و حسد پیدا ہوا اور وہ خود مختار حاکم ہو کر حکومت مصر کا مخالف ہو گیا۔

عرب و ترکمان کی حمایت: اس نے شام کے حکام سے سازش کی چنانچہ بالکمش نائب حاکم طرابلس اور احمد شادی شرفخاناہ نائب حاکم صفد اس کے حامی ہو گئے مگر ارغون کا ملی نائب حاکم دمشق اس کا مخالف رہا اور حکومت کا مطیع اور وفادار رہا۔

انہوں (باغیوں) نے ماہِ رجب ۵۳ھ میں شہو اور سرگتمش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بیقاروس نے عرب اور ترکمان قبائل کو بھی دعوت دی کہ وہ اس کی حمایت کریں چنانچہ خیار بن مہنا جو عرب قبائل کا سردار تھا اپنی فوجوں کے ساتھ اس کی حمایت کے لئے آمادہ ہو گیا۔ اسی طرح قراچاہن العادل بھی اپنی فوجوں سمیت اس کا حامی ہو گیا۔

دمشق پر قبضہ: (ان تمام تیاریوں کے بعد) بیقاروس (تمام متحدہ فوجوں کو لے کر) حلب سے دمشق (فتح کرنے) کے لئے روانہ ہوا۔ دمشق کا نائب حاکم ارغون (یہ خبر سن کر) غزہ کی طرف بھاگ گیا اور جب عادی کو اپنا جانشین بنایا۔ جب بیقاروس دمشق پہنچا تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا، البتہ قلعہ مسخر نہیں ہو سکا۔ لہذا اس نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کی فوجیں آس پاس کے دیہاتوں میں لوٹ مار کرنی لگیں۔

شاہی لشکر کشی: اس اثناء میں سلطان صالح اور مصری حکام فوجیں لے کر اسی سال کے ماہ شعبان میں روانہ ہوئے۔ سلطان اپنے ہمراہ خلیفہ معتضد ابوالفتح ابوبکر بن المستکفی کو بھی لے گیا تھا۔ جب یہ فوجیں روانہ ہو رہی تھیں تو منجک بھی کسی گھر سے برآمد ہوا جو ایک سال سے پوشیدہ تھا۔ سرگتمش نے اسے اسکندریہ بھیج دیا۔

بیقاروس کا فرار: جب بیقاروس کو مصر سے سلطان اور اس کے لشکر کے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ دمشق سے بھاگ گیا۔ لہذا عوام نے ترکمان فوجوں کا قتل عام کیا۔

باغیوں کا تعاقب: سلطان دمشق پہنچ کر قلعہ میں مقیم ہوا اور بیقاروس کے تعاقب میں فوجیں بھیجیں۔ وہ ان امراء کی جماعت کو پکڑ کر لائے جو اس کے ساتھ تھے۔ سلطان نے ان میں سے کچھ امراء کو قتل کیا اور باقی ماندہ افراد کو مقید کر دیا۔ اس نے دمشق کا حاکم امیر علی ماردانی کو مقرر کیا اور ارغون کا ملی کا حلب بنا دیا۔

سلطان صالح کی واپسی: اس کے بعد سلطان نے بیقاروس کے تعاقب میں مغلطائی دوادار کی سرکردگی میں فوجیں بھیجیں اور خود مصر چلا گیا۔ جہاں وہ اسی سال کے ذوالقعدہ کے مہینے میں پہنچا۔

بیقاروس کا قتل: مغلطائی دوادار (فوجیں لے کر) بیقاروس اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور انہیں گھر لیا۔ پھر بیقاروس احمد اور قطمش کو گرفتار کر کے انہیں قتل کر دیا اور ۵۴ھ میں ان کی لاشوں کے سر مصر بھیجے۔

ترکمان سردار کا تعاقب: سلطان نے ارغون کا ملی کو ہدایت کی جو اب حلب کا نائب حاکم تھا کہ وہ فوج لے کر ترکمان

قبائل کے سردار قراجا بن العادل کے تعاقب میں نکلے۔ چنانچہ جب اس نے اس کے شہر بلسمین کی طرف فوج کشی کی تو اسے ویران پایا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ لہذا ارغون نے اس شہر کو تباہ کر دیا اور بلا دروم تک اس کا تعاقب کیا۔ جب قراجا نے محسوس کیا کہ اس کا تعاقب اسے اس شہر سے باہر لے جائے گا تو اس نے اس کے پاس سیوا سہیل بھیج گیا۔ شاہی لشکر نے اس کے قبیلوں کو لوٹ لیا اور اس کے مویشی اٹھا کر لے آئے۔

بغاوت کا انسداد: (جب قراجا ابن ارشاک کے پاس پہنچا تو) مغل حاکم نے اسے گرفتار کر کے مصر بھیج دیا جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ یوں بغاوت رفع ہو گئی۔

وہ افراد جو اسکندریہ میں نظر بند تھے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جہاں البتہ مغلطائی اور منجک کو مزید چند دنوں تک قید میں رکھا گیا۔ پھر ان دونوں کو بھی رہا کر کے انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔

عرب قبائل کی سرکونی: اس فتنہ و فساد کے دوران عرب قبائل نے مصر کے بالائی حصہ (صحید) میں فتنہ و فساد برپا کیا انہوں نے وہاں کی کھیتوں اور مال و دولت کو لوٹ لیا۔ ان فساد یوں کا سرغنہ احدب تھا۔ اس کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لہذا سلطان بدست خود فوج لے کر ۵۳۷ھ میں روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ امیر طاز بھی تھا۔ امیر شیخو نے پیش قدمی کر کے عرب قبائل کو شکست دی اور ان کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔ شاہی فوجوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا اور سلطان کو بے شمار مویشی اور ہتھیار حاصل ہوئے۔ عربوں کی بڑی تعداد امیر ہوئی اور وہ مارے گئے۔ البتہ احدب (ان کا سرغنہ) بھاگ نکلا۔ اس نے سلطان کے واپس جانے کے بعد پناہ طلب کی۔ سلطان نے اسے اس شرط پر پناہ دی کہ عرب قبائل نہ تو گھوڑوں پر سوار ہوں اور نہ ہتھیار اپنے پاس رکھیں، وہ صرف کھینی ہاٹی کیا کریں۔

حسن ناصر کی دوبارہ تخت نشینی

شیخو سب سالار تھا وہ اپنے رفیق کار امیر طاز سے بدظن ہو گیا اور مصر کے ارکان سلطنت سے مل کر سلطان کے خلاف سازش کی اور موقع کا منتظر رہا۔

جب امیر طاز ۵۵۵ھ میں بحیرہ کی طرف سیر و شکار کے لئے روانہ ہوا۔ تو شیخو سوار ہو کر قلعہ پہنچا تو اس نے سلطان صالح کو جو تنگ کانو اسے تھا معزول کر دیا اور اسے گرفتار کر کے مکمل تین سال تک اپنے گھر میں نظر بند رکھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے بھائی حسن ناصر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے دوبارہ تخت نشین کر لیا۔

امیر شیخو نے امیر طاز کو بھی بحیرہ سے بلوا کر گرفتار کر لیا اور پھر حلب کا نائب حاکم بنا کر بھیج دیا۔

تقرر و معزولی: اس نے ارغون کا ملی کو بھی معزول کیا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دمشق پہنچا جہاں سے وہ ۵۶۱ھ میں گرفتار ہو کر اسکندریہ پہنچایا گیا اور وہاں وہ قید خانہ میں بند کر دیا گیا۔

اس عرصے میں شمس احمدی کے فوت ہونے کی خبر آئی جو طرابلس کا نائب حاکم تھا اس کے بجائے منجک کو حاکم مقرر کیا گیا۔

شیخو کے وسیع اختیارات اب شیخو مصر کی سلطنت کا خود مختار حاکم تھا اور وہاں کے سیاہ و سفید کا مالک تھا جسے چاہے حاکم مقرر کرے اور جسے چاہے معزول کرے۔ وہ اپنے دور حکومت میں بست و کشادہ کا مالک رہا اور مشرق اور مغرب کے تمام سلاطین خط و کتابت میں اس کو مخاطب کرتے تھے امور سلطنت میں اس کا شریک کار سر غتمش تھا جو سلطان کا آزاد کردہ غلام تھا۔ شیخو نے عجلان بن امیہ کو مکہ معظمہ کے واحد حکمران کی حیثیت سے مقرر کیا۔

شیخو کا قتل: امیر شیخو سلطان کے نگران خود مختار حاکم کی حیثیت سے (تین سال تک) کام کرتا رہا آخر کار ایک دن شاہی دربار میں ماہ شعبان ۵۸ھ میں ایک غلام نے اس پر حملہ کر کے تلوار کے تین وار کئے جس سے اس کا چہرہ سر اور دونوں بازو زخمی ہو گئے اور وہ ہاتھوں کے بل گر پڑا۔

(اس ہنگامے کے بعد) سلطان اپنے گھر چلے گئے اور محفل منتشر ہو گئی۔ قلعہ کے باہر فوجوں میں بھی ہنگامہ برپا ہو گیا اور سب لوگ بے چین اور مضطرب ہو گئے۔ امیر شیخو کے موالی (آزاد کردہ غلام) قلعہ میں گھس کر شاہی ایوان میں پہنچ گئے اور شیخو کا پروردہ متمنی خلیل بن قوصون ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خلیل کی والدہ سے شیخو نے نکاح کر لیا تھا وہی شیخو کو (زخمی حالت میں) اٹھا کر اس کے گھر لے گیا تھا۔

حملہ آور کا قتل: سلطان حسن ناصر نے غلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اسی دن مارا گیا۔ سلطان نے دوسرے دن اسے بحال کر دیا۔ مگر اسے یہ اندیشہ رہا کہ یہ بادشاہ سلطان کے حکم سے کیا گیا تھا۔ بہر حال امیر شیخو لگا تار بیمار رہا۔ یہاں تک کہ وہ ماہ ذوالقعدہ میں اسی سال فوت ہو گیا۔ شیخو پر بلا شخص تھا جس نے اپنا لقب امیر کبیر رکھوایا۔

سر غتمش کا اقتدار: اب اس کے شریک کار سر غتمش نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اس نے امیر طاز کو حلب میں گرفتار کر کر اسکندریہ میں مقید کر دیا اور اس کا جانشین امیر علی ماردانی کو مقرر کیا۔ اس کا دمشق سے تبادلہ کیا گیا تھا اور اس کے بجائے دمشق کا حاکم منجک یوسفی کو مقرر کیا۔

امراء کی گرفتاری: سلطان نے ماہ رمضان ۵۹ھ میں سر غتمش اور اس کے ساتھ کے امراء کو گرفتار کر لیا۔ ان میں یہ امراء شامل تھے (۱) مغلطائی دوادار (۲) طشتر قاسمی حاجب (۳) ظیفما جاجاری (۴) خلیل بن قوصون (۵) محاسنجدار وغیرہ۔ ان امراء کے موالی نے قلعہ کے میدان میں دن کے وقت سلطان کے غلاموں سے جنگ کی۔ آخر کار انہیں شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔

سر غتمش کا قتل: سر غتمش اور اس کی جماعت کے گرفتار شدہ امراء اسکندریہ کے قید خانے میں مقید رہے اور ستر دن کے بعد سر غتمش کا کام تمام کر دیا گیا۔ پھر اس کے تمام حامی امراء قاضی سرکاری ملازموں کو سزا دی گئی اور سلطان کے حکم سے منکلی بیقانے یہ ناخوش گوار فریضہ (سزا دینے کا) انجام دیا۔

سلطان کی خود مختاری: اب سلطان خود مختار ہو گیا اور اس نے انتظام سلطنت خود سنبھالا۔ اس نے اپنے غلام بیقانہ قمری کو سب حکام پر مقدم رکھا اور اسے ہزاری امیر مقرر کیا۔ اس نے الجائی یوسفی کو حاجب مقرر کیا۔ پھر اسے دمشق کا نائب حاکم بنا کر

بھیج دیا اور سابق حاکم منجک کو واپس بلوانا چاہئے۔

حکام کے تبادلے: مگر جب وہ غزہ پہنچا تو پوشیدہ ہو کر روپوش ہو گیا۔ لہذا سلطان حسن ناصر نے اس کے بجائے امیر علی ماردانی کو مقرر کیا اور حلب سے اس کا تبادلہ کر کے اسے دمشق کا حاکم بنایا۔

سلطان نے حلب کا حاکم سیف الدین بکتر مومنی کو مقرر کیا۔ اس کے بعد علی ماردانی کے بجائے استدر کو دمشق کا حاکم بنایا اور مومنی کے بجائے حلب کا حاکم مند مر حورانی کو مقرر کیا۔

پھر سلطان نے اسی میں اسے حکم دیا کہ وہ سین پر حملہ کرے اور دیگر قلعوں کے ساتھ اذ نہ طرسوں اور مصیصہ کو بھی فتح کرے۔ اسے وہاں کا حاکم بھی مقرر کیا گیا تھا۔

جب وہ وہاں سے واپس آیا تو استدر کے بجائے سلطان نے اسے دمشق کا نائب حاکم مقرر کیا اور حلب کا حاکم احمد بن القتمری کو مقرر کیا۔

منجک کی معافی: اسی میں منجک کا دمشق میں سراغ لگ گیا۔ اس سے پیشتر اس کی روپوشی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئیں تھیں، مگر جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے اسے معاف کر دیا اور اس کی مدد کی اور اسے اختیار دیا کہ وہ شام کے علاقے میں جہاں چاہے قیام کرے۔

سلطان حسن ناصر نے اپنے عہد کے باقی ایام خود مختاری کی حالت میں گزارے۔ وہ علماء اور قاضیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے گھرانے کی محفل منعقد کرتا تھا اور علمی مسائل میں ان سے بحث کیا کرتا تھا۔ وہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا اور دیگر افراد کی بہ نسبت علماء کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔ یہ طریقہ اس کا آخری زمانے تک رہا۔

بیہقا کی بغاوت: امیر بیہقا سلطان حسن کے موالی میں سے تھا۔ اسے اہلی مرتبہ حاصل تھا۔ چونکہ وہ سلطان کے خواص میں سے تھا۔ اس لئے وہ خاصگی کے لقب سے مشہور تھا۔ سلطان ناصر نے اسے سرکاری عہدوں پر ترقی دینے کے بعد اسے امیر مقرر کیا تھا پھر اسے اتابک کے عہدہ پر بھی ترقی دی۔ وہ اس کے ظلم و استبداد کی انٹرشکایت کرتا تھا۔ لہذا سلطان نے اسے ایک رات اپنے حرم میں طلب کر کے اپنے موالی میں سے کسی کی خدمت پر مامور کیا۔ یہ بات امیر بیہقا کو بہت ناگوار محسوس ہوئی اور وہ بہت کبیدہ خاطر ہوا۔ مگر اس نے یہ رنجش اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی۔

ایک دفعہ سلطان ۶۲ھ میں بیرون شہر نکلا اور وہاں اس نے اپنے خیمے گاڑ دیئے۔ بیہقا خاصگی کا خیمہ بھی اس کے قریب لگایا گیا۔ مگر جلد ہی اس کی بغاوت کی اطلاع سلطان کو موصول ہوئی۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور اسے بلوایا مگر وہ نہیں گیا کیونکہ اسے سلطان کی بدگمانی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لہذا سلطان نے اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے نصوص امراء کے ہاں اس سال کی ۹ جمادی الاولیٰ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے گیا۔ اس سے پہلے اس کو خبردار کیا گیا تھا۔ اس لئے اس نے بہادری کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے مقابلہ کیا۔

شاہی لشکر کو شکست: سلطان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی تو سلطان قلعہ کی طرف چلا گیا۔ بیہقا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ قلعہ کے محافظوں نے اسے روک دیا اور وہ شہر میں امیر بن ازکشی کے گھر میں حسینہ کے مقام میں پوشیدہ ہو گیا۔

قاہرہ سے ناصر الدین حسینی اور قشتر منصور کی وغیرہ حکام کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے تو ان کا مقابلہ اس سے بولا ق کے مقام پر ہوا۔ ان کی بیٹھکا سے دو تین مرتبہ جنگ ہوئی، مگر ہر جنگ میں اس نے ان امراء کو شکست دی۔

سلطان کا قتل سلطان حسن ناصر نے ایدمرد و ادار کے ساتھ بھیس بدل کر شام کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی۔ مگر جب چند غلاموں کو اس کی خبر ہو گئی تو انہوں نے بیٹھکا کے پاس اُن کی چغل خوری کی۔ اس پر بیٹھکا نے ان کو گرفتار کرنے کے لئے آدی بھیجے جو انہیں پکڑ کر لے آئے۔

بیٹھکا نے انہیں قتل کرنے سے پہلے تشدد کے ذریعے شاہی مال و دولت اور اس کے ذخیرہ کا پتہ چلا لیا۔ پھر سلطان کا کام تمام کیا۔

سلطان حسن ناصر نے ساڑھے چھ سال حکومت کی۔

منصور محمد بن مظفر حاجی کی تخت نشینی

اس کے بعد بیٹھکا نے محمد بن مظفر حاجی کو تخت نشین کیا اور اس کا لقب منصور رکھا اور خود اس کا سرپرست بن کر امور سلطنت انجام دیتا رہا۔ اس نے طبعاً طویل کو بیٹھکا شریک کار مقرر کیا اور قشتر منصور کی کو نائب اور قشتر کو امیر مجلس مقرر کیا۔ موسیٰ ازکشی استاذ دار مقرر ہوا۔ اس نے قاسمی کو رہا کر کے اسے قلعہ الکوک کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس نے امیر طاز کو بھی قید سے رہا کیا۔ جو اندھا ہو گیا تھا اسے اس کی خواہش کے مطابق پہلے بیت المقدس اور پھر دمشق بھیجا گیا جہاں وہ اگلے سال فوت ہو گیا۔

بیٹھکا نے عجلان کو مکہ معظمہ کی حکومت پر بحال رکھا اور شام کے عربوں کا سردار جبار بن مہنا کو مقرر کیا۔ پھر اس نے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے انہیں مقید رکھا۔

حاکم دمشق کی بغاوت جب شام میں بیٹھکا کی کارگزاریوں کی اطلاعات پہنچیں اور یہ معلوم ہوا کہ وہ خود حاکم بن گیا ہے تو دمشق کے نائب حاکم استدر کو یہ باتیں ناگوار معلوم ہوئیں اور اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کے ساتھ (دوسرے حکام) مندمر البری اور منجک یوسفی شریک ہو گئے۔ استدر نے قلعہ دمشق پر قبضہ کر لیا۔

(یہ حال سن کر) امیر بیٹھکا نے سلطان منصور کے ساتھ لشکر کشی کی۔ جب وہ دمشق پہنچا تو باغیوں نے قلعہ دمشق میں پناہ لی اور فریقین کے درمیان شام کے قاضیوں کی پیغام رسانی رہی۔ آخر کار باغیوں نے پناہ حاصل کی۔ اس بارے میں امیر بیٹھکا نے ان سے حلف اٹھوایا۔

جب (یہ باغی) بیٹھکا کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں اسکندریہ بھیج دیا جہاں وہ مقید ہوئے پھر امیر ماروانی کو دمشق کا نائب حاکم اور قطلو بغا احمدی کو احمد بن قتری کے بجائے جو صغد میں تھا حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان منصور اور امیر بیٹھکا مصر واپس آ گئے۔

خلیفہ المتوکل

جب سلطان ناصر کے زمانے میں خلیفہ مستکفی فوت ہوا تو اس سے پہلے اس نے اپنے فرزند احمد کو ولی عہد بنایا تھا اور اس کا لقب الحاکم رکھا تھا مگر سلطان ناصر نے اسے خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے بجائے مستکفی کے چچا ابراہیم بن محمد کو خلیفہ مقرر کیا اور اس کا لقب الواثق رکھا۔

جب ۵۴۱ھ کے آخر میں سلطان ناصر فوت ہو گیا تو مصر کے ان امراء نے جو سلطنت کے نگران تھے۔ احمد الحاکم بن المستکفی کو جو ولی عہد تھے، خلیفہ مقرر کیا۔ اور وہ اپنی خلافت کی مدت پوری کر کے ۵۴۳ھ میں فوت ہو گیا۔ جب کہ سلطان صالح سبط تنکز کے عہد حکومت کا آغاز تھا۔

اس کے بعد اس کا بھائی ابو بکر بن المستکفی، المعتمد کے لقب کے ساتھ خلیفہ مقرر ہوا۔ اس کا عہد خلافت دس سال تک رہا اور ۵۴۳ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے فرزند احمد کو ولی عہد مقرر کیا تھا، لہذا وہ مستکفی (ثانی) کے لقب کے ساتھ خلیفہ مقرر ہوا۔

سلطان اشرف کا عہد حکومت

جب امیر بیہقا خاصگی سلطان منصور محمد بن کاجی سے بدگمان ہوا تو اس نے ۵۴۴ھ میں اسے بماء شعبان معزول کر دیا۔ اس نے صرف ستائیس مہینے حکومت کی تھی۔

اس کے بجائے امیر بیہقا نے شعبان بن الناصر حسن بن سلطان ناصر کو مقرر کیا۔ اس کا باپ سلطان ناصر حسن سلطان ناصر اعظم کا آخری فرزند تھا۔ لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کے فرزند شعبان کو جو صرف دس سال کا بچہ تھا سلطان مقرر کیا گیا اور اس کا لقب اشرف رکھا گیا اس کا سر پرست اور نگران خود امیر بیہقا تھا۔

حکام کے تبادلے: اس نے ۵۴۵ھ میں ماردانی کو دمشق کی حکومت سے معزول کر کے اس کے بجائے قطلو بغا کو مقرر کیا۔ اس کا تبادلہ حلب سے کیا گیا تھا جب قطلو بغا فوت ہوا تو اس کے بجائے عشقتر ماردانی کو مقرر کیا گیا۔ پھر ۵۴۶ھ میں عشقتر بھی معزول ہو گیا اور اس کے بجائے سیف الدین خوجہ حاکم مقرر ہوا۔ اور ۵۴۷ھ میں اسے حکم ملا کہ وہ خلیل بن قراہا بن العادل امیر ترکمان کے تعاقب کے سلسلے میں فوج کشی کرے اور اسے گرفتار کر کے پیش کرے۔

چنانچہ وہ فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب خلیل بن قراہا قلعہ خرت برت میں محصور ہو گیا تھا تو اس نے چار مہینے تک اس کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد خلیل نے پناہ طلب کی اور اس مقصد کے لئے جب وہ مصر پہنچا تو سلطان نے اس کو پناہ دے کر اسے خلعت سے نوازا اور اسے اپنے علاقے اور قوم کا حاکم بنا کر واپس بھیجا۔

اہل قبرص کے حالات: جزیرہ قبرص کے باشندے عیسائی تھے اور رومیوں کی نسل سے تھے۔ اس زمانے میں انہیں فرنگی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فرنگی تمام عیسائی قوموں پر غالب آگئے ہیں ورنہ ہرودیشوش نے انہیں کیتم قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔

جزیرہ رودس کے باشندے دودا تم کی نسل سے ہیں یوں وہ کیتیم کے بھائی ہیں اور دونوں کا تعلق رومی قوم سے ہے۔ اہل قبرص پر (قدیم زمانے سے) جزیرہ کی مقرزہ رقم عائد تھی جسے وہ حاکم مصر کو ادا کرتے تھے۔ جب حضرت عمرؓ فاروق اعظم کے زمانے میں ان کے والی امیر معاویہ حاکم شام کے ہاتھوں یہ جزیرہ فتح ہوا تھا تو اسی زمانے سے یہ جزیرہ ان پر لگا دیا گیا تھا۔

اہل قبرص سے جنگیں: جب اہل قبرص جزیرہ نہیں ادا کرتے تھے تو حاکم شام ان کے خلاف اسلامی بحری بیڑہ بھیجا کرتا تھا جو ان کی بندرگاہوں کو تباہ کر کے ان کے ساحلی مقامات پر غارت گری کرتا تھا تا آنکہ وہ جزیرہ ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

ترک ممالک کے دور میں بھی سلطان ظاہر بھرس نے ۶۶۹ھ میں قبرص کی طرف بہت بڑا بحری بیڑہ روانہ کیا تھا جو رات کے وقت وہاں لنگر انداز ہوا تھا اور چونکہ وہاں چاروں طرف کثرت سے پتھر تھے اس لئے وہ شکستہ ہو گیا تھا۔ موجودہ زمانے میں جنوا کے فرنگی باشندے جزیرہ رودس پر غالب آ گئے تھے انہوں نے ۱۷۰۸ھ میں حاکم قسطنطنیہ یشکری کے قبضہ سے اسے چھینا تھا لہذا اہل قبرص اس کے ساتھ کبھی جنگ کرتے تھے اور کبھی صلح کر لیتے تھے اور یہ سلسلہ ان کے آخری زمانے تک جاری رہا۔

اہل قبرص کا اسکندریہ پر حملہ: یہ جزیرہ قبرص طرابلس کے سامنے شام و مصر کے ساحل سے ایک دن اور ایک رات کی بحری مسافت پر ہے۔ اہل قبرص ایک دن اسکندریہ میں اچانک گھس گئے اور (واپس آ کر) انہوں نے اپنے حاکم کو اس کے حالات سے مطلع کیا۔ لہذا اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور وہ اپنے بحری بیڑہ کو لے کر روانہ ہوا اور دوسری فرنگی قوموں سے بھی مدد طلب کی۔ آخر کار یہ لوگ بہت زبردست بحری بیڑہ لے کر ۱۷۰۸ھ میں اسکندریہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوئے۔ ان کا یہ بحری بیڑہ ستر جہازوں پر مشتمل تھا جو سامان اسلحہ اور فوج سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے اندر جنگجو سوار گھوڑوں سمیت موجود تھے۔

جنگ کے تماشائی: جب فرنگی فوج لنگر انداز ہوئی تو ساحل کی طرف بڑھ کر اس کی صف بندی کی گئی اور انہوں نے حملہ کیا۔ اسکندریہ کے باشندے اس لشکر کشی کا تماشہ دیکھنے کے لئے ساحل پر سیر و تفریح کے لئے پہنچ گئے۔ وہ اس مصیبت کے برے انجام سے بے خبر تھے۔ کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ سے جنگ آزمائی نہیں کی تھی۔ ان کے محافظ دستوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور قلعوں کی حفاظت کرنے والے جنگجو تیر اندازوں سے شہر کی فصیلیں خالی تھیں۔ اس وقت شہر کا حاکم ظلیل بن عوام تھا جو صلح و جنگ کا ذمہ دار تھا مگر وہ بھی وہاں موجود نہ تھا اور فریضہ انجام ادا کرنے کے لئے گیا ہوا تھا۔

اسکندریہ کی تباہی: دشمن کی فوجیں جب صف آرا ہوئیں تو انہوں نے عوام (تماشائیوں) پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لہذا وہ بری طرح بھاگ کر شہر واپس آ گئے اور شہر کے دروازوں کو بند کر کے وہ فصیلوں پر چڑھ کر وہاں سے (تماشا) دیکھنے لگے۔ اب دشمن شہر کے دروازہ پر پہنچ گیا اور وہ دروازوں کو جلا کر شہر میں گھس گئے چنانچہ اہل شہر میں ہل چل مچ گئی اور وہ بھاگنے لگے۔

اہل اسکندریہ کا فرار: اب اہل اسکندریہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اور مال و سامان ساتھ رکھ کر (اندرونی علاقے میں) خشکی کی طرف بھاگنے لگے۔ چنانچہ راستے اور میدان ان بھاگنے والے شہریوں سے پٹ گئے جو حیران اور پریشان ہو کر نامعلوم مقام کی طرف بھاگ رہے تھے۔ گردنواح کے عرب بدوؤں کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے اکثر شہریوں کو لوٹ لیا۔

فرنگیوں کی غارت گری: اب فرنگی فوج شہر کے درمیان پہنچ گئی تھی۔ وہ جہاں سے گزرے وہاں کے بازاروں اور مکانوں کو لوٹتے گئے انہوں نے صرافوں کی دوکانوں کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سوداگروں کا سامان تجارت بھی لوٹ لیا۔ تمام سامان تجارت سرمایہ اور ذخیرہ سے اپنی جنگی کشتیوں کو بھر لیا۔ انہوں نے بہت سے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے انہیں لوٹ لیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔

فرنگیوں کی واپسی: جب عربوں اور دوسرے لوگوں کی فوجی امداد ان کے خلاف پہنچی تو وہ اپنے جنگی بیڑوں میں گھس گئے اور وہاں دن کا باقی حصہ گزرا۔ پھر دوسرے دن وہ اپنے بیڑوں میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔

مصری لشکر کی روانگی: جب سلطنت مصر کے نگران امیر بیبقا کو یہ اطلاع ملی تو فوراً سلطان اپنی فوجوں کو لے کر (مقابلہ کے لئے) روانہ ہوا۔ اس وقت تک خلیل بن عماد بھی حج سے واپس آ گیا تھا۔ لہذا وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس لشکر کے ہراول دستے پر خلیل بن قوصون اور قطلوبغا فخری امیر مقرر ہوئے تھے۔ وہ جہاد کے مخلصانہ ارادوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے رہے۔ راستے میں انہیں یہ اطلاع ملی کہ دشمن واپس چلا گیا۔ ہے۔ مگر (یہ خبر سن کر) امیر نہیں لوٹا بلکہ اسکندریہ پہنچ گیا۔

ایک سو بیڑوں کی تیاری: وہاں پہنچ کر اس نے تباہی اور فساد کے آثار دیکھے تو اس نے فیصل منہدم کر کے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے پائے تخت واپس آ گیا۔ وہ اہل قبرص کے خلاف بہت غیض و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک سو بحرئیی بیڑے تیار کئے جائیں جس کا نام قربان رکھا گیا۔ اس نے مصمم عزم کر لیا تھا کہ وہ سلطنت مصر کی تمام مسلمان فوجوں کو لے کر قبرص پر حملہ کرے گا اور اس کے مقصد کے لئے اس نے تیاریاں شروع کر دیں تھیں اور اس کا ایک جشن بھی منایا۔ اس نے بہت سے ہتھیار اور محاصرہ کے آلات کثیر تعداد میں مہیا کر لئے تھے۔ چنانچہ آٹھ مہینے یہ تیاریاں اسی سال کے ماہ رمضان المبارک میں مکمل ہو گئیں مگر اس وقت ایسے حالات رونما ہوئے کہ وہ اپنے اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکا۔

طنبغا طویل کی بغاوت

طنبغا طویل سلطان حسن کا آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ امیر سلج کے عہدہ پر مامور تھا۔ تاہم وہ امیر بیبقا کا امور سلطنت میں مددگار اور شریک تھا۔ وہ خود مختار ہونا چاہتا تھا تاہم جب امیر بیبقا کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو دیگر ارکان سلطنت کی طرح وہ بھی بیبقا کا مخالف ہو گیا۔ لہذا یہ امرائے سلطنت طویل کے ساتھ بغاوت کی خفیہ تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سلطان کا وادار ارغون اشقری اور افسر مال محمدی تھا۔

ابھی لوگ یہ منصوبہ طویل کر رہے تھے کہ اتنے میں طنبغا طویل ماہ جمادی الاولیٰ ۷۷۱ھ میں سیر و تفریح کے لئے

عباسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تمام ارکان سلطنت میں یہ خبر پھیل گئی اور امیر بیہقا کو بھی (اس خفیہ بغاوت) کی اطلاع مل گئی۔ اس لئے اس نے طویل کوشام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ شاہی فرمان بھی صادر ہوا کہ اسے دمشق کا نائب حاکم بنایا جائے۔ طویل نے اس حکم کو مسترد کر دیا اور جنگ کرنے کی دھمکی دی۔ مگر امیر بیہقانے اس کی فوج کو شکست دے کر طویل، اشقری اور محمدی کو گرفتار کر لیا اور انہیں اسکندریہ میں مقید کیا گیا۔

تاہم ماہ شعبان میں اسی سال سلطان کے پاس طویل کے متعلق سفارش پہنچائی گئی (سلطان نے وہ سفارش قبول کر لی) اور اسے بیت المقدس بھیج دیا گیا۔ پھر اشقری اور محمدی کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ان دونوں کو شام روانہ کیا گیا۔ اب طویل کے منصب پر طیدمر باسلی کو مقرر کیا گیا اور اشقری کے بجائے طبعغا ابو بکری کو دوادار کے عہدہ پر سرفراز کیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد امیر بیہقا علانی نے اسے بھی معزول کر دیا اور اس کے بجائے اوس عادل محمدی کو مقرر کیا۔

چونکہ امراء مصر کی ایک بڑی جماعت نے جو سرکاری عہدے دار تھے۔ طویل کی بغاوت میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد گرفتار ہو کر مقید تھے۔ اس لئے ایسے امراء کو جو سرکاری عہدوں پر نہیں تھے ان کے عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ اس نے منگلی بیہقا شمسی نائب حاکم دمشق کو مصر بلوا کر اسے سیف الدین برتجی کے بجائے حلب کا نائب حاکم مقرر کیا اور اسے اجازت دی کہ وہ فوج کی تعداد بڑھائے۔ اس نے اس کا مرتبہ دمشق کے نائب حاکم سے بھی بڑھا دیا تھا۔ اس کے بجائے دمشق کا نائب حاکم قطر عبدالعزیز کو مقرر کیا گیا۔

غلاموں (ممالیک) کی بغاوت

اس اثناء میں طبعغا کا ظلم و استبداد بہت بڑھ گیا تھا۔ امراء مصر اور ارکان سلطنت بھی اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے۔ بالخصوص اس کے ممالیک (غلام) اس سے بہت تنگ تھے اس لئے غلاموں کی تعداد بڑھالی تھی۔ وہ ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان پر بہت تشدد کرتا تھا وہ نہ صرف لاشیوں سے پیٹے جاتے تھے بلکہ ان کی ناک اور کان بھی کاٹ لئے جاتے تھے لہذا ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہی اور وہ پوشیدہ طور پر اس کے سخت مخالف ہو گئے۔

بغاوت کے اسباب: ان خاص ممالیک کے سردار استدمر اور اقفان احمدی تھے اس اثناء میں اس قسم کی (وحشیانہ) سزا استدمر کے بھائی کو بھی دی گئی۔ اس سے وہ سخت ناراض ہوا اور سب امراء سے مل کر اس نے بغاوت کا منصوبہ تیار کیا۔ تمام امراء اسی کو نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو بھی اس سے آگاہ کیا اور اس سے اجازت طلب کی۔

سلطان نے ۸۷۷ھ میں امیر بیہقا کو بحیرہ کی طرف بھیجا۔ اس مدت میں ان غلاموں نے طبرانہ کے گھر پر ایک جلسہ منعقد کیا جس میں راتوں رات اس کے خلاف سازش تیار کی گئی۔

یہ اطلاع اسے بھی مل گئی تھی اور اس نے وہ علامات مشاہدہ کر لیں جو اسے بتائی گئی تھیں۔ لہذا مکر و فریب کے طور پر وہ اپنے بعض خواص کے ساتھ سوار ہو کر نکلا اور دریائے نیل کو عبور کر کے قاہرہ پہنچا۔ اس نے بحری ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ مشرقی

کنارے پر اپنی کشتیوں کو لنگر اندازہ کریں اور جو مغربی کنارے کا قصد کرے اسے عبور کرنے سے روکیں۔

اعلان بغاوت: ادھر استدمر اور اقتخان نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سلطان کے محل کا قصد کیا اور اس کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ وہ بیٹقا کو معزول کر کے اسے سزا دے گا۔

دوسری طرف جب بیٹقا قاہرہ پہنچا تو اس نے (اپنے حامی) امراء حاجیوں اور اپنے غلاموں وغیرہ کو اکٹھا کیا وہاں امیر ماخوریہ ایک بدری بھی موجود تھا نیز یقتمر نظامی اور ارغون ططق عباسیہ میں تھے۔ یہ سب اس کے پاس پہنچ گئے۔

سلطان اشرف کی معزولی: اب بیٹقا نے سلطان اشرف کو معزول کر دیا اور اس کے بجائے اس کے بھائی اتوک کو بادشاہ بنایا اور اس کا لقب منصور رکھا۔ اس نے خلیفہ کو بلوا کر اس کا تقرر منظور کرایا۔ پھر اس نے جنگ کی تیاری کی اور بحری ساحل پر جزیرہ وسطی کے مقام پر اپنے (جنگلی) خیمے نصب کئے۔ اس کے ساتھ وہ امراء بھی شامل ہو گئے جو سلطان کے ہمراہ تھے یا کسی عہدہ پر مقرر تھے۔ ان میں یہ امراء شامل تھے:

(۱) بیٹقا علائی دوادار (۲) یونس امام (۳) کمشیقا حموی (۴) ظلیل بن قوصون (۵) یعقوب شاہ (۶) قرا بقا بدری (۷) اجغا جوہری۔

سلطانی لشکر کا مقابلہ: سلطان اشرف طراہ سے علی الصباح فوج کشی کرتے ہوئے اپنے پائے تخت کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ بحری ساحل کے قریب پہنچا تو اسے کشتیوں کے غالی پایا۔ لہذا اس نے وہاں اپنے خیمے نصب کر دیئے اور تین دن تک وہاں قیام کیا۔ بیٹقا اور اس کی فوجیں ان کے سامنے جزیرہ وسطی میں تھیں۔ وہ ان پر پھروں کی بوچھاڑی کر رہی تھیں اور مجاہدین اور دیگر آلات سے سنگ باری کر رہی تھیں۔

تماشائی کشتیوں میں تھے۔ آخر کار وہ کشتیاں سلطان کی سمت آ گئیں۔ ان میں سے اکثر کشتیاں اس (بحری بیڑے) قربان کا حصہ تھیں جنہیں بیٹقا نے تیار کرایا تھا۔ لہذا سلطان اور اس کی فوجیں ان کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرہ وسطی پہنچ گئیں۔ اس وقت سلطانی لشکر سے جزیرہ بھر گیا تھا اور فضا (ان کی کثرت سے) غبار آلود ہو گئی اور سلطانی لشکر جنگ کے لئے صف آرا ہو گیا۔

بیٹقا کی شکست: بیٹقا اور اس کی فوجیں مدافعت کے لئے آگے بڑھیں سلطان کی فوجوں نے جان کی بازی لگا کر جنگ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کی فوجیں بیٹقا کو چھوڑ کر بھاگ گئیں اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بیٹقا شکست کھا کر بھاگا جب وہ میدان کے پاس سے گزرا تو اس کے دروازے کے پاس اس نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا جب کہ عوام اس پر سنگ باری کر رہے تھے۔

بیٹقا کا قتل: سلطان اپنی صف بستہ فوج کے ساتھ قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل پہنچ کر اس نے بیٹقا کو طلب کیا۔ جب وہ لایا گیا تو اسے تمام دن قلعہ کے قید خانے میں مقید رکھا گیا۔ جب رات ہوئی تو ممالیک کو اس کی زندگی کے بارے میں شک و شبہ ہوا اس لئے وہ سلطان کے پاس پہنچے اور بیٹقا کو طلب کیا۔ ان کا مقصد پوشیدہ طور پر یہ تھا کہ اس پر اچانک حملہ کر کے اس کا کام تمام کیا جائے۔ سلطان نے اسے بلوایا۔ جب وہ سلطان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا تو ان میں سے کسی نے اس پر تلوار کا وار

کر کے اس کا سراگ کر دیا۔

محل سے باہر جو افراد موجود تھے انہیں اس کے قتل کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوا۔ لہذا انہوں نے اس کے معائنہ کا مطالبہ کیا (جب انہوں نے اس کی لاش دیکھی تو) یکے بعد دیگرے ہر ایک نے اس کے سر پر تلوار کے وار کئے یہاں تک کہ آخری فرد نے اسے ایک مشعل کی طرف پھینک دیا جو اس کے سامنے تھی۔ اس کے بعد اسے دفن کر دیا گیا اور اس کا کام ختم ہو گیا۔

نئے امراءے سلطنت: اب سلطنت مصر کا انتظام استدم ناصری اور اس کے رفیق پیتقا احمدی کے سپرد ہوا۔ ان دونوں کے شریک کارنحماس طازمی، قرا بقا صر غتمشی اور تغری بردی بھی تھے جو اس انقلاب کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ان امراء کو گرفتار کر لیا جو پیتقا کی حمایت میں چلے گئے تھے اور انہیں اسکندریہ کے قید خانے میں مقید کیا گیا۔ البتہ خلیل بن قوصون کو معزول کر دیا گیا اور وہ خانہ نشین ہو گیا۔ نظر بند امراء و حکام کے بجائے دوسرے امراء کو عہدے دار مقرر کیا گیا۔ یوں سلطنت کا انتظام درست ہو گیا۔

دخیل پیرونی افراد: اس کے بعد ان ارکان سلطنت میں اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے قرا بقا صر غتمشی کو جو ان کا شریک کار تھا مقید کر دیا۔ اس واقعہ پر تغری بردی بہت ناراض ہوا۔ لہذا اس نے بعض امراء سے بغاوت کے لئے سازش کی۔ چنانچہ ایک بدری اور اس کی جماعت اس کے ساتھ شریک ہو گئی اور وہ ۶۲ھ میں جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ لہذا استدم اور اس کے ساتھی سوار ہو کر اس کے مقابلہ کے لئے نکلے اور ان سب کو گرفتار کر کے انہیں اسکندریہ کے قید خانے میں بند کر دیا۔

بلوہ اور فساد: اس کے بعد ان پیرونی دخیل افراد کا فتنہ و فساد بڑھ گیا۔ وہ شہر میں بد امنی پھیلاتے رہے اور ملکی قوانین اور شریعت اسلامیہ کے حدود سے تجاوز کرنے لگے۔ آخر کار سلطان نے ان کے بارے میں اپنے امراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کا جلد تدارک کیا جائے اور ان کا قلع قمع کیا جائے لہذا سلطان نے ان کا معاہدہ ختم کر دیا اور بحری بیڑہ کے ذریعے اپنی سلطنت کا انتظام کیا۔ پھر اس نے اپنے امراء کو جنگ کے لئے آمادہ کیا چنانچہ الجائی یوسفی، طغتمر نظامی اور سلطان کے دیگر امراء اور پیتقا کے وہ غلام جو ملازم تھے جنگ کے لئے تیار ہو گئے نیز ایبقا جلب اورنحماس طازمی بھی اپنے ساتھی استدم کو چھوڑ کر بادشاہ کی حمایت میں شریک ہو گئے تھے۔

بلوہائیوں کا محاصرہ: لہذا استدم اور اس کی جماعت نیز وہ پیرونی افراد (اجلاب) جو اس کے کاموں میں دخیل تھے جنگ کے لئے سوار ہو کر پہنچ گئے۔ انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس لئے شاہی امراء کے مرکز میں رخنہ اندازی ہو گئی اور پیتقا کے ملازمین محاذ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے جس سے سلطانی لشکر کا شیرازہ بکھر گیا اور انہیں شکست ہو گئی۔

البتہ الجائی یوسفی اور ارغون تاتاری اپنے ستر غلاموں کے ساتھ (محاذ جنگ میں) ثابت قدم رہے وہ تھوڑی دیر ڈٹے رہے پھر وہ بھی شاہی قلعہ کی طرف بھاگ گئے۔ سلطان حاجی کا بھتیجا درو ط مارا گیا اور ایبقا الجلب زخمی ہو کر گرفتار کر لیا گیا۔ نیز طغتمر نظامی علی بنحماس طازمی، الجائی یوسفی، ارغون تاتاری اور بہت سے ہزاری منصب کے اور ان سے کم درجے کے امراء گرفتار ہو گئے۔

بلو اسیوں کا تسلط: اب استدر اور اس کے بیرونی دخیل افراد (اجلاب) سلطان مصر پر دوبارہ حسب معمول مسلط ہو گئے انہوں نے مقید امراء اور عہدے داروں کے بجائے دوسرے افراد مقرر کر دیئے۔ خلیل بن قوصون کو اپنے سابقہ عہدہ پر بحال کیا گیا۔ قشتر کو طرابلس کی حکومت سے معزول کر دیا گیا اور اسے اسکندریہ میں مقید کیا گیا۔ اس کے علاوہ شام کے بہت سے امراء کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ حالت پورے سال برقرار رہی۔ وہ بیرونی حضرات (اجلاب) جو سلطنت مصر کے انتظام میں دخیل تھے، سلطان اور اس کی رعایا کو کھلم کھلا تنگ کرنے لگے۔

سلطان کی معزولی کا مطالبہ: جب ۶۷۹ھ کے محرم کا مہینہ آیا تو انہوں نے اس طرح بدامنی اور فساد پھیلانے شروع کیا۔ لہذا شاہی امراء استدر کے پاس ان کی شکایت لے کر گئے اور اسے ملامت کرنے لگے۔ تو اس نے ان چند افراد کو گرفتار کر کے ان کی سرکوبی کی۔ یہ واقعہ بروز چہار شنبہ ۶ صفر ۶۷۹ھ کو رونما ہوا۔ مگر ہفتہ کے دن ان مفسدوں اور فتنہ پردازوں کی جماعت نکل آئی۔ انہوں نے سلطان مصر کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ لہذا سلطان اپنے غلاموں اور دوسو کی فوج کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا۔ اس کے ساتھ شہر کے عوام بھی تھے جو ان کے فتنہ و فساد سے تنگ آ گئے تھے۔

استدر کی شکست: اب استدر ان بیرونی دخیل افراد کو لے کر صف آراء ہوا۔ ان کی تعداد ڈیڑھ ہزار تھی۔ یہ حسب معمول قلعہ کے پیچھے سے پہنچے جب وہ فریق مخالف کے سامنے آئے تو پیچھے ہٹ گئے اور (جنگ کرنے میں) توقف کرتے رہے ادھر عوام کی طرف سے ان پر سنگ باری ہوتی رہی تو دوسری طرف سے (شاہی) لشکر نے ان پر حملہ کر دیا تو وہ شکست کھا کر بھاگ گئے، تاہم ابقا سرگتمشی اور اس کی جماعت کو گرفتار کر لیا اور انہیں خزانہ کی عمارت میں قید کر دیا گیا۔

استدر کی گرفتاری: اس کے بعد استدر کو بھی گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا امراء مصر نے اس کی سفارش کی تو سلطان نے ان کی سفارش قبول کر کے اس کی جاں بخشی کی اور اسے اپنے اتابک کے عہدہ پر بحال کر دیا مگر وہ خانہ نشین ہو گیا۔

اس زمانے میں خلیل بن قوصون اتابک کے عہدہ پر سرفراز ہوا تھا۔ لہذا سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے جا کر اسے آئندہ کے لئے مقید کر دے۔ لہذا خلیل بن قوصون اس کے گھر پہنچا اور اسے اس شرط کے ساتھ بغاوت پر آمادہ کیا کہ تخت و تاج خلیل کو ملے گا کیونکہ وہ سلطان ناصر کی والدہ کی طرف سے اس کا رشتہ دار ہے۔

بلو اسیوں کا خاتمہ: جب بیرونی عناصر (اجلاب) کی ایک بڑی جماعت (جنگ کے لئے) اکٹھی ہو گئی اور وہ سوار ہو کر (مقابلہ کے لئے) نکلی۔ سلطان اور امراء بھی لشکر لے کر پہنچے اور آخر کار (باغیوں کو) شکست ہوئی۔ ان میں سے بہت سے افراد مارے گئے اور جو باقی بچے انہیں اسکندریہ بھیج دیا گیا جہاں انہیں قید میں رکھا گیا اس واقعہ میں جو گرفتار ہوئے تھے ان میں سے بھی اکثر قتل کیا گیا اور اونٹوں پر سوار کر کے (تشمیر کے لئے) ان کا شہر میں گشت کرایا گیا۔

قید و بندگی سزا: پھر ان بیرونی عناصر (اجلاب) کو دور دور کی سرحدوں تک تلاش کر کے قتل کیا گیا یا انہیں قید میں رکھا گیا۔ ان افراد میں جو قلعہ کرک میں قید و بند میں رہے مندرجہ ذیل (امراء) بھی شامل تھے:

(۱) برقوق عثمانی، جو بعد میں مصر کا بادشاہ ہوا۔

(۲) برکتہ جولانی (۳) طبغا جو بانی (۴) جرکس غلبی (۵) نعت۔
یہ سب قید خانوں میں سڑتے رہے یا جلاوطن رہے تا آنکہ بعد میں یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

حکام کی تبدیلی: اب سلطان کسی حد تک خود مختار ہو گیا تھا۔ اس نے الجائی یوسفی طغتمز نظامی اور مقید امراء کی ایک جماعت کو رہا کر دیا تھا۔ چنانچہ الجائی یوسفی امیر سلاح مقرر ہوا اور بیقا منصور اور بکتھر محمدی جو بیرونی عناصر (اجلاب) کے امراء میں سے تھے، مشترکہ طور پر اتابک کے عہدہ میں شریک رہے۔ پھر ان دونوں کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ دونوں بغاوت کی سازش کر رہے ہیں اور اجلاب کے قیدیوں کو رہا کر کے سلطان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا سلطان نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے حلب سے منگلی بغاشی کو بلوا کر اسے اتابک کے عہدہ پر سرفراز کیا۔ اس نے امیر علی بن مردانی کو بھی دمشق سے بلوا کر اسے نائب مقرر کیا۔ یوں سلطان نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تمام سرکاری عہدوں میں ردوبدل کیا۔

انہی میں سے اس کا آزاد کردہ غلام ارغون اشرفی بھی تھا۔ سلطان اسے ترقی کے عہدوں پر مقرر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی سلطنت کا اتابک مقرر کر کے اسے اپنا خاص آدمی مقرر کیا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ سلطان نے منگلی بغا کے بجائے حلب کا حاکم طبغا طویل کو مقرر کیا اور مردانی کے بجائے دمشق کا حاکم تدمر خواری کو متعین کیا۔ پھر اسے گرفتار کر کے اس پر آٹھ لاکھ دینار کا جرمانہ کیا اور اسے طرطوس کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اس کے بجائے منجک یوسفی کو (دمشق کا حاکم) مقرر کیا۔ اس کا طریقہ اس سے تبادلہ کیا گیا تھا اور وہاں غشتمز مردانی کو (حاکم بنا کر) بھیج دیا گیا۔ جہاں وہ پہلے بھی (اسی کام پر) مقرر تھا۔

طبغا طویل کی وفات ۶۹۰ھ کے آخر میں طبغا طویل کا حلب میں انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ بغاوت کا منصوبہ تیار کر رہا تھا لہذا سلطان نے اس کے بجائے استبغا ابوبکری کو (حلب کا) حاکم مقرر کیا پھر ۶۹۰ھ میں اسے معزول کر دیا اور اس کے بجائے قشتمز منصور کو حاکم مقرر کیا۔

عرب قبائل کی بغاوت

اس زمانے میں آل فضل میں سے ہجاز بن مہنا عرب قبائل کا سردار تھا۔ وہ باغی ہو گیا تھا۔ اس لئے سلطان نے اس کے بجائے اس کے چچا زاد بھائی نزال بن موسیٰ بن عیسیٰ کو امیر مقرر کیا تھا۔ مگر ہجاز سلطان کی مخالفت کرتا رہا اور اس نے موسم گرما میں حلب کے شہروں کو روند ڈالا تھا۔ عرب کا (قبیلہ) بنو کلاب بھی (اس فتنہ و فساد میں) اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور وہ راہگیروں اور مسافروں پر دست درازی کرنے لگے تھے۔ لہذا حلب کا نائب حاکم قشتمز منصور اپنی فوجوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لئے نکلا اور ان کے ٹھکانوں پر حملے کئے وہ ان کے جانور اور مویشی بھی لوٹ کر لے گئے۔ آخر کار یہ عرب قبائل متحد ہو کر اس کے خلاف لڑے اور اس جنگ میں قشتمز منصور اور اس کا فرزند محمد دونوں مارے گئے۔

کہا جاتا ہے کہ بھیر بن ججاز نے ان دونوں کو قتل کیا تھا۔ بہر حال ترکوں کی فوجیں شکست کھا کر حلب واپس آ گئیں۔ اور ججاز (عرب کے باغی سردار) نے جنگل بیابانوں میں پناہ لی۔
اب سلطان نے معقیل بن فضل کو عرب قبائل کا سردار مقرر کیا۔ اس کے بعد جب خود ججاز بن مہنا نے سلطان سے معافی مانگ لی اور اطاعت کا اقرار کیا تو سلطان نے اسی کو دوبارہ امیر مقرر کیا۔

نئے عہدے داروں کا تقرر: جب سلطان اشرف نے اپنی سلطنت سے اجلاب (بیرونی عناصر) کا نام و نشان مٹا دیا اور ایک حد تک اپنے اختیارات سنبھالے تو اس نے حلب سے منگلی بغا کو بلوایا اور اسے اتابک مقرر کیا۔ اسی طرح اس نے امیر علی ماردانی کو بھی دمشق سے بلوا کر نائب مقرر کیا اور الجائی یوسفی کو امیر سلاح مقرر کیا۔ اس نے اصغبا عبداللہ کو دوادار مقرر کیا۔ اس سے پہلے اجلاب کا گروہ اپنے افراد میں سے یکے بعد دیگرے دوادار مقرر کرتا تھا۔ بعد ازاں سلطان اس پر ناراض ہو گیا اور اس کے بجائے افطر صباچی کو (دوادار) مقرر کیا۔ سلطان نے باقی سرکاری عہدوں پر ان لوگوں کو مقرر کیا جنہیں وہ پسند کرتا تھا۔

سلطان اپنے آزاد کردہ غلام ارغون شاہ کو مختلف مناصب پر ترقی دیتا رہا۔ یہاں تک کہ آگے چل کر اس نے اسے اتابک بھی مقرر کیا جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔

سلطان نے بہادر جمالی کو استاذ دار (ادب ہال) مقرر کیا۔ پھر اسے امیر الما خوریہ مقرر کیا گیا۔ وہ ان دونوں عہدوں پر بار بار مقرر ہوتا تھا تا آنکہ آخر میں امیر الما خوریہ کے عہدہ پر مستقل ہو گیا اور محمد بن اسقلاس کو استاذ دار (افسر مال) مقرر کیا۔ پیدقتا صری مختلف عہدوں پر مقرر ہونے کے بعد آخر میں حاجب مقرر ہوا۔

اس اثناء میں سلطان کی والدہ نے الجائی یوسفی سے نکاح کر لیا۔ لہذا اس رشتہ کی بدولت سلطنت میں اس کا مرتبہ بلند ہو گیا اور اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا چنانچہ ایک دن جب دوادار (میرنشی) نے اس سے سخت کلامی کی تو اسے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بجائے منکوتمر عبدالغنی کو (دوادار) مقرر کیا گیا۔ جو ایک سال اس عہدے پر برقرار رہنے کے بعد ۶۷۲ھ میں معزول کر دیا گیا۔

اب سلطان نے اس کے بجائے طشتمر علانی کو اس عہدے پر مقرر کیا جو پیدقتا کے عہد حکومت کا دوادار تھا۔

بہر حال سلطنت کا انتظام اس حالت میں برقرار رہا کہ اس میں الجائی یوسفی خود مختاری کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔

عمدہ تحائف: اس زمانے میں منجک نے شام سے ایسے تحائف دے کر ایک وفد بھیجا جو بیان نہیں کئے جاسکتے۔ ان تحفوں میں نہایت عمدہ قسم کے آراستہ گھوڑے اونٹ اور خیر شامل تھے۔ ان کے علاوہ کئی قسم کا کپڑا زیورات، مٹھائیاں، نادر اشیاء اور ضرورت کا سامان بھی تھا۔ یہاں تک کہ ایسے شکاری کتے، اونٹ اور درندے بھی تھے جو نہایت ہی نادر اقسام و انواع کے تھے۔

پھر طشتمر ماردانی کے وفد حلب سے اسی طرح کے نادر اور عمدہ تحائف لے کر پہنچے۔

الجبائی یوسفی کی بغاوت اور ہلاکت

الجبائی یوسفی کا اقتدار اس زمانے میں مستحکم تھا کہ اتنے میں ۴۷۷ھ کے درمیانی عرصے میں منکلی بغاوت تک مصروف ہو گیا۔ لہذا الجبائی یوسفی نے اس عہدہ کو بھی اپنے عہدہ کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی خود مختار حاکم بن گیا۔ اس کے بعد سلطان کی والدہ جو اس کی بیوی تھی فوت ہو گئی تو وہی اس کی میراث کا وارث اور حق دار ہوا۔ بعد ازاں اس کی سلطان سے ناچاقی ہو گئی کیونکہ وہ نہایت ہی بد اخلاق تھا اور ایسی تلخ گفتگو کرتا تھا جو بہت ناگوار ہوتی تھی یوں اس کے تعلقات سلطان کے ساتھ نہایت کشیدہ ہوتے گئے اور لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کر چغل خوریاں کرتے رہے۔

بغاوت کا آغاز: اس کی سرکشی اور بغاوت کا آغاز یوں ہوا کہ ایک دفعہ وہ شہر کے عوام پر کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ اس نے ان کے قتل کا حکم دیا اور ان میں سے بہت افراد مارے گئے۔

جب یہ خبر سلطان کو ملی تو اس وقت اس کے اہل بصیرت ارکان سلطنت اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے سامنے اس کو ملامت کی تو سلطان اس پر ناراض ہو گیا اور اس نے اسے ڈانٹا اور سخت کلامی کی اس پر وہ غضب ناک ہو گیا اور بغاوت کا اعلان کیا۔

اب سلطان اس کے پاس گیا اور نرمی اور تحمل کے رویہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس زمانے میں اتابک منکلی بغا زندہ تھا۔ لہذا سلطان نے اسے بھیج کر الجبائی کو بلوایا جب وہ آیا تو سلطان نے (اسے منانے اور خوش کرنے کے لئے) نہایت عمدہ خلعت پہنایا۔

دو بارہ واقعہ: مگر جب دوبارہ اس کی طرف سے اس قسم کا واقعہ سرزور ہوا تو سلطان کے مخلص دوستوں نے اسے اس خطرہ سے آگاہ کیا۔ اس وقت وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سوار ہو کر باغیانہ انداز میں قلعہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ سلطان بیچارہ اور فریقین کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر وہ سرکشی کرتا رہا اور اس نے عرو و تکبر کا مظاہرہ کیا۔

الجبائی کی شکست: لہذا سلطان نے اپنے غلاموں کو ماہِ محرم ۵۷۷ھ میں اس کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے اکثر پتقا کے غلاموں میں سے تھے اور اجلاب (بیرونی عناصر) تھے سلطان نے انہیں اپنے فرزند اور ولی عہد شہزادہ علی کی خدمت کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ اس وقت اس کا محاذ جنگ اس میدان کی دیوار کے ساتھ تھا جو بحری بیڑوں کے متصل تھا۔ لہذا مقابلہ کرنے والوں نے بحری بیڑوں کے اندر گھس کر اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لہذا وہ دیوار سے الگ ہو کر میدان میں آ گیا۔ اس وقت شاہی فوجیں بیڑوں میں سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئیں اور اس پر شدید حملہ کیا۔ وہ شکست کھا کر پہاڑ کے پیچھے سے اپنے محل پہنچ گیا اور وہاں تین دن تک محصور رہا۔

الجبائی کی ہلاکت: سلطان نے اس عرصے میں اسے سمجھانے اور منانے کی کوشش کی، مگر وہ (اپنی سرکشی اور بغاوت) پر قائم رہا۔ اس عرصے میں اس کے ساتھی اس سے الگ ہوتے گئے۔

آخر کار سلطان نے (اس کے خلاف) ایک فوجی دستہ بھیجا تو وہ وہاں سے قلیوب کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔

فوج نے اس کا تعاقب کیا تو وہ سمندر میں کود گیا اور یہ اس کی آخری گھڑی تھی (وہ ڈوب گیا) بعد میں اس کی لاش نکال کر دفن کر دی گئی۔

مخالفوں کو سزا سنیں: سلطان کو اس کی ہلاکت پر بہت افسوس ہوا۔ لہذا اس نے اس کی اولاد کو اس کے محل میں منتقل کر دیا اور ان کے لئے اوزان کے نوکر چاکروں کے لئے سرکاری وظیفہ مقرر کیا۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر سازش کا الزام لگایا تھا اور ان سے متعلقہ جو سرکاری عہدے دار تھے سب کو اس نے گرفتار کر لیا اور ان کا مال ضبط کر کے انہیں معزول کیا گیا اور انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔

اب سلطان بالکل خود مختار حاکم ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے ایدمر القری دو ادارہ کو بلوایا جو طرابلس کا نائب حاکم تھا۔ اور اسے الجبائی یوسفی کے بجائے اتابک مقرر کیا اور اس کا منصب بلند کیا۔ اس نے ارغون شاہ کو امیر مجلس مقرر کیا اور اپنے آزاد غلاموں (موالی) میں سے امیر سر غنمش کو امیر سلاح مقرر کیا۔

اب طشمر دو ادارہ اور ناصر الدین محمد بن استقلال استاذ دار (افسر مال) کے خاص تعلقات سلطان سے قائم ہو گئے۔ تمام امور سلطنت انہی دونوں امرا میں تقسیم کر دیئے گئے تھے اور انہی کی سیاست اور پالیسی کے مطابق تمام امور سلطنت انجام پزیر ہوتے گئے۔

منجک کا استقبال اور تقرر: امیر علی ماروانی ۶۷۷ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ مگر الجبائی یوسفی کے جھگڑوں کی وجہ سے اس کا عہدہ خالی رہا۔ لہذا جب الجبائی یوسفی ۷۵۷ھ میں ہلاک ہو گیا تو سلطان نے قطر عبد الغنی کو نائب مقرر کیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ منجک یوسفی کو نائب مقرر کرے۔ کیونکہ اس کی رائے میں اس کے اندر اس عہدے کو سرانجام دینے کی صلاحیت موجود تھی اور وہ سلطان ناصر حسن کے زمانے سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتا رہا تھا چونکہ وہ اور اس کے موالی میں سے بیقراروں، طاز اور سر غنمش کا بھائی تھا۔ اس لئے وہ ان کی یادگار تھا۔

جب اس نے اس کے تقرر کا فیصلہ کر لیا تو اس کو لانے کے لئے اس نے اپنے امراء سلطنت میں سے بیچکانا صری کو بھیجا اور اس کے بجائے بندر خوارزمی کو اس کا جانشین بنایا اور عشق مقرر کو حلب میں اس کے عہدہ پر بحال کر دیا۔

شاہانہ استقبال: منجک یوسفی ۷۵۷ھ کے آخر میں اپنے غلاموں اور حاشیہ نشینوں کے ساتھ مصر پہنچا۔ سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم کے لئے ایک تقریب منعقد کی اور ارکان سلطنت کو حکم دیا کہ وہ سوار ہو کر اس کے استقبال کے لئے پہنچیں چنانچہ تمام امراء لشکر عبدالنوں کے بیچ اور سرکاری دفتروں کے ملازمین اس کے استقبال کے لئے آئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ پوشیدہ دروازے سے سوار ہو کر داخل ہو جب کہ سلطان کے خاص افراد اس کے سامنے پیدل چل رہے تھے۔ وہ محل کے دروازے پر وہاں اتر اچھاں ممالیک کا سردار بیٹھتا تھا۔

مختار کل: بعد ازاں اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنا نائب عام مقرر کیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ وزراء، خواص، قاضیوں اور اوقاف کے افسروں کو مقرر اور معزول کر سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اسے خلعت عطا کر کے رخصت کیا۔

دوسرے دن دربار عام میں اس کا تقرر نامہ پڑھ کر سنایا۔ وہ ایک یادگار دن تھا اسی دن سلطان اشرف شعبان نے بیٹقا ناصری کو جو اسے ساتھ لے کر آیا تھا، حاجب کے عہدہ پر مقرر کیا۔

فتح ارمینیا: بعد ازاں ۶۷۱ھ کے آخر میں حلب کے نائب حاکم عشقتر نے ارمینیا کی طرف فوج کشی کی اور اس کی تمام عملداری کو فتح کر لیا۔

قبل ازیں اس ملک پر پناہ حاصل کر کے نلفور قابض ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شاہی بارگاہ میں مصر پہنچا۔ سلطان نے ان سب کے وظائف مقرر کئے۔ یوں سلطان نے بیس کو فتح کر لیا اور ارمینی بادشاہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

مہجک کا جانشین: جب مہجک یوسفی اس سال کے آخر میں فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کا جانشین اقمتر صاحبی کو مقرر کیا جو علی کے نام سے مشہور تھا۔ پھر اسے معزول کر کے اس کا رتبہ بڑھا دیا اور اس کے بجائے اقمتر القینی کو مقرر کیا۔ جب شام میں عرب قبائل کا امیر جبار بن مہنا بھی فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کے فرزند سیر کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ پھر یوحسن میں سے مکہ معظمہ کا امیر بھی فوت ہو گیا تو اس کا جانشین اشرف کو مقرر کیا گیا۔

ممالیک بیٹقا کی رہائی

سلطان اشرف شعبان نے (گزشتہ واقعات نیز) بیٹقا کے غلاموں کا صفایا کر دیا تھا۔ ان سے کافی تعداد ماری گئی۔ باقی جلاوطن کئے گئے اور انہیں قید خانوں میں ٹھونسا گیا۔ تاہم نیک امور سلطنت سے ان کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ اس کے بعد منگھی ابغانے ان کے بارے میں سلطان کو نصیحت کی کہ ”ان کی تباہی سے سلطنت کا بازو کٹ جائے گا کیونکہ وہ فوج کے ایسے نوخیز جوان ہیں جو کی بادشاہ کو (ہر وقت) ضرورت رہتی ہے“۔ بادشاہ کے قتل و غارت کے فعل پر پشیمان ہوا۔ لہذا پانچ سال تک مقید رکھنے کے بعد اس نے ان کے باقی ماندہ قیدیوں کو رہا کر دیا اور انہیں شام روانہ کیا تاکہ وہ امرائے شام کی خدمت میں رہیں۔

ممتاز افراد کی رہائی: جو (ممالیک بیٹقا) رہا ہوئے تھے ان میں قلعہ الکراک کے قید خانے کے یہ قیدی بھی شامل تھے:

(۱) برقوق عثمانی (۲) برکتہ جو یانی (۳) طبقا جو یانی (۴) جرکس ظیلی (۵) نعیج۔

یہ سب افراد رہائی حاصل کرنے کے بعد شام پہنچے۔ جہاں حاکم شام مہجک نے ان کے بزرگ افراد کو دعوت دی کہ وہ ممالیک (غلاموں) کو تیر اندازی کی تربیت دیں کیونکہ وہ اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ یوں کچھ عرصے وہ اس کے پاس مقیم رہے۔

طبقا جو یانی کا بیان: جب میں نے (ابن خلدون) طبقا جو یانی سے ملاقات کی تو اس نے مجھ سے کہا:

”ہم مہجک کے پاس اس زمانے میں مقیم تھے جب سلطان اشرف نے اسے بلوایا تھا۔ دوسری طرف الجائی یوسفی نے بھی اسے اسی قسم کا مضمون لکھا تھا۔ لہذا وہ بے چین تھا کہ ان دونوں میں سے کس کی بات تسلیم کرے۔ پھر

اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس عہدہ کو چھوڑ دے۔ آخر کار اس نے ہم سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ہم نے اصرار کیا کہ وہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرے (یہ سن کر) وہ حیران ہو گیا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الجائی یوسفی کو بھی پیغام بھیجے۔ نیز اس نے اپنے دوست قرطائی کو بھی پوشیدہ طور پر یہ خط لکھا کہ وہ الجائی سے مطالبہ کرے کہ وہ ولی عہد کی خدمت کے لئے ہمیں (یعنی ممالیک پیتقا) کو بلوالے۔ یوں وہ دونوں طرف کام کرتا رہا۔

طبقاً جو بانی نے مزید کہا: ”یوں ہم ولی عہد کے پاس چلے گئے۔ اس نے ہمیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا تو سلطان نے ہمیں اپنے ممالیک کو (فنون سپہ گری) سکھانے کے لئے مخصوص کر دیا۔

آخر کار جب الجائی سے جنگ شروع ہوئی تو سلطان نے ہمیں بلوایا۔ اس وقت وہ اصطبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں جنگ کے لئے آمادہ کیا اور ہمیں اپنے حقوق جتائے اور اس کے بعد اس نے ہمیں عمدہ گھوڑے اور ہتھیار فراہم کر کے ہماری کمزوریوں کو دور کیا۔

یوں ہمیں اس کے قتل میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہ الجائی کو شکست ہو گئی۔ آگے چل کر بھی سلطان ہمارا خاص خیال رکھتا تھا اور ہمیں دوسروں پر مقدم رکھتا تھا۔“

ممالیک پیتقا کی بھرتی اس زمانے میں طشتر دوا دار کا مرتبہ سلطان اشرف کے ہاں بلند ہو گیا تھا اور وہ اس کا منظور نظر بن گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پیتقا کے ممالیک امور سلطنت پر بکثرت فائز ہوں تاکہ وہ اپنی توقع کے مطابق سلطان پر حاوی ہو سکے لہذا وہ سلطان کو ہر وقت اس بات کا مشورہ دینا تھا کہ وہ ہر طرف سے ان کو بلوا کر اکٹھا کرے تاکہ وہ سلطنت کا محافظ دست بن سکیں۔ یوں فریب دے کر وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس کا حریف محمد بن استقلاص استاذ دار (افسر مال) تھا جو امور سلطنت میں اس کا شریک اور مد مقابل تھا۔ وہ سلطان اشرف پر حاوی ہونے میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس لئے وہ سلطان کو اس کی پالیسی سے منع کرتا تھا۔ اور ان لوگوں کے اجتماع سے جو انجام بد ہوگا اس کے خطرات سے سلطان کو آگاہ کرتا تھا۔ یہ بات طشتر کو بہت ناگوار گزری تھی۔

خاصگی ممالیک سلطان کے ان کے علاوہ خاصگی ممالیک تھے جو چیدہ نوجوان تھے سلطان نے مخصوص طریقے سے انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا اور ان کے ساتھ نہایت مخلصانہ محبت کرتا تھا۔ ان میں سے بعض کو اعلیٰ عہدوں پر مقرر کیا تھا اور باقی اس کے امیدوار تھے۔

اکابران سلطنت بھی ان سے اپنے ضروری کام کرواتے تھے اور اس مقصد کے لئے وہ بھی انہی کا وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرتے تھے۔ لہذا طشتر نے بھی چغلی خوری کے لئے ان کا ذریعہ تلاش کیا اور ان کی محفلوں میں آمد و رفت رکھ کر انہیں ابن استقلاص کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔

اس نے انہیں درغلایا کہ وہی بالعموم سلطان کو ان کے اغراض کی تکمیل سے روکتا ہے اور انہیں انعام و اکرام و سے محروم کرواتا ہے۔

ابن استقلاص کی جلا وطنی اس بات کی تصدیق انہیں ان واقعات سے بھی ہوئی کہ وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا

تھا۔ لہذا ان کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے طشتر کے بھڑکانے سے سلطان کے سامنے ابن استلاص کی شکایتیں کیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نے پندرہویں جمادی الاولیٰ ۷۷۷ھ میں اسے گرفتار کر کے اسے بیت المقدس کی طرف جلاوطن کر دیا۔

اب طشتر کے لئے میدان خالی ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ مختار کل ہو گیا اور اس نے ہر طرف سے بیٹھا کے ممالک کو کثرت کے ساتھ اکٹھا کر لیا اور وہ سلطنت کے تمام شعبوں پر چھا گئے اور ہر طرف وہی نظر آنے لگے۔

سفر حج میں بغاوت

اب سلطان اشرف کو اپنی سلطنت میں ہر طرح کی خود مختاری حاصل ہو گئی تھی اور ملک کے ہر حصہ کی رعایا اس کی مطیع و فرماں بردار تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہر قسم کی دولت اور نعمت سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ اس لئے (اس نے خدا کا شکر بجالانے کے لئے) فریضہ حج ادا کرنے کا قصد کیا اور ۸۷۷ھ میں حج کا عزم مصمم کر لیا۔

اس مقصد کے لئے اس نے تیاری شروع کی اور عمدہ قسم کی سواریاں مہیا کیں اور زاد راہ کے لئے ہر قسم کے خورد و نوش کا سامان فراہم کیا اور ایسی ننان و شوکت کے ساتھ سفر کی تیاری کی جو پہلے کبھی مشاہدہ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے ولی عہد فرزند کو اپنا جانشین مقرر کیا اور راجع السلطنت اکتبر عبدالنبی کو ہدایت کی کہ وہ صبح سویرے اس کے دروازے کی قدم بوسی کرے اور تمام رسومات کو بجالائے۔

(حج پر جانے سے پہلے) اس نے سلطان ناصر کی تمام اولاد کو جو قلعہ میں نظر بند تھے نکلوا کر سردار الشیخانی کے ہمراہ قلعہ کرک کی طرف بھجوایا تاکہ وہ اس کی واپسی تک وہاں نظر بند رہیں۔

عباسی خلیفہ محمد المتوکل بن المعتضد اور تمام قاضی بھی سلطان کے ہمراہ حج کے لئے روانہ ہوئے۔ اس نے اپنے ارکان سلطنت اور امراء کی ایک جماعت کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور داد و ہش سے ان کو مالا مال کیا۔

حج کے لئے روانگی: سلطان ۱۲ شوال المکرم ۷۷۷ھ میں ایسے شاہانہ جلوس اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوا جو اپنی کثرت زیب و زینت اور رعب و خوف کی بناء پر دیکھنے والوں کے لئے ایک عمدہ نظارہ تھا۔ اس وقت خلیفہ قضاة اور امراء اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔

(تماشائی اپنے گھروں سے) نکل آئے، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی (نظارہ کرنے کے لئے باہر آ گئیں) روئے زمین ان کی سواریوں سے لرزہ بر اندام ہو گئی۔ برکت کے مقام پر حاجیوں کا قافلہ خیمہ زن ہوا اور وہاں چند دنوں تک مقیم رہا تاکہ لوگ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا اور عقبہ تک مختلف منازل طے کرتا رہا۔ پھر معمول کے مطابق حاجیوں کا قافلہ وہاں مقیم ہو گیا۔

ممالیک کی سرکشی: اس قافلہ میں ممالیک اور بالخصوص ممالیک بیٹھا کی کثرت تھی، جن کے دل میں یہ ارمان تھا کہ وہ سلطنت میں اقتدار حاصل کر لیں۔ لہذا (اس موقع پر) انہوں نے سرکشی اختیار کی اور اپنے وظائف اور روزینہ کا سختی کے ساتھ

مطالبہ کیا۔ منتظمین ان کو بہلاتے رہے مگر وہ فتنہ و فساد پر آمادہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے (گھوڑوں کے لئے) چارہ کا مطالبہ کیا۔ اس پر اربابِ نظم و نسق نے یہ معذرت کی کہ خوراک اور چارہ کا ذخیرہ آگے کے قافلہ میں چلا گیا ہے انہوں نے یہ عذر قبول نہیں کیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور رات بھر وہ صف بندی کرتے رہے۔

بغاوت اور جنگ۔ ایسی حالت میں سلطان اشرف نے نیشتر دوا دار کو بلوایا جو ان کا سردار تھا۔ اس نے گفت و شنید کر کے انہیں مطمئن کیا اور وہ اس کے سمجھانے سے روانہ ہو گئے مگر دوسرے دن پھر وہ (جنگ کے لئے) صف آرا ہو گئے۔ اور نیشتر کو بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیا اور اسے سلطان کے پاس واپس جانے سے روک لیا۔ اس بغاوت کے سرغنہ یہ حضرات تھے: (۱) مبارک طازی (۲) سرائی محمدی (۳) بطلقمر علانی۔

سلطان اپنے خاص افراد کے ساتھ سوار ہو کر ان کے پاس گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ درخواست پیش کریں گے مگر انہوں نے جنگ کرنے پر اصرار کیا۔

سلطان کی شکست۔ ان باغیوں نے شاہی جماعت کو دیکھتے ہی انہیں تیر اندازی کا نشانہ بنایا۔ لہذا سلطان شکست کھا کر اپنے خیموں کی طرف بھاگ گیا۔ پھر وہ اپنے خاص افراد کو لے کر بحری سفر پر روانہ ہو گیا اس کے ہمراہ ارغون شاہ اتابک، پیتقا ناصری، محمد بن عیسیٰ جو گرد و نواح کے بدوؤں کی ایک جماعت کا سردار تھا موجود تھے۔ ان جوانوں کی جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی جن کی پرورش اس نے محبت و خلوص کے ساتھ کی تھی اور انہیں سلطنت کے مختلف عہدوں کا امیدوار بنا رکھا تھا۔ پھر یہ شکست خوردہ جماعت قاہرہ کی طرف روانہ ہوئی۔

قرطائی کی سازش۔ جب سلطان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا تو اس نے وہاں امراء اور ممالیک کی وہ جماعت چھوڑی تھی جو اپنے اپنے عہدوں پر فائز تھے انہی میں قرطائی طازی بھی تھا جو ولی عہد شہزادہ علی کا نگران اور سرپرست تھا اس کے علاوہ (امراء میں سے) اقمیر خلیل، قشمر، استدر غتمشی اور ایک بدری بھی وہاں موجود تھے۔

قرطائی کے شیطانی خیالات نے اس کے دل میں یہ سو سے پیدا کر دیئے تھے کہ وہ مصر کا حاکم بنے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے منصوبے تیار کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے زیر نگران ولی عہد کے روزینہ اور ان کے جانوروں کے چارے کے بارے میں وزیر مملکت کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا اور وزیر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا تھا۔ جس پر وہ خاموش رہتا تھا اور بغاوت اور سرکشی کے ذرائع تلاش کرتا رہتا تھا۔

بغاوت کا منصوبہ۔ اس مقصد کے لئے اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سازش کر رکھی تھی۔ چنانچہ ۳ ذوالقعدہ کو انہیں تیار رہنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے کی رات کو اس نے ولی عہد کی دایہ (خاص خادمہ) کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ کو اچھی طرح تیار کرے اور اسے شاہی لباس پہنائے تاکہ وہ تخت نشینی کے قابل بن سکے۔

وہ خود اس دن صبح سویر میلہ عید گاہ کے قریب پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کپڑا لے کر جھنڈا تیار کیا اور اسے نصب کر دیا۔ اس زمانے میں شہر کے لڑکوں نے عید کے لئے ڈھول اور نقارے بجانے شروع کر دیئے تھے اس نے بھی ایک نقارہ لے کر بجوایا۔ اس کی وجہ سے عوام الناس ہر طرف سے جمع ہونے لگے۔ پھر شاہی محل اور قاہرہ کے ممالیک وغیرہ جمع ہونے لگے۔

یہاں تک کہ میدان آدمیوں سے بھر گیا۔

ولی عہد کی تخت نشینی: اب وہ اپنی جماعت کے ساتھ اصطبل کے دروازے سے اپنے زیرنگران ولی عہد کے گھر میں داخل ہوا اور شہزادہ علی کو لے جانے کا مطالبہ کیا۔ وہ لوگ معدودے چند پہرہ داروں کو ہٹا کر ولی عہد کو کندھوں پر سوار کر کے ایوان دربار میں لے گئے اور اسے تخت پر بٹھا دیا انہوں نے سب سے پہلے نائب حاکم قلعہ ایمر کو حاضر کیا اور اس نے بیعت کی۔ پھر وہ ولی عہد کو اتار کر اصطبل کے دروازے کے پاس لے گئے اور وہاں شہزادہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور قاہرہ کے بااقتدار امراء کو بلوا کر ان سے بیعت لی گئی۔ بعض امراء کو قلعہ میں قید کر دیا گیا۔

قرطائی کی حکومت: اس نے اکثر علی کو مصر کے بالائی حصہ (صعید) کی طرف بھیجا تا کہ وہاں کے حالات معلوم کرے پھر اس نے ایک کو اپنی حکومت کا شریک اور معاون بنا لیا اسی حالت میں رات گزارنے کے بعد صبح وہ سواروں اور قافلے والوں کی طرف پہنچے تا کہ ان سے سلطان کا حال معلوم ہو سکے۔

سلطان کی واپسی: سلطان جب عقبہ کے مقام سے شکست کھا کر بھاگا تو وہ رات تک سفر کرتا رہا جب وہ برکتہ کے مقام پر پہنچا تو اسے قاہرہ کے واقعہ اور قرطائی کے کہ تو توں کی خبر ملی۔ اس وقت اس نے (اپنے امراء سے) مشورہ کیا تو محمد بن عیسیٰ نے شام جانے کا مشورہ دیا۔ دوسرے افراد نے یہ مشورہ دیا کہ وہ قاہرہ پہنچے۔ چنانچہ سلطان قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور یہ جماعت سیدھی قبة النصر (شاہی محل) پہنچی۔ جب یہ لوگ درباریوں سے اترے تو سفر کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے۔ لہذا وہ لیٹ گئے اور نیندان پر غالب آ گئی (اور وہ سو گئے)۔

سلطان کا پوشیدہ ہونا: اس وقت ناصر سلطان اشرف کے پاس آیا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان سے چپکے سے کھسک جائے اور قاہرہ کے کسی بھی گھر میں جا کر اس وقت تک پوشیدہ رہے جب تک کہ اس کے موافق کوئی صورت نہ پیدا ہو۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا اور ایسی خاتون سے گھر پہنچا جہاں اس کی آمد و رفت رہتی تھی وہ وہاں چھپ گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب اسے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ لہذا ناصر اس سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ وہ سرنگ (زمین دوز راستہ) کی تلاش میں تھا۔

اس سے پیشتر قبة النصر (محل) سے بعض ممالیک کو خبر رسائی کے لئے گشت لگانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ صبح کے وقت وہ قلعہ کے سامنے امیلہ کے مقام پر تھے وہاں انہیں ایک حاجی ملا تو وہ اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ جب اس پر سختی کی گئی تو اس نے سلطان کے بارے میں یہ اطلاع دی کہ وہ اور اس کے ساتھ قبة النصر میں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں لہذا فوراً استدر غمتمشی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ وہاں پہنچا۔ عوام ان کے آگے آگے جا رہے تھے چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے کچھونوں میں سوئے ہوئے گرفتار کر لیا۔

شاہی جماعت کا قتل: اس جماعت میں سلطان نہیں تھا تاہم ان سب کو تہ تیغ کیا گیا اور وہ ان کے سر کاٹ کر لے آئے مگر سلطان کی گمشدگی پر وہ حیران و پریشان تھے۔ لہذا انہوں نے اس کی گرفتاری کے لئے منادی کرادی اور محمد بن

حصہ ہفتم
عیسیٰ پر بہت سختی کی (تا کہ وہ اس کا سراغ بتا سکے) مگر اس نے لاعلمی کا اظہار کیا، تاہم اسے یرغمال کے طور پر مقید رکھا گیا۔

سلطان اشرف کا قتل: آخر میں ایک کے پاس ایک عورت آئی جس نے یہ اطلاع بہم پہنچائی کہ سلطان اس کی پڑوسن کے گھر میں موجود ہے۔ لہذا انہوں نے سلطان کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے ایک کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے سخت اذیتیں دیں، یہاں تک کہ سلطان نے (شاہی) ذخیرہ اور مال و دولت کا پتہ بتا دیا۔ بعد میں انہوں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔



سلاجق ایلن خاندان

حصہ دہم

اس میں مندرجہ ذیل سلاطین کے حالات مذکور ہیں

- (۱) مصر و شام میں ممالیک بحریر کی سلطنت کا خاتمہ
- (۲) ممالیک جراسہ کی سلطنت کا قیام اور سلطان برقوق کی حکومت
- (۳) یمن کے رسول شاہی سلاطین
- (۴) تاتاری چنگیز خانی سلاطین
- (۵) خاندان دوئی خان کی سلطنت
- (۶) خاندان ہلاکو خان
- (۷) بغداد و توریز میں بنو شیخ حسن کی سلطنت
- (۸) امیر تیمور کی فتوحات
- (۹) ایران کے بنو مظفر یزدی سلاطین
- (۱۰) بلاد الروم کے حکام اور بنو ارتنا کی حکومت
- (۱۱) ترکی میں آل عثمان کی سلطنت کا آغاز
- (۱۲) مکملہ و ضمیمہ ممالیک سلاطین مصر کی علمی اور تعلیمی خدمات (از مترجم)

ترجمہ و ترتیب و تہویب مع تکمیل

از

حافظ سید رشید احمد ارشد ایم۔ اے

نفس اکرو بازار کراچی طبعی

کتاب العبد و دیوان المبتداء والخبر
من احوال العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من
ملوك التتر یعنی علامہ ابن خلدون کی کتاب التواریخ

اردو ترجمہ کے مجملہ حقوق قانونی اشاعت و طباعت دہی
کے
تصحیح و ترتیب و تبویب

پروفہری طارق اقبال گاندھری
مالک نفیس اکیڈمی۔ اردو بازار کراچی محفوظ ہیں

نام کتاب: تاریخ ابن خلدون
مصنف: رئیس المورخین علامہ عبد الرحمن بن خلدون
ناشر: نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی
طبع: جدید کمپیوٹر ایڈیشن جنوری ۲۰۰۳ء
ایڈیشن: آفٹ

نفیس اکیڈمی
اردو بازار کراچی

فہرست

حصہ دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۱	برقوق و برکتہ کی پالیسی طشتر کی گرفتاری	۱۷۷	باب: چہارم علی بن الاشرف المصور کی بادشاہت طشتر کی روانگی ارکان سلطنت سے جنگ طشتر کو شکست عہدوں کی تقسیم طاعون کی وبا ایک کا عروج و زوال قرطائی کی جلاوطنی شام کی طرف فوج کشی فوج کی بغاوت امراء کا اعلان جنگ ایک کا فرار امراء کا اختلاف ہیچاناظری کا اقتدار ایک کی گرفتاری امیر برقوق و برکتہ کا اقتدار باغی امراء کی گرفتاری طشتر کی بغاوت حکومت کی پیشکش طشتر کی حکومت
	برقوق و برکتہ کی مشترکہ حکومت حلب کے حکام انیال کی بغاوت	۱۷۷	
۱۸۲	انیال کی گرفتاری انیال کا انجام	۱۷۸	
۱۸۳	امیر برکتہ کی بغاوت ناچاقی کا آغاز بغاوت کا قصد احتیاطی تدابیر خانہ جنگی	۱۷۹	
۱۸۴	برکتہ کی گرفتاری نئے حکام کا تقرر حکام کے تبادلے اہل بحیرہ کی بغاوت اور فوجی حملے		
۱۸۵	خراج میں اضافہ بغاوت کا انسداد شاہی فوج کشی دوبارہ بغاوت کا انسداد بدر کا فرار اور قتل امیر برکتہ کا قتل	۱۸۰	
۱۸۶			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۳	گرفقاری اور قید سودون کا تقرر	۱۸۷	قاتل کو سزا سلطان علی المنصور بن اشرف کی وفات امیر حاج صالح بن اشرف کی تخت نشینی
۱۹۴	امیر جوہانی کا عروج و زوال برقوق کا رفیق خاص امیر مجلس جلا وطنی	۱۸۸	ابو برقوق کی آمد اور استقبال عسائی قبیلہ کی تحقیق برقوق کا ابتدائی زمانہ قید خانے میں سلطان کی طلبی
۱۹۵	نائب حاکم ترقی کے موقع کی تلاش بندمر کے واقعات دمشق کی حکومت گرفقاری اور قید	۱۹۰	الجبائی سے مقابلہ سلطنت کا نگران والد محترم کی آمد شاہانہ استقبال
۱۹۶	شام کی حکومت پر بحالی نظام حکومت کا مخالف گروہ مخالفوں کی سازش بندمر کی گرفتاری عشقتر کا عارضی تقرر جوہانی کا تقرر	۱۹۱	باب: پینچر سلطان الظاہر برقوق کی تخت نشینی ابقا عثمانی کی سازش تخت نشینی کا جشن امراء کے لئے خلعت قرط بن عمیر کا قتل اور خلیفہ کی معزولی قرط کے دلیرانہ کارنامے سازش کا انکشاف
۱۹۷	شام کا حاکم مطلق افریقی ممالک سے دوستانہ تعلقات ابن خلدون کی سلطان سے ملاقات	۱۹۲	قرط کا قتل نئے خلیفہ کا تقرر ناصری کا زوال اور نظر بندی امیر سلاح حاکم حلب نافرمانی کا آغاز
۱۹۸	تخائف کا تبادلہ تخائف کا جہاز غرق قاصد کا استقبال دوبارہ مغربی تخائف مصری تخائف کا تبادلہ مغربی حاجیوں کا قافلہ امراء مکہ معظمہ کے حالات		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۶	شاہی فوج کو شکست سلطان برقوق کا فرار ناصری کی حکومت	۱۹۹	احمد بن عجلان کی حکومت کپیش کی بری حرکات نوعمر امیر کا تقرر
۲۰۷	سلطان برقوق کی جاں بخشی سرکاری عہدوں کی تقسیم شام کے حکام	۲۰۰	عنان کی حکومت امراء مکہ کی خانہ جنگی مطاش کی بغاوت
۲۰۷	مخالف امراء کی گرفتاری برقوق کی الکرک میں جلا وطنی قلعہ الکرک کی حکومت	۲۰۱	نافرمانی کے آثار قاضی سے ساز باز سیواس میں آمد
۲۰۸	مطاش کی حکومت بغاوت کی تیاری ہنگامہ آرائی جنگ کا آغاز	۲۰۲	شاہی فوجوں کی روانگی امیر تیمور کا ظہور شاہی فوج سیواس میں تاتاریوں کی امداد
۲۰۹	ناصری کی شکست مطاش کی حکومت کا آغاز المصور کی تجدید بیعت ضبط اموال	۲۰۳	شاہی فوج کی واپسی طویل محاصرہ سے پزیری بغاوت کے آثار جوبانی اور دیگر امراء کی گرفتاری
۲۱۰	نئے حکام کا تقرر بذلاری کی ناکام بغاوت بذلاری کی شکست نیا حاکم دمشق	۲۰۴	ناصری کی کامیاب بغاوت حاجب کا قتل بغاوت کا آغاز امراء مصر کی فوج کشی
۲۱۱	برقوق کے قتل کا حکم معذرت نامہ بریدی کا قتل دوبارہ حکومت کے لئے جدوجہد	۲۰۵	مطاش کی حمایت خدا ری اور شکست گرفتاری اور قید ناصری کا دمشق پر قبضہ مدافعت کی تیاری باغیوں کا حملہ مصر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۸	شاہی افواج کی آمد برقوق کی دوبارہ تخت نشینی مطاش کی مکمل شکست		اہل دمشق کی شکست ابن بکیش کی شکست محاصرہ دمشق
۲۱۹	حلب کا محاصرہ طرابلس پر مطاش کا قبضہ اقتاصغدی کی اطاعت	۲۱۲	کمشیقہ کی امدادی مہم قیدی امراء کا فرار قوص کی بغاوت بغاوت کا اندازہ
۲۲۰	مخالفوں کا قتل شاہی لشکر کی روانگی مطاش کا فرار	۲۱۳	کمشیقہ کا بغاوت برقوق کی زبردست امداد شدید محاصرہ دمشق
	عربوں کی پناہ میں قلعہ دمشق کی تسخیر فتح حلب	۲۱۴	انیال کی بغاوت مطاش کی فوج کشی شام کی طرف فوج کشی
۲۲۱	دیگر شامی شہروں پر قبضہ عرب قبائل سے جنگ جوہانی کا قتل	۲۱۵	مطاش کی روانگی فریقین کی صف آرائی شدید جنگ شاہ مصر اور خلیفہ کی گرفتاری
	ناصری کا قتل حمود کا تقرر اور کارنامے افسر محصولات		مطاش کو شکست امیر حاجی کی دستبرداری برق کی مصر روانگی
۲۲۲	سرکاری آمدنی میں اضافہ ضبط مال اور قید سابقہ عہدہ پر بحالی مالیات کا انتظام	۲۱۶	محافظ قلعہ کی بغاوت نقب زنی حاکم مصر کا فرار
۲۲۳	وزیر مالیات محاصرہ حلب و عتاب ہجر کی معذرت	۲۱۷	بکا کی فتح امراء کی نظر بندی برقوق کی حکومت کا اعلان
۲۲۴	مطاش کے دیگر حالات عتاب پر حملہ مخالفوں کی اطاعت		مقتید امراء کی رہائی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۲	مطاش کی گرفتاری مطاش کا قتل مکہ معظمہ کے واقعات علی کا تقرر	۲۳۵	کمشیقا کے حالات حب میں محصور فصیلوں کی مرمت مصر میں کشمیقا کا خیر مقدم البتیمش کے حالات نظر بندی سے رہائی امراء دمشق
۲۳۳	عنان کی گرفتاری دو عملی حکومت علی کی خود مختاری بد نظمی	۲۳۶	سلطان افریقہ سے تعلقات سفیر تونس کی آمد مطاش کے ساتھ آخری جنگ طویل جنگ فوجی تیاری ناصری کی شکست بیراز ترکی علیحدگی سلطان کی دمشق میں آمد اصراء کی معذرت مطاش کی گرفتاری کی اطلاع نا کام واپسی ناصر کا قتل نئے عہدے داروں کا تقرر مصر واپسی
۲۳۴	تاتاریوں کے حالات سلطنت کی تقسیم سلطان تیمور کا ظہور چغتائی قوم کی تعداد سلطان تیمور کی فتوحات ترک فوجوں سے مقابلہ	۲۳۷	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد
۲۳۵	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد	۲۳۸	بغدادت کا انسداد مطاش کی شکست باغیوں کی شکست دشمنوں کی شکست دشمنوں کا قتل عام عرب قبائل کا فیصلہ
۲۳۶	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد	۲۳۹	آخری خبر پاپ: شمشیر بین کی رسول شاہی سلطنت مسعود کی حکومت موسیٰ اشرف کا عہد حکومت
۲۳۷	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد	۲۴۰	
۲۳۸	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد	۲۴۱	
۲۳۹	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد		
۲۴۰	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد		
۲۴۱	فتح ایران فتح بغداد حاکم بغداد کا خراب بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری مکریت کی تباہی سلطان مصر کی فوج کشی دمشق میں آمد		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	خاقان		رسول شاہی سلطنت کا آغاز
	بنو سامان	۲۳۸	فرقہ زیدیہ کی قیادت
	عہد سلجوقی		زیدیہ کے قائد سے جنگ
	خطا اور تاتار		مظفر کی حکومت
	کو خان کی سلطنت		اشرف کا عہد حکومت
۲۳۵	خوارزم شاہی سلطنت	۲۳۹	داؤد المؤید
	کشلی خان		جلال الدین بن عمر الاشرف کی بغاوت
	قوم خطا کا خاتمہ		دو بارہ بغاوت
۲۳۶	کشلی خان سے مخالفت		مجاہد کی بحالی
	شہروں کی تباہی	۲۴۰	عبداللہ بن منصور کی مخالفت
	چنگیز خان کا ظہور		زبید پر قبضہ
	خوارزم شاہ کی فتوحات		مجاہد کی ناکامی
۲۳۷	چنگیز خان کا اپنی		عبداللہ ظاہری کی فتوحات
	تاجروں کا قتل		مصر کی امدادی فوج
	احتجاجی خط	۲۴۱	شہاب صفوی کا قتل
	چنگیز خان سے مقابلہ		طاہر کا قتل
۲۳۸	خطوط کا تبادلہ		مجاہد کا حج
	خوارزم شاہ کا فرار		مصری فوج سے جنگ
	تاتاری فوج کا تعاقب		گرفتاری اور رہائی
	خوارزم شاہ کی وفات	۲۳۴	افضل بن مجاہد کی حکومت
۲۳۹	مغربی تاتاریوں کی فتوحات		دیگر حکام یمن
	اسلامی شہروں کی تباہی		
	فتح ہمدان و آذربائیجان	۲۴۳	باب: ہفت روزہ
	بیلقان کی تباہی		تاتاری سلاطین کے حالات
	در بند شروان کی طرف پیش قدمی		ترک اقوام
۲۵۰	فتح سرداق		چین
	روسی علاقے پر حملہ	۲۴۴	اسلام کا آغاز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۷	تاتاریوں کی تباہ کاری	۲۵۱	چنگیز خان کی فتوحات
	چنگیز خان کے حالات		نسائی کا بیان
۲۵۸	مودنجی کی کہانی		فتح ترند و فرغانہ
	نسائی کا بیان		فتح بلخ
	چین کا بادشاہ		قلعہ کی تسخیر
	چنگیز خان کی بادشاہت		قتل عام
	شہنشاہ چین		سات لاکھ کا قتل عام
	علاء الدین عطا کا بیان		فتح نیشاپور
	ازبک خان کی شکست	۲۵۲	جلال الدین خوارزم شاہ کے کارنامے
۲۵۹	فوجی طاقت میں اضافہ		تاتاریوں کی شکست
	تاتاری شہنشاہ		تولی خان کا قتل
	چنگیزی مجموعہ قوانین		سندھ کے علاقے میں پناہ
	وسیع سلطنت	۲۵۰	خوارزم شاہی سلطنت کی تقسیم
	چنگیز خان کے جانشین		غیاث الدین کی فتوحات
۲۶۰	سلطنت کی تقسیم		تاتاریوں کی شکست
	پائے تخت قرا قوم کے سلاطین		طوائف الملوکی
۲۶۱	قبول اسلام		جلال الدین خوارزم شاہ کی واپسی
	منگو خان کی تخت نشینی		ایرانی شہروں کی تباہی
	معدوں کی سرکوبی	۲۵۴	جلال الدین کی فتوحات
۲۶۲	ہلاکو کی شکست	۲۵۵	جلال الدین خوارزم شاہ کا آخری دور
	سقوط بغداد		فتح خلاط
	اصفہانی کی روایت		تاتاریوں کی فوج کشی
	باغی جماعت		جلال الدین کی شکست
	مجبور النسب		اہل تبریز کی بغاوت
	مغل سلاطین کی ترتیب	۲۵۶	خلاط کی طرف پیش قدمی
۲۶۳	فتح بلاوروم		غلط مشورہ
	منگو خان کی وفات		اچانک حملہ
	قبلائی خان کی حکومت		سلطان جلال الدین کا قتل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۰	طغٹائی کی حکومت طغٹائی کی شکست نوغیہ کا قتل نوغیہ کے جانشین مستحکم حکومت سازش کا انداد	۲۶۴	چغتائی خاندان کی سلطنت قید و حکومت چغتائی حکام مجوسی خاندان ترماشین کا قبول اسلام امیر تیمور کا ظہور
۲۷۱	ازبک بن طغرطائی سلطان مصر سے تعلقات علاقہ پر جھگڑا موقان پر حملہ	۲۶۵	نامعلوم نسب تیمور کی فتوحات فتح خراسان فتح مازندان و توریز فتح بغداد
۲۷۲	میول کی فتح خراسان جانی بیگ کی حکومت برد بیگ بن جانی کا دور تاتاری حکام کی خانہ جنگی	۲۶۶	تاتاری بادشاہ کو شکست خاندان دوشی خان کے سلاطین دوشی اور ناطو خان ابوالقداء کا بیان برکتہ کی حکومت
۲۷۳	مامائی کا عہد حکومت صرائی پر قبضہ ایک خان کا حملہ ارض خان کا اقتدار طغتمش کی شکست	۲۶۷	اسلام لانے کا واقعہ مساجد و مدارس کی تعمیر برکتہ کے دیگر حالات ہلاکو کی سازش ابغا کی شکست
۲۷۴	طغتمش کی فتوحات مامائی کی ہلاکت	۲۶۸	منگوتھر بن طغان تدان کی حکومت قلابغا کا عہد حکومت نوغیہ سے بدگمانی قلابغا کا قتل
۲۷۵	سلطان تیمور کی یلغار فتح اصفہان قمر الدین کی سرکوبی طغتمش کی جنگیں بنو امظفر کا خاتمہ فتح بغداد	۲۶۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۱	ہلاکو کی واپسی مفتوحہ ممالک مصر میں خلافت کا احیاء	۲۷۶	فتح مار دین احمد کا قبضہ بغداد طغتمش کا قتل غزنی اور بایان کے سلاطین بیان کی فتوحات فوشنائی کا دور
۲۸۲	ابغا (ابا قا) بن ہلاکو تکدار کی شکست تاتاری فوج کو شکست	۲۷۷	باب: ہشتم خاندان ہلاکو کے مغل سلاطین ہلاکو بن طولی کے حالات ابن العلقمی کا خط حملہ بغداد کا سبب بغداد پر فوج کشی سقوط بغداد قتل عام
۲۸۳	رحبہ کا محاصرہ ابغا کی شکست احمد تکدار بن ہلاکو قفق طائی کا قتل احمد تکدار کا قتل	۲۷۸	کتب خانوں کی تباہی ابن العلقمی کا قتل میا فارقین کی تباہی حاکم موصل کی مصالحت اربل کا محاصرہ حاکم شام کی مصالحت فتح البصرہ
۲۸۴	ارغو بن ابغا اسلام کا سبب کتنجا تو بن ابغا بیدو بن طرغائی بن ہلاکو بیدو کا قتل	۲۷۹	فتح حلب دمشق کی طرف پیش قدمی غلط مشورہ کا نتیجہ تاتاریوں کو زبردست شکست حلب کی جنگ حاکم دمشق کا قتل
۲۸۵	(غازان) قازان بن ارغو طرخانی مصر میں فیروز کا قتل		
۲۸۶	مغل سرداروں کا فرار منجو کا قتل شام پر حملہ تاتار سلطان ناصر کی شکست (غازان) قازان کی فتوحات	۲۸۰	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۳	اسماعیل کا قتل دوبارہ حکومت حسین کا قتل احمد سے جنگ	۲۸۷	مفتوحہ علاقوں کے حکام ناصر کا شام پر دوبارہ قبضہ مغلوں کی دوبارہ فوج کشی مغل فوج کا قتل عام
۲۹۴	علی کا قتل ابویزید کی حمایت بغداد پر قبضہ حملہ تیمور	۲۸۸	خریندا بن ارغو شیعی اثرات بہشتی محل کی تعمیر ابوسعید بن خربندا کا عہد حکومت
۲۹۵	بغداد پر تیمور کی یلغار بغداد پر فوج کشی فتح بغداد	۲۸۹	امراء کی سازش سازش کا انسداد ازبک سے اختلافات سیس پر حملہ
۲۹۶	احمد کا مقابلہ اور فرار بغداد کی دوبارہ تباہی مصری فوجوں کی تیاری فتح تکریت و دیار بکر مصری لشکر و دیار بکر مصری لشکر دمشق میں تیمور بلاد الروم میں آخری خبر	۲۹۰	فتح خراسان جوبان کا قتل دمرداش بن جوبان مصر میں دمرداش کا قتل دوستانہ تعلقات ہلا کو سلطنت کا خاتمہ
۲۹۷		۲۹۱	
۲۹۷	چاپ: دہرہ		چاپ: دہرہ
۲۹۸	ایران میں بنو مظفر یزدی کی حکومت فتح فارس و اصفہان سلطنت کی تقسیم	۲۹۲	خاندان شیخ حسن کی حکومت ترکمانوں کا تسلط طوائف المملوکی امراء کی وفات اویس بن شیخ حسن اویس کی اولاد حسین بن اویس
۲۹۹	شجاع کی شکست و فتح خانہ جنگی تیمور کی اطاعت تیمور کی فوج کشی منصور کی شکست		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۵	ارتقا کی حکومت دشمن کی شکست مستحکم حکومت بنو لقا درار مینہ میں عثمانی سلطنت	۳۰۰	بنو المظفر کا خاتمہ احوال بلاد الروم اور بنو ارتقا کی حکومت بلاد الروم کے علاقے وسیع سلطنت تاتاریوں کی فتوحات
۳۰۶	قاضی کی نگرانی سلطنت بنو عثمان ترکی میں عثمانی قوم کا آغاز	۳۰۱	خانہ جنگی سلطنت کی تقسیم بیکو کی فتح
۳۰۷	جداگانہ سلطنت کا قیام علی بیگ کا تقرر پہلا عثمانی بادشاہ سلطان مراد کی فتوحات قسطنطنیہ کا محاصرہ	۳۰۲	سقوط بغداد میں شرکت ہلاکو کی امداد عزالدین کی شکست ترکمانوں کی خود مختاری عزالدین کی وفات غیاث الدین کچنسر و کی حکومت مغل فوجوں کی شکست سازش کا انکشاف
۳۰۸	سلطان بایزید کی حکومت وسیع سلطنت یورپ کو فتح	۳۰۳	مغلوں کا تسلط مغل حکام کا تقرر امیر علی کی حکومت ارمنوں کے خلاف جہاد مرداش کا قتل
۳۰۹	تکملہ و ضمیرہ	۳۰۴	





www.muhammadiLibrary.com

www.muhammadiLibrary.com

باب چہارم

علی بن الاشرف المنصور کی بادشاہت

اب ان لوگوں نے سلطان اشرف کے فرزند علی کے ہاتھ پر ازسرنوع بیعت کی اور اس کا لقب المنصور رکھا، تاہم سلطنت کا اقتدار اس کے نگران قرطائی اور اس کے شریک کار ایک بدری کے ہاتھوں میں تھا۔

قشتمر کی روانگی: ادھر جب سلطان عقبہ میں شکست کھا کر قاہرہ چلا گیا تھا تو باغیوں نے متفقہ طور پر قشتمر کو اپنا قائد تسلیم کیا اور خلیفہ کو آمادہ کیا کہ وہ اس کے لئے بیعت حاصل کرے، مگر اس نے گریز کیا (مصر کے حاجی) مکہ معظمہ سے امیر محمد بہادر جمالی کی قیادت میں حسب معمول روانہ ہوئے اور قشتمر (قشتمر) اور دیگر امراء نے مصر کا قصد کیا تاکہ سلطان کی امداد کی جائے یا اس کا خاتمہ کیا جائے۔ مگر جب وہ عجز و مد کے مقام پر پہنچے تو انہیں سلطان کی ہلاکت کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے فرزند (علی المنصور) کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے اور قرطائی ملک کا بااقتدار حاکم بن گیا ہے۔

ارکان سلطنت سے جنگ: لہذا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ارکان سلطنت سے جنگ کریں گے۔ لہذا وہ صف آرا ہو کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہراول دستے پر قشتمر کو انزبنا کر بھیجا۔ اس کا مقابلہ مصر کے ہراول دستوں سے ہوا تو اس نے مصری ہراول دستوں کو شکست دی اور ان کا تعاقب کرتا ہوا طلحہ کے میدان تک پہنچ گیا، وہاں اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے لشکر کے اندر گھر گیا ہے۔ اس سے پہلے قرطائی نے قشتمر الصاحبی حنبلی کو مصر کے بالائی حصہ کی طرف بھیجا تھا۔ لہذا اس نے حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس آئے تاکہ وہ قشتمر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر سکے۔

قشتمر کو شکست: لہذا وہ (واپس آ کر) ان کے مقابلے کے لئے (فوج لے کر) نکلا اور جب قلعہ کے میدان میں فریقین کا مقابلہ ہوا تو قشتمر شکست کھا کر مصر کے قریب میان کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے پناہ مانگی تو اسے پناہ دے کر نظر بند کر دیا گیا۔

عہدوں کی تقسیم: اب ایک یادگار دن منایا گیا جس میں عوام اکٹھے ہوئے اور خلیفہ امراء، قضاة اور علماء سب شریک ہوئے۔ خلیفہ نے منصور بن اشرف کی بادشاہت کا اعلان کیا اور اسے اقتدار سپرد کیا۔ اس کے بعد قرطائی کھڑا ہوا اور اس نے عہدوں کی تقسیم کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس نے قشتمر لفاف کو اتابک مقرر کیا اور استامر غتمشی کو امیر سلاح اور قطلو بعا بدری کو امیر مجلس مقرر کیا۔

قرطائی طازی کو مخصوص فوج کا حاکم بنایا گیا اور ایاس مر غتمشی (چیف سیکرٹری) دوادار ہوا اور ایک بدری امیر الماخوریہ کے عہدے پر سرفراز ہوا اور سردوں جرکس کو استاذ دار (اسر مال) کا عہدہ دیا گیا۔ قشتمر حنبلی نائب السلطنت مقرر ہوا اور اس کے فوجیوں، امراء اور نائبوں کے لئے جاگیریں دی گئیں۔ قشتمر علانی دوادار کو رہا کیا گیا اور اسے اسکندریہ میں

جاگیریں دی گئیں۔

سلطان ناصر کی اولاد کو ان کے محافظ سردوں شیخونی کے ہمراہ قلعہ کرک سے واپس بلایا گیا اور شیخونی اور قلو طصر غمگینی کو حاجب مقرر کیا گیا۔

طاعون کی وبا سال کے آخر میں اہل مصر طاعون کی وبا میں مبتلا ہوئے جو ۹۷۹ھ کے آغاز تک جاری رہی۔ اس میں طشتر لغاف جو اتنا بک تھا ہلاک ہو گیا۔ لہذا قرطائی طازری کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ پچنانا صری شام سے بلایا گیا اور امیر کبیر قرطائی نے اسے اپنا مشیر خاص مقرر کیا۔

ایک کا عروج و زوال

قرطائی کے اقتدار میں ایک ابتداء ہی سے شریک رہا۔ ان دونوں نے مل کر گزشتہ سلطان کا تختہ الٹا تھا اور نئی سلطنت قائم کی تھی۔ لہذا دونوں میں نہایت مخلصانہ اور مستحکم تعلقات قائم تھے تاہم ایک اپنے دوستوں کے لئے خود مختاری چاہتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ قرطائی عیش و عشرت کا دلدادہ ہے اور وہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ داویدیش دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرطائی نے ماہ صفر ۹۷۹ھ میں اپنے گھر میں ایک تقریب منعقد کی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں میں سے سو دون جرس اور مبارک طازری جیسے دوستوں کو بلوایا تھا۔ اس موقع پر ایک نے ایک ایسی نبیذ پیش کی جس میں خوب آورا دو یہ شامل تھیں۔ رات بھر اس کا دور رہا یہاں تک کہ اسے اور اس کے ساتھیوں پر نشہ غالب آ گیا اور وہ ہوش میں نہیں آسکے۔ یہ حالت دیکھ کر ایک راتوں رات سوار ہو کر نکلا اور سلطان منصور کو اپنے ساتھ سوار کر آ کر لایا اور اپنے لئے اقتدار کا پروانہ منظور کرایا اور عوام نے اس کی حکومت تسلیم کر لی۔

قرطائی کی جلا وطنی قرطائی کو تین (دن) کے بعد ہوش آیا جب کہ تمام گریں کھل چکی تھیں (اس کے اختیار ختم ہو چکے تھے) اور جمہور نے ایک کو حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ اس حالت میں قرطائی نے پناہ طلب کی تو اسے پناہ دی گئی بعد میں اسے گرفتار کر کے صغد کی طرف بھیج دیا گیا اور ایک کی خود مختاری کے لئے میدان خالی ہو گیا۔

شام کی طرف فوج کشی اسی سال کے ماہ صفر کی پندرہویں تاریخ کو ایک کو یہ اطلاع ملی کہ طشتر نے شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہاں کے سب علاقوں کے حکام اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ لہذا اس نے عام اعلان کرایا کہ (فوجیں) شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے تیار ہو گئیں اور ایک نے ماہ صفر کے آخر میں اپنے فرزند احمد اور اپنے بھائی قطلو غا کی قیادت میں ہراول دستہ بھیجا۔ اس میں اس کے اور سلطان کے ممالک شامل تھے۔ نیز امراء کی ایک جماعت بھی شریک تھی۔ جن میں امیر برقوق اور امیر برکہ بھی شامل تھے جو بعد میں خود مختار حکام بن گئے۔

فوج کی بغاوت: امیر ایک آخری فوج (ساتھ) میں سلطان امراء اور باقی ماندہ فوجوں کے ساتھ بتاریخ ۲ ربيع الاول ۹۷۹ھ میں روانہ ہوا۔ جب وہ بلخس پہنچا (تو معلوم ہوا) کہ آگے کی فوج میں جو امراء شریک تھے انہوں نے اس کے بھائی کے برخلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ شکست کھا کر اس کے پاس واپس آ گیا ہے۔ لہذا ایک سلطان اور اپنی فوجوں کو لے کر

قلعہ واپس آ گیا۔

امراء کا اعلان جنگ: جب وہ وہاں پہنچا تو امراء کی ایک جماعت نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں قطلتغر علانی الطویل، طبقا سلطانی اور الغناع شامل تھے جب انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تو اس نے اپنے بھائی قطلو فجا کی سرکردگی میں ان کے مقابلے کے لئے فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے اسے شکست دی اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔

ایک کا فرار: امیر ایک کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ان امراء کو جو اس کے پاس موجود تھے ان سے ملاقات کرنے کے لئے بھیجا۔ جب انہوں نے بھی پیٹھ دکھائی تو وہ خود سوار ہو کر میان مصر کی طرف بھاگ گیا۔ ایدمر کنائی نے اس کا تعاقب کیا مگر اس کا سراغ نہیں مل سکا۔

امراء کا اختلاف: ادھر امراء قبۃ النصر سے اصطبل کی طرف گئے۔ انہوں نے چند امراء کو قطلتغر علانی کی طرف بھیجا اور اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ سلطان منصور کو معزول کر کے سابق سلطان کے فرزندوں میں سے کسی ایک کے لئے جو حکومت کا کام انجام دے سکے بیعت حاصل کرے۔ مگر اس نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

پیقنا ناظری کا اقتدار: بعد میں وہ امراء بھی پہنچ گئے جنہوں نے بغاوت کی تھی ہر اول دتے میں ایک کا بھائی آیا، انہی میں پیقنا ناظری و مرداش یوسفی اور ہزاری منصب کے حکام کی ایک جماعت شامل تھی۔ ان کے علاوہ امیر برقوق اور امیر برکتہ بھی موجود تھے (حکومت اور اقتدار کے بارے میں) ان امراء میں اختلاف برپا ہو گیا۔ آخر کار (اکثر) امراء کو نظر بند کر کے اسکندریہ بھیج دیا گیا اور اقتدار پیقنا ناظری کے حوالے کیا گیا۔ اس نے اقتدار سنبھال لیا مگر وہ متذبذب تھا کیونکہ اس کے امراء ابھی تک مختلف خیالات رکھتے تھے۔

ایک کی گرفتاری: ماہ ربیع الاول کی نو تاریخ کو سابق امیر ایک پوشیدہ مقام سے نمودار ہو گیا اور حکام کے ایک گروہ کے پاس پہنچا انہوں نے اسے پیقنا ناظری کے پاس بھیجا۔ اس نے اسے اسکندریہ بھیج دیا جہاں وہ قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پیقنا ناظری دوسرے امراء سے بدگمان تھا، اس لئے وہ امیر برقوق اور امیر برکتہ سے خاص طور پر مشورے کیا کرتا تھا۔ آخر کار ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ شام سے طشتر کو بلوا کر اُسے امیر مقرر کیا جائے۔ لہذا اُسے بلانے کے لئے آدی بھیجے گئے اور وہ اس کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔

امیر برقوق و برکتہ کا اقتدار

مصر کے امراء سلطنت حکومت مصر میں شریک ہو گئے اور انہوں نے پیقنا ناظری کو امیر و حاکم مقرر کیا تھا۔ مگر مکمل طور پر وہ اس کے مطیع و فرماں بردار نہ تھے۔ لہذا سلطنت میں بدانتظامی رہی اور اختلاف و انتشار برپا رہا۔ اس جماعت میں سب سے عقل مند سیاست دان اور مدبر امیر برقوق اور برکتہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیقنا ناظری مخلصانہ طور پر ان سے مشورہ لے لیا کرتا تھا۔

باغی امراء کی گرفتاری: آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اختلاف و انتشار برپا کرنے والے امراء کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ یہ اختلاف دور ہوں ایسے امراء مندرجہ ذیل تھے:

درداش یوسفی، تربانی حسینی، اقلص سلجوقی، اسد مر بن عثمانی وغیرہ۔

ماہ صفر کے وسط میں ان سب لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں اسکندریہ بھیج دیا گیا جہاں انہیں مقید رکھا گیا۔

پھر باقی ماندہ امراء نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ انہوں نے پتھاناظری کو اتا تک برقرار رکھا اور وہ قلعہ سے منتقل ہو کر اس کے سامنے شیخو کے محل میں مقیم ہوا۔ برقوق امیر ماخوریہ مقرر ہوا اور وہ باب الاصطبل کے قریب مقیم ہوا۔ برکتہ جو بانی امیر مجلس مقرر ہوا۔ یوں سلطنت کا انتظام چلتا رہا۔

طشتمر کی بغاوت: ادھر شام میں طشتمر نائب حاکم نے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا اور وہ خود مختار ہو گیا تھا۔ اس نے شام کے امراء اور فوجوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور عرب اور ترکمان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر دمشق کے باہر خیمہ زن ہوا تاکہ مصر پر فوج کشی کرے۔

ادھر ایک (سابق حاکم مصر) سلطان اور فوجوں کو لے کر شام کی طرف جنگ کے لئے روانہ ہوا تاکہ وہ طشتمر کی سرکوبی کرے۔ مگر اتنے میں امراء نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ پتھاد یہ جماعت سے مل گئے جن کا سردار پتھاناظری تھا۔ آخر کار یہ جماعت ایک پر غالب آکر برسر اقتدار آگئی۔ اور ایک کا اقتدار ختم ہو گیا۔

حکومت کی پیش کش: اب پتھاناظری نے برقوق اور برکتہ کے مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ طشتمر کو مصر بلوایا جائے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مصالحت کر کے اس فتنہ بغاوت کا سدباب کیا جائے۔ لہذا انہوں نے اسے لکھا کہ وہ اتا تک کا عہدہ سنبھالنے اور سلطنت کا انتظام کرنے کے لئے مصر پہنچ جائے کیونکہ وہ پتھاناظریہ جماعت کا بزرگ اور سردار ہے۔ طشتمر اس تحریر سے مطمئن ہو گیا اور فتنہ و فساد بند کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کی تعظیم و اقتدار کے بارے میں امراء میں اختلاف پیدا ہوا۔

طشتمر کی حکومت: بہر حال سلطان کو سوار کرا کر وہ زبدانیہ لے گئے تاکہ وہ اس کا استقبال کرے۔ پھر انہوں نے امراء کو اس کے حوالے کر دیا۔ اور اسے اتا تک کا عہدہ دے کر مصر کی زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ چنانچہ کسی کو مقرر کرنا اور معزول کرنا اور حل و عقد کا اختیار اسے حاصل ہو گیا۔ پتھاناظری کو سباطا کے بجائے امیر سلاح مقرر کیا گیا۔ انہوں نے (باقتدار) جماعت قلعہ کرک کی طرف بھیجی کیونکہ طشتمر ان کے عہدے پر برقرار ہو گیا تھا۔ طشتمر نے بندہ خوارزمی کو دمشق کا حاکم مطلق بنا کر بھیجا کہ جسے چاہے وہ وہاں کے عہدوں پر حاکم مقرر کرے۔ استاذ دار برقوق اور برکتہ نے بھی اس تجویز کی حمایت کی۔ اس نے ایک یوسفی کو بھی حاکم مقرر کیا اور برقوق کو مخصوص فوج کا سردار مقرر کیا گیا۔ پہلے اس عہدہ پر ناظری مقرر تھا۔ یوں انتظام سلطنت چلتا رہا۔

برقوق و برکتہ کی پالیسی: اس انتظام کے ماتحت امیر برقوق اور برکتہ اپنا اقتدار بڑھانے کے لئے اپنے حامی ممالیک کو بہ کثرت ملازم رکھنے لگے تاکہ کوئی دوسرا امیر ان کے برابر اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ وہ اپنے حامی افراد کو ترقی کے درجے پر

پہنچاتے تھے اور جوان کی خدمت کرتا تھا اسے جاگیریں دیتے تھے اور افسروں میں سے جو کوئی ان دونوں کا حامی ہوتا تھا اور دوسرے امراء سے کنارہ کشی کرتا تھا اسے امیر مقرر کرتے تھے۔

طشتر کی گرفتاری۔ امیر طشتر کو ان باتوں سے ان پر شک و شبہ لاحق ہوا اور اس کے دوستوں نے بھی اسے بھڑکایا کہ وہ ان دونوں حکام کو گرفتار کر لے چنانچہ جب ۹۷۷ھ کا ماہ ذوالحجہ آیا تو اس کے ساتھیوں نے بغیر سوچے سمجھے جلد حملہ کرنے پر اصرار کیا۔ مگر طشتر نے پس و پیش کیا۔ مگر جب امیر برقوق اور برکتہ اصطبل میں اکٹھے ہو گئے تو اس نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور طشتر کے ممالک اسیلہ کے مقام پر دن کے کچھ حصہ میں جنگ کرتے رہے۔ آخر کار وہ شکست کھا کر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر طشتر نے پناہ طلب کی چنانچہ پناہ دے کر اسے قلعہ میں طلب کیا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اسے اور اس کی جماعت کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں یہ امراء بھی شامل تھے۔

(۱) اطمش ارغونی (۲) مدلان ناظری (۳) امیر حاج بن مغلاطی (۴) دوادار ارغونی۔

ان سب کو اسکندریہ بھیج دیا گیا جہاں وہ قید خانے میں رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیچنا ناظری کو بھی بھیجا گیا مگر چند دنوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا اور برقاٹس کا نائب حاکم بنا کر وہاں بھیج دیا گیا بعد ازاں طشتر کو بھی رہا کر کے دمیاط کی طرف بھیجا گیا۔ پھر اسے بیت المقدس منتقل کیا گیا اور وہیں وہ ۸۷۷ھ میں فوت ہو گیا۔

برقوق و برکتہ کی مشترکہ حکومت۔ مذکورہ بالا دونوں حکام کی نظر بندی کے بعد برقوق و برکتہ دونوں نے مصر کی حکومت سنبھال لی اور ان کا کوئی حریف باقی نہیں رہا۔

اب امیر برقوق اتابک مقرر ہوا اور جانی شمس ناخوریہ کا امیر مقرر ہوا اور برقوق کا رشتہ دار انیال بیچنا ناظری کے بجائے امیر سلاح مقرر ہوا اور اقمتر عثمانی، اطمش ارغونی کے بجائے دوادار کے عہدہ پر فائز ہوا۔ طنبغا جو بانی دوبارہ نوبہ (خاص فوج) کا سردار مقرر ہوا اور مرداش امیر مجلس بنایا گیا۔

حلب کے حکام۔ حلب کا نائب حاکم اس اثناء میں فوت ہو گیا تھا تو اس کے بجائے عشقتمار اردانی کو حاکم مقرر کیا گیا۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد عشقتمار نے رخصت طلب کی تو اسے رخصت کر کے اسکندریہ میں مقید کر دیا گیا اور اس کے بجائے حلب کا نائب حاکم تمر تاس حسینی و مرداش کو مقرر کیا گیا۔

پھر (سابق حاکم کو) رہا کر دیا گیا اور اس نے بیت المقدس میں تھوڑی دیر قیام کیا تھا کہ برکتہ نے اسے بلوالیا اور اس کی خاطر داری کرنے کے بعد اسے نائب حاکم بنا کر حلب بھیجا۔

انیال کی بغاوت اور اس کا زوال

انیال امیر سلاح کے عہدہ پر فائز تھا۔ وہ امیر برقوق کا رشتہ دار تھا۔ اس لئے وہ سلطنت کے سرکاری حلقوں میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ امیر برکتہ کا سخت مخالف تھا اور اپنے عزیز (برقوق) کو بھڑکاتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے۔ مگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا۔ لہذا اس نے بغاوت کا ارادہ کیا اور جب امیر برکتہ بحیرہ کی طرف سیر و شکار کے سفر پر روانہ ہوا تو

اسے موقع ہاتھ لگا۔ انہی دنوں میں امیر برقوق بھی شہر سے باہر شکار کے لئے نکلا ہوا تھا۔ اس لئے اب میدان انیال کے لئے خالی تھا۔

لہذا سب سے پہلا باب الاصلیٰ پر قبضہ کیا۔ اس کے ساتھ نہ صرف اس کے غلاموں کی جماعت تھی بلکہ امیر برقوق کے ممالک بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے تھے انہوں نے امیر ماخوریہ جس خلیلی کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور سلطان منصور کو بھی بلوایا چاہتا کہ اسے عوام کے سامنے ظاہر کریں۔ مگر جانفوں نے اسے روک دیا۔

اتنے میں امیر برقوق سیر و شکار سے واپس آیا۔ اس کے ساتھ اتابک ششی بھی تھا۔ وہ قلعہ کے باہر اس کے مکان پر پہنچے اور اپنے باقی ماندہ ممالک کو مسلح کر کے اور سوار ہو کر اصلیل کے میدان کی طرف پہنچے۔

پھر انہوں نے دروازے کا قصد کیا اور اس میں آگ لگادی۔ اس وقت امیر قرطائی منصور پو شیدہ دروازے سے نکلا اور ان کے لئے دروازہ کھول دیا۔ پھر داخل ہو کر انہوں نے انیال کا مقابلہ کیا۔ اس موقع پر امیر برقوق کے ان غلاموں نے جو انیال کے ساتھ تھے ساتھ چھوڑ دیا بلکہ اس پر تیر اندازی کرنے لگے۔ لہذا وہ شکست کھا کر اور زخمی ہو کر اپنے گھر بھاگ گیا۔

انیال کی گرفتاری: اس کے بعد اسے امیر برقوق کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے یہ معذرت کی کہ اس کی اس کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ امیر برکتہ پر غالب آجائے۔ لہذا اسے اسکندریہ کی طرف بھیج دیا گیا جہاں اسے نظر بند کر دیا گیا۔ پھر بیچنا نظری کو طرابلس سے بلوایا اور اسے مقرر کر دیا گیا۔

جب امیر برکتہ کو یہ خبر ملی تو وہ بحیرہ سے جلد واپس آ گیا اور اس طرح حالات درست ہو گئے۔

اس بغاوت کی سرکوبی کے سلسلے میں جو سرکاری عہدے خالی ہو گئے تھے۔ اس پر غور کرنے کے بعد باصلاحیت افراد کا ان عہدوں پر تقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جنہوں نے اس بغاوت کی سرکوبی میں عمدہ خدمات انجام دی تھیں۔ ایسے لوگوں میں پیش پیش قوم اور قرط تھے۔ یہ واقعات ۸۱۷ھ میں رونما ہوئے۔

انیال کا انجام: انیال کچھ عرصے اسکندریہ میں مقید رہا۔ پھر ماہ صفر ۸۱۲ھ میں اسے رہا کر کے طرابلس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جب منگلی بقا احمدی فوت ہو گیا تو انیال اس کے بجائے حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔ سال کے آخر میں اسے پھر گرفتار کر کے قلعہ کرک میں مقید کیا گیا اور اس کے بجائے بیچنا احمدی کو مقرر کیا گیا اور اس کے اپنے عہدے پر بند مرخوارزی کو مقرر کیا گیا۔

۸۱۷ھ میں شام میں عرب قبائل کا سردار جبار بن المہنا فوت ہو گیا تو اس کے بجائے معقل بن فضل بن عیسیٰ اور زائل بن موسیٰ بن عیسیٰ کو مشترکہ طور پر امیر مقرر کیا گیا۔ پھر ان دونوں کو محضول کر کے بحر بن جبار کو امیر مقرر کیا گیا۔

امیر برکتہ کی بغاوت: امیر برکتہ سلطنت کے انتظام میں امیر برقوق کے ساتھ مساوی طور پر شریک تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سلطنت کے مالیات کا مختار کل بنا دیا تھا۔ ادھر امیر برقوق امور سلطنت میں مستقل مزاجی کے ساتھ عام مفادات اور رفاہ عام کے کام سرانجام دیتا تھا۔ اس لئے اس کی اس کے ساتھی ماتحت افسروں کے ساتھ اکثر مخالفت رہتی تھی

اور اکثر معاملات میں ان کے اختیارات چھین لیتا تھا۔ اس لئے وہ اس سے تنگ آ گئے تھے اور امیر برکتہ کو اس پر حملہ کرنے کے خود مختاری حاصل کرنے کے لئے بھڑکانے لگے۔

وہ امیر برقوق کے ایک بڑے ساتھی الشمس کے خلاف جا کر چغل خوری کرنے لگے کہ وہ امیر برقوق کو برکتہ کے خلاف بھی بھڑکاتا تھا۔ یوں وہ دونوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑ کر اپنے لئے راہ ہموار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ الشمس دونوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔

ناچاقی کا آغاز: (یہ باتیں سن کر) برکتہ امیر برقوق کے پاس آیا۔ اس نے الشمس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر برقوق نے اسے (اس ارادہ سے) باز رکھا اور اس کی حمایت کی۔ اس کی وجہ سے برکتہ الشمس کا سخت مخالف ہو گیا اور امیر برقوق سے بھی ناراض ہو گیا۔

(یہ حالت دیکھ کر) مصر کے اکابر حضرات نے ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ شیخ کمال الدین شیخ التکبہ اور اہل خراسان کے شیخ الصوفیہ شیخ خلدی وغیرہ الشمس کو برکتہ کے پاس معافی منگوانے کے لئے لائے۔ چنانچہ اس نے اسے معاف کر کے اسے خلعت عطا کیا۔

بغاوت کا قصد: امیر برکتہ نے اس کے بعد دوبارہ اور تیسری مرتبہ بھی جھگڑا کیا اس وقت اس کا عزم مصمم ہو گیا تھا کہ وہ اعلان بغاوت کر کے حملہ کر دے۔ اس عرصے میں، ماہ ربیع الاول ۸۲ھ میں جمعہ کے دن امیر برقوق کے گھر میں دلیمہ کی دعوت ہوئی جس میں امیر برکتہ کے تمام ساتھی اور حاکم افشار شریک ہوئے۔

احتیاطی تدابیر: اس سے پہلے امیر برقوق کو کسی خیر خواہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ امیر برکتہ دوسرے دن بغاوت کا اعلان کرنے والا ہے لہذا امیر برقوق نے برکتہ کے تمام ساتھیوں کو فوراً گرفتار کر لیا تاکہ ان کی گرفتاری کی بدولت اس کے بازو کٹ جائیں پھر اس نے اپنے ملازموں کو خود اس کی گرفتاری کے لئے بھیجا اس شخص کے لئے بدلان ناصری کو مدرسہ حسن کے مینار پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے اس کے اصطلیل کی طرف تیراندزی کی۔ مگر امیر برکتہ سوار ہو کر قبۃ النصر پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا۔

اس وقت عوام میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ اس کے گھروں کو لوٹ لیں۔ چنانچہ عوام نے اس کے گھروں کو لوٹ کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

خانہ جنگی: اس موقع پر بیقاناصری نے برکتہ کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا۔ اب امیر برقوق نے اصطلیل کی سمت سے قلعہ کے دروازہ پر اپنا محاذ قائم کیا اور اپنے شہسواروں کو جنگ کے لئے روانہ کیا۔ دن بھر جنگ ہوئی رہی۔ امیر برکتہ نے صف بندی کر کے دو طرف سے حملہ کیا۔ ایک حصہ کی قیادت بیقاناصری کر رہا تھا۔

الاق شعبانی نے برکتہ کے مقابلہ کے لئے فوج کشی کی اور الشمس (فوج لے کر) بیقاناصری کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ آخر کار امیر برکتہ کی فوجوں کو شکست ہوئی اور وہ قبۃ النصر واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھی زمنوں سے چور تھے اور ان میں سے اکثر اس کے گھر میں چھپ گئے تھے۔

برکتہ کی گرفتاری: وہ کچھ عرصے رات گزارنے کے بعد شہر کی جامع مسجد پہنچا اور وہاں اس نے رات گزاری۔ امیر برقوق کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے طبعا جو بانی کو (اسے گرفتار کرنے کے لئے) بھیجا۔ (وہ اسے گرفتار کر کے) قلعے لے آیا۔ پھر امیر برقوق نے برکتہ کو اسکندریہ روانہ کیا۔ جہاں اسے مقید رکھا گیا۔ بعد میں وہاں کے نائب حاکم صلاح الدین بن عزام نے اسے قتل کر دیا۔

نئے حکام کا تقرر: اس کے بعد پرقا ناصری اور اس کے تمام حامی امراء کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل خانوں میں بند کر دیا گیا تاکہ حالات میں تبدیلی ہو۔ امیر برقوق نے ان کے عہدوں پر سلطنت کے ان افسروں کو مقرر کیا جنہیں وہ پسند کرتا تھا۔ اس نے انیال کو بھی رہا کیا جس نے اس سے پہلے بغاوت کی تھی اور اب اسے طرابلس کا نائب مقرر کر کے بھیجا گیا۔

حکام کے تبادلے: اب برقوق نے سلطنت کا انتظام تنہا خود مختار حاکم کی حیثیت سے سنبھالا اور تمام نظم و نسق درست کیا۔ وہ سند مر نائب حاکم دمشق سے بدگمان تھا، کیونکہ وہ برکتہ کا دوست تھا۔ اس لئے اس نے اسے اور اس کے دوستوں کو جو دمشق میں موجود تھے گرفتار کر لیا اور دمشق کی حکومت عشقتر کے سپرد کی۔ اس نے انیال کو حلب کا حاکم بنایا اور امیر برکتہ کے بجائے الشمس کو اتابک مقرر کیا اور الاق شیبانی کو امیر سلاح اور طبعا جو بانی کو امیر مجلس اور ابقا عثمانی کو دادار اور چرکس خلیل کو امیر ماخوریہ مقرر کیا۔

اہل بکیرہ کی بغاوت اور فوجی حملے

اہل بکیرہ وہ خانہ بدوش قبائل تھے جنہوں نے اس علاقے کو آباد کیا۔ ان میں ہوارہ، مزانہ اور زاناتہ کے قبائل شامل تھے۔ یہی لوگ اپنے ماتحت قبائل پر حکومت کرتے تھے اور ہر سال وقت مقررہ پر سلطان کو خراج ادا کرتے تھے۔ خراج وصول کرنے اور اسے بھجوانے کا کام بدر بن سلام اور اس کے آباء و اجداد کے ذمے تھے۔ یہ لوگ قبیلہ زاناتہ سے تعلق رکھتے تھے جو

۱۔ اتابک ترکی لفظ ہے جو اتابک کا مخفف ہے۔ اتابک کے معنی باپ کے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ اکمال پاشا کو اتابک کا خطاب دیا گیا تھا کیونکہ وہ بابائے ترک تھے۔ مجازاً امیر و سردار پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے یعنی ابوالامراء یا امیر اعظم مراد ہے۔ یہ عہدہ تقریباً وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ (مترجم)

۲۔ امیر سلاح سلطان کے ہتھیاروں کا محافظ ہوتا ہے۔ بالعموم وزیر دفاع یا وزیر جنگ کے برابر یہ عہدہ ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو صبح الاشی اور مقتصدی مطبوعہ حکومت مصر ج ۵ ص ۳۵۶ و النجوم الزاہرہ ج ۷ ص ۱۸۴۔ ۱۱۵۶ از ابن تغریٰ مطبوعہ حکومت مصر وزارت ثقافت) (مترجم)

۳۔ امیر مجلس سلطان کے دربار کا انتظام کرتا ہے۔ اس کا عہدہ امیر سلاح سے بڑا ہوتا ہے آج کل کی اصطلاح میں وزیر دربار کے برابر ہے (مترجم)

(ملاحظہ ہو صبح الاشی ج ۵ ص ۳۵۵ مطبوعہ وزارت ثقافت مصر)

۴۔ دوادار دراصل دوات دار کا مخفف ہے۔ قدیم زمانے میں اس عہدہ پر عمامہ پوش اہلکار کا تقرر ہوتا تھا جو سلطان کی دوات و قلم کی حفاظت کرتا تھا اور ایک پیش کار اور منشی کے برابر اس کا عہدہ ہوتا تھا مگر بعد میں یہ اعلیٰ عہدوں میں شمار کیا جانے لگا اور پرائیویٹ سیکرٹری کے برابر ہو گیا۔ (صبح الاشی و النجوم الزاہرہ تقریباً ج ۷ ص ۱۷۴۔ ۱۸۵ مطبوعہ وزارت ثقافت مصر) (مترجم)

۵۔ امیر ماخوریہ۔ یہ لفظ مذکورہ بالا کتب میں امیر آخور کے نام سے مذکور ہے جسے بگاڑ کر امیر سلاخور اور سلاخور بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ممالک مصر کے زمانے میں بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ذمے گھوڑوں اور مویشی کی حفاظت اور خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ (صبح الاشی و النجوم الزاہرہ لابن تغریٰ عبدی ج ۷ ص ۱۸۵) (مترجم)

لواتہ کی ایک شاخ ہے ان لوگوں سے الگ بادیہ نشین قبائل اور ان کے سردار بھی تھے جیسا کہ ابو ذؤب ہے جو مہرانہ اور عسرہ کا سردار تھا۔ اسی طرح خلیج اسکندریہ کے قریب بنو التزکیہ تھے جو عربوں کے سردار تھے، مگر ان کے تعلقات بھی اہل بصرہ کے (قبائل) سے قائم تھے۔ کیونکہ وہ بصرہ سے غلہ فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مقاصد پورا کرنے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لئے ترک بادشاہوں کی ملازمت بھی اختیار کر رکھی تھی۔ یوں ان کا اثر و رسوخ اور تہہ بڑھ گیا اور وہ اپنے ہم پلہ قبائل ہوارہ وغیرہ سے آگے بڑھ گئے۔

خراج میں اضافہ: اس کے بعد سلطنت کی ضروریات کے مطابق ان کے خراج میں اضافہ کیا گیا تو یہ اضافہ انہیں ناگوار معلوم ہوا اور چونکہ وہ باعزت اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کر چکے تھے اس لئے انہوں نے خراج دینا بند کر دیا۔ لہذا خراج کی وصولی میں ان پر سختی کی گئی۔ جب (ان کے سردار) سلام کو قاہرہ میں قید کر دیا گیا تو اس کا فرزند بدر بن سلام قبیلہ کے علاقے کی طرف جو صعید (مصر کے بالائی حصہ) میں تھا بھاگ گیا۔

بغاوت کا انسداد: جب شاہی فوجیں وہاں پہنچیں تو بدر نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں کاشف مارا گیا۔ یہ فوجیں ۸۰ھ میں الاق شعبانی احمد بن یوسف اور انیال کی مشترکہ قیادت میں روانہ کی گئی تھیں۔ اس وقت تک انیال نے بغاوت نہیں اختیار کی تھی لہذا بدر کی فوجیں بھاگ گئیں اور شاہی لشکر نے ان کے علاقہ کا صفایا کر دیا اور پھر وہ فوجیں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد بدر بصرہ کے علاقہ میں واپس آ گیا اور حکومت مصر اس سے عاقل ہو گئی کیونکہ پہلے انیال اور اس کے بعد برکتہ کی بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ اس اثناء میں بدر بن سلام کا فتنہ و فساد بڑھتا رہا اور اس نے خراج ادا کرنا بند کر دیا تھا۔

شاہی فوج کشی: آخر کار شاہی لشکر اتابک الشمس اور امیر ملاح، جو یانی امیر مجلس اور دیگر مغربی امراء کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔ جب یہ فوجیں بصرہ پہنچیں تو بدر نے ان سے جنگ کرنے کے ارادہ کیا مگر کسی نے شاہی لشکر کو (برے انجام سے) خبردار کر دیا تو انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑ لئے اور اس محاذ کو خالی چھوڑ کر اپنے مرکزی محاذ کی طرف چلے گئے (یہ حالت دیکھ کر) دشمن کی فوجیں خیمہ گاہ پہنچیں اور اسے لوٹنے میں مصروف ہو گئیں۔

اس وقت شاہی فوجوں نے ان پر پلٹ کر حملہ کیا اور ان کی فوجوں کا صفایا کر دیا اور ان میں سے بہت ہی کم بچ سکے۔ لہذا بدر بن سلام نے اطاعت کا پیغام بھیجا اور خوف و خطرہ کا عذر پیش کیا اور جب خراج ادا کر دیا تو شاہی فوجیں واپس چلی گئیں اور بصرہ کا حاکم بکتر شریف کو مقرر کیا گیا۔ پھر اسے تبدیل کر کے قرط بن عمر کو حاکم مقرر کیا گیا۔

دوبارہ بغاوت: اس کے بعد بدر نے دوبارہ بغاوت کی تو شاہی فوجیں پھر اس کے مقابلہ کے لئے آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بھاگ گیا تو قرط بن عمر نے اس کی فوجوں کا صفایا کیا۔ ان کے اکثر مردوں کو تہ تیغ کیا گیا اور باقی ماندہ افراد کو متہید کیا گیا۔ اس اثناء میں بدر کا چچا زاد بھائی اور اس کے ساتھی اس کی حمایت سے دستبردار ہو گئے۔ ابن شادی فوت ہو گیا اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے پناہ کی درخواست کی لہذا انہیں پناہ دے دی گئی کچھ مردان میں سے قید کئے گئے اور جو باقی رہ گئے انہوں نے خراج ادا کرنے کی ضمانت دی۔

بدر کا فرار اور قتل: بدر نے بھی پناہ طلب کی مگر اسے پناہ نہیں دی گئی اس لئے وہ صعید (مصر کے بالائی حصہ) کی طرف چلا

گیا۔ شاہی لشکر نے اس کا تعاقب کیا تو وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اب اس کے قبائل اور علاقہ کا ضمایا کیا گیا۔ وہاں سے وہ برقہ (لیبیا کا علاقہ) چلا گیا اور شیخ ابو ذب کا مہمان بنا۔ اس نے اسے پناہ دے دی۔ (بدر کے چلے جانے کے بعد) بحیرہ کے حالات درست ہو گئے اور قرط (حاکم) نے وہاں سے خراج وصول کر لیا۔ اس نے رحاب اور شادی کی اولاد کو قتل کر دیا اور ان کے تمام مردوں کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ادھر بدر شیخ ابو ذب کے ساتھ رہنے لگا مگر کبھی کبھی اپنے علاقے کی طرف بھی جاتا تھا۔ آخر کار ایک انتقام لینے والے نے (جس کے کسی افراد کو اس نے قتل کیا تھا) اسے پکڑ لیا اور اپنا انتقام لے کر (اسے مار ڈالا) اور اسے دوسروں کے لئے عبرت کا نمونہ ۸۹ء میں بنا دیا۔

امیر برکتہ کا قتل: امیر برکتہ جب امیر تھا تو اس نے غلیل بن عزام کو اپنا استاذ دار مقرر کیا تھا۔ پھر اس نے اس پر مامی (غبن) کا الزام لگایا اور ناراض ہو کر اسے معزول کر دیا اور اس کا مال ضبط کر کے اسے مقید کر دیا تھا کچھ عرصہ کے بعد اس نے اسے رہا کر دیا۔ مگر غلیل کے دل میں انتقام کا جذبہ موجزن رہا۔

جب برکتہ کا زوال ہوا، اور وہ اسکندریہ میں نظر بند ہوا۔ جہاں کا نائب خلیل بن عزام تھا تو اس نے برکتہ کو قتل کر کے انتقام لینے کا قصد کیا مگر اس کے انجام سے خوف زدہ ہو کر قاہرہ چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا مگر آخر کار وہ اپنے پوشیدہ کینہ اور دشمنی سے غلاب ہو گیا اور اس نے رات کی تاریکی میں اسے اچانک قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے چند مسلح لوگوں کو اس کے پاس (رات کے وقت) بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے اقرار کیا کہ اس نے انہیں قتل کرنے کی اجازت دی تھی۔

قاتل کو سزا: یہ خبر سلطنت مصر کے نگران امیر برقوق کے کانوں تک بھی پہنچی کیونکہ امیر برکتہ کے غلاموں نے غلیل کے خلاف اس سے فریاد کی تھی تو اسے یہ فعل بہت ناگوار گزرا۔ اس نے غلیل بن عزام کے خلاف سخت کارروائی کی اور اپنے دو ادارے امیر یونس کو بھیجا کہ وہ اس کی تحقیقات کر کے ابن عزام کو اس کی خدمت میں پیش کرے چنانچہ وہ اسے بیڑیوں میں جکڑ کر لایا اور اسے امیر برکتہ کے قتل کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔

امیر برقوق نے اس پر قسم کھائی کہ وہ ضرور بالضرور اس کا انتقام لے گا۔ چنانچہ ۸۲ء میں پندرہ رجب کی تاریخ کو ابن عزام کو قلعہ پہنچایا گیا اور قلعہ کے دروازہ کے پاس اسے کوڑے مارے گئے پھر تشہیر کے لئے اسے اونٹ پر گشت کرایا گیا اور سوق الخلیل میں اسے اتار دیا گیا۔ جہاں برکتہ کے غلاموں نے اسے پکڑ کر تلواروں کے وارے کھڑے کھڑے کر دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے گر کر ہر طرف بکھر گئے۔ یوں لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوئی۔

سلطان منصور بن اشرف کی وفات: جب سلطان منصور علی بن اشرف کو امیر قرطانی نے اس کے باپ کے خلاف بغاوت کر کے تخت پر بٹھایا تھا تو وہ بارہ سال کا بچہ تھا۔ تاہم اس کی سلطنت برقرار رہی مگر اس کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ وہ پانچ سال بادشاہ رہا اور ماہ صفر ۸۳ء میں فوت ہو گیا۔

امیر حاج صالح کی تخت نشینی

اس کی وفات کے بعد امیر برقوق نے امرائے مصر کو بلوایا۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس کے بھائی امیر حاج کو بادشاہ مقرر کیا اور اسے شاہی دربار لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور اس کا لقب صالح رکھا۔ خلیفہ نے حسب معمول ایک فرمان جاری کیا جس میں اسے سلطان تسلیم کیا گیا تھا اور امیر برقوق کو اس کی صغریٰ کی وجہ سے سلطنت کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ علمائے کرام نے بھی اسی قسم کا فتویٰ دیا اور اس تقرر کو بیعت میں شامل کر دیا گیا خلیفہ کا یہ تحریری فرمان امراء قاضیوں اور خاص و عام افراد کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا یہ دن قابل ذیاد اور یادگار دن تھا۔ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا۔ پھر سلطان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور اس کی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ جس میں امیر برقوق کا بہت بڑا حصہ تھا۔

ابو برقوق کی آمد اور استقبال: امیر برقوق کا اصل خاندان قبیلہ چرس سے متعلق ہے جو شمالی علاقے کے ان کوہساروں میں رہتے ہیں جو قچاق اور اوس وغیرہ کو مشرقی سمت سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس چرس قبیلہ کا تعلق اس غسان قبیلہ سے ہے جو اپنے امیر جبلہ بن الایہم کے ساتھ رومی علاقے میں داخل ہوئے تھے جب کہ ان کے امیر کا حضرت عمر بن الخطاب سے اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

غسانی قبیلہ کی تحقیق: مگر یہ رائے درست نہیں ہے کیونکہ چرس کا قبیلہ ترکوں میں بہت پہلے سے مشہور ہے اور ماہرین علم الانسان اس سے واقف ہیں اور اس قبیلہ کے افراد ان مقامات میں غسانیوں کے داخلہ روم سے پہلے ان مقامات میں رہتے تھے۔ البتہ یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے کہ غسانی قبیلہ جب امیر جبلہ کے ساتھ ہرقل کے پاس پہنچا تو وہاں رہنے لگے۔ کیونکہ وہ واپس جانے سے مایوس ہو گئے تھے اور ہرقل فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد رومی سلطنت کا انتظام بگڑ گیا اور ان کے علاقوں میں فتنہ و فساد برپا ہونے لگے تو ان خانہ جنگیوں میں قبیلہ غسان کو حلیف بنانے کے لئے کسی قوم کی ضرورت ہوئی ہوگی تو ممکن ہے کہ انہوں نے چرس قبائل کو اپنا حلیف بنا لیا ہو اور قسطنطنیہ کے مشرقی سمت میں ان کے کوہستانی علاقے میں آباد ہو گئے ہوں اور شادی بیاہ کر کے ان میں مدغم ہو گئے ہوں۔ یہاں تک کہ قبیلہ کی حیثیت سے ان کی ہستی فنا ہو گئی ہو اور وہ میدانوں سے نکل کر ان کے پہاڑوں میں آباد ہو گئے ہوں اور یوں ان کی ایک شاخ غسان کے نام ان چرس قبائل کے ساتھ شامل ہو گئی ہو۔ بہر حال یہ تحقیق کسی حد تک قرین قیاس اور صحیح ہو سکتی ہے۔

برقوق کا ابتدائی زمانہ: امیر برقوق کو امیر بیہقا کے زمانے میں اس زمانے کا مشہور عثمان قرابا حاصل کر کے لایا تھا۔ امیر بیہقانے اسے خرید لیا اور وہ اس کے گھر میں پرورش پانے لگا اور وہیں اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اس نے تیر اندازی اور ملک و سلطنت کے آداب و قواعد سیکھے۔ اس طریقے سے اس کا خاندانی اکھڑپن دور ہو گیا اور وہ امارت اور اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے قابل بن گیا اس کی پیشانی سے ترقی اور خوش بختی کے آثار نمایاں تھے اور خداوند کریم کا فضل و کرم اس کے شامل حال رہا۔

قید خانے میں: اس کے بعد بیٹھا اور اس کے ممالیک پر زوال آیا اور ان کا سردار استدرم ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ غلاموں کو جلا وطن کر دیا اور ان میں سے ایک حصے کو قید خانوں میں ٹھونس دیا گیا۔ انہیں میں امیر برقوق بھی تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کرک کے قید خانے میں پانچ سال تک مقید رہا۔ یہ بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں وہ ہتیار رہا۔ اس مدت کے بعد اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا اور یہ جماعت شام چلی گئی۔

سلطان کی طلبی: شام کے نائب حاکم امیر منجک نے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھا وہ نہایت عقل مند اور جہاں دیدہ حاکم تھا۔ اسے امیر برقوق سے بہت محبت ہو گئی۔ کیونکہ اس نے تاڑ لیا کہ وہ بہت ہونہار اور سعادت مند ہوگا۔ لہذا وہ ایک عرصہ تک اس کا منظور نظر رہا۔ آخر کار سلطان اشرف نے ان تمام غلاموں کو بلوایا جن کا سرخیل برقوق تھا۔

الجبائی سے مقابلہ: سلطان نے پوری جماعت کو انعام و اکرام سے نوازا اور اپنے شہزادہ علی کی خدمت کے لئے انہیں مخصوص کر لیا۔ چند دنوں کے بعد سلطنت کے نگران الجبائی نے بغاوت کا اعلان کیا اور وہ سلطان پر غالب آ گیا۔ لہذا سلطان نے برقوق کی جماعت کو بلوا کر اپنے عمدہ ہتھیار اور بہترین گھوڑے ان کے حوالے کئے۔ وہ ان میں سے بہترین اشیاء کا انتخاب کر کے الجبائی کے مقابلہ کے لئے پہنچ گئے اور ایسی گھسان کی جنگ کی کہ اسے رملہ کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اس کا تعاقب کیا تا آنکہ الجبائی نے سمندر میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔

اس جنگ میں اس جماعت کی فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سلطان کی نظر میں چڑھ گئے اور اس نے انہیں اپنے مخصوص گروہ میں شامل کر لیا اور ان کے لئے جاگیریں اور وظائف مقرر کئے۔ بالخصوص امیر برقوق کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا۔

سلطان کا نگران: جب سلطان اشرف حج کے لئے روانہ ہوا تو قرطائی نے باغی ہو کر سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک سلطنت پر قابض ہو گیا اس اثناء میں امیر برقوق کا اثر و رسوخ سرکاری حلقوں میں بہت بڑھ گیا تھا اور امراء کے حلقے میں اس کا بہت احترام تھا۔ لہذا جب ایک کا اقتدار ختم ہو گیا تو مختلف خیالات و رجحانات کے امراء کی ایک جماعت نے مشترکہ طور پر اقتدار سنبھالا۔ اس وقت کے دانشوروں کو ملک و سلطنت کی تباہی کا اندیشہ تھا لہذا ایسے موقع پر امیر برقوق آگے بڑھا اور اس نے امیر برکتہ کے ساتھ مل کر سلطنت کی باگ ڈور خود سنبھال لی۔ یوں کچھ عرصے کے لئے سلطنت کا انتظام درست ہو گیا۔

جب امیر برکتہ نے بھی بغاوت کا اعلان کیا اور وہ تباہ و برباد ہوا تو امیر برقوق خود مختار نگران سلطنت مصر مقرر ہوا۔ یہ سب کچھ خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ خدا نے مزید فضل و کرم یہ کیا کہ اس کے والد محترم کو بلوا کر اس کی مکمل شیرازہ بندی کی صورت پیدا کر دی۔

والد محترم کی آمد: اس کی صورت یہ ہوئی کہ تاجروں (بردہ فروشوں) کی ایک جماعت ان کے والد محترم کو (بردہ فروشوں کے بچے سے) چھڑا کر دور دراز کے علاقوں سے نکال لائی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے مختلف تدبیروں سے کام لیا تھا اس کے والد کا نام انس تھا۔

شاہانہ استقبال: (جب برقوق کو اس کی اطلاع ملی تو) اس نے اس کے استقبال کا زبردست انتظام کیا۔ اس نے حکم دیا کہ

شاہی لشکر اور عوام سوار ہو کر اس کے استقبال کے لئے سریاقوس کے مقام پر پہنچیں جہاں اس کے نزول اجلال کے لئے خیمے گاڑ دیے گئے تھے۔ لہذا سب لوگ ۲ ماہ ذوالحجہ ۸۲ھ کو وہاں پہنچے جہاں معزز مہمان امیر انس صدر مجلس بنے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف قاضیوں، امراء اور اعلیٰ افسروں کا گروہ تھا (شاہانہ استقبال کے بعد) دسترخوان بچھوائے گئے اور حاضرین نے کھانا تناول کیا۔ پھر وہ منتشر ہوئے اور سوار ہو کر شہر چلے گئے۔

(اس خوشی میں) بازاروں کو نہایت زیب و زینت سے سجایا گیا اور (رات کے وقت) شمعوں سے چراغاں کیا گیا۔ گلیاں اور سڑکیں بے شمار تماشاخیوں سے بھری ہوئی تھیں اور یہ دن یادگار اور قابل دید تھا۔

امیر برقوق نے اپنے والد محترم کو مدینہ ناصریہ کے نیچے اصطبل کے قریب ٹھہرایا۔ سلطان نے اسے اپنے رشتہ داروں، چچا زاد بھائیوں اور بھتیجوں میں شامل کر لیا اور اس کی وجہ سے ان کی شیرازہ بندی ہوئی اور ان کے لئے وظائف اور روزیہ مقرر ہوئے۔

امیر برقوق کے والد محترم انس (غسانی) کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گئے۔ انہوں نے (اپنے فرزند) کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وصیت کی تھی۔ سلطان نے انہیں دو اداروں انس کے قبرستان میں دفن کیا۔ پھر انہیں اس مدرسہ (دارالعلوم) کے قریب کے قبرستان میں منتقل کیا جو اس نے دونوں محلوں (بین القصرین) کے درمیان ۸۸ھ میں تعمیر کرایا تھا۔

باب: پنچتر

سلطان برقوق کی تخت نشینی

پہلے یہ امراء برقوق کے زمانے میں اعلیٰ عہدوں پر سرفراز تھے اور وہ حکومت کے اعلیٰ اختیارات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس لئے وہ خود مختاری کے خواہاں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ شاہی خاندان کے نوعمر لڑکوں کے بجائے ان کا امیر برقوق مستقل بادشاہ ہو جائے۔ جب امیر حاج کو سلطان بنایا گیا تھا تو اس موقع پر مفتیان کرام نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس موقع پر نگران سلطنت (برقوق) کو بھی سلطنت میں شریک کیا جائے تاکہ مستحکم حکومت قائم ہو سکے۔ اس موقع پر امیر برقوق نگران سلطنت ہو گیا۔ رعایا اس کی عمدہ سیاست اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئی۔

ابن عثمانی کی سازش: اسی زمانے میں امراء نے وہ جماعت جو اس نوعمر سلطان کی نگرانی کر رہی تھی، امیر برقوق کی مخالف ہو گئی اور اس کے خلاف سازش کرنے لگی۔ اس سازش کا سرمنظر سلطان کا دوادار ابن عثمانی تھا۔

امیر برقوق کو اس کی سازش کی اطلاع ہو گئی تو اس نے موری جماعت کو گرفتار کر لیا اور ابن عثمانی کو دمشق امیر بنا کر بھیج دیا اور باقی ماندہ افراد کو قوص کی طرف جلا وطن کر کے نظر بند کر دیا جہاں وہ خدائی فیصلہ تک مقید رہے۔

دیگر امراء کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ رونمانہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ نوعمر لڑکوں کی تخت نشینی کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے اور امیر برقوق کو مستقل طور پر بادشاہ بنایا جائے۔

تخت نشینی کا جشن: لہذا ۱۹۱ رمضان المبارک ۸۴ھ کو ایک دربار منعقد ہوا جس میں ہر خاص و عام شریک ہوا۔ اس میں

فوج، قاضی، علماء، مفتیان کرام، اہل شوریٰ اور ہر طبقہ کے افراد شریک تھے اور ان سب نے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ سلطان امیر حاج کو معزول کر کے برقوق کو مصر کا سلطان بنا دیا جائے۔ لہذا معزول سلطان کی طرف دو افسروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اس کے

ہاتھ سے تلوار نکال لیا۔ (یہ معزولی کی علامت تھی) اس کے بعد سلطان برقوق نے شاہی لباس اور شاہی شہنائی بجا کر تہن کیا اور خلعت خلافت سے آراستہ ہوا اور اپنی مجلس سے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر اصطبل کے دروازے کی طرف پہنچا۔ پھر شاہی

محلات میں داخل ہو کر قصر ابلق کے شاہی تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر لوگ جوق در جوق آئے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ یوں اس کی تخت نشینی کے انتظامات مکمل ہوئے اور اس کا لقب ملک ظاہر رکھا گیا۔

امراء کے لئے خلعت: اس کے بعد تقارہ اور طبل بجا یا گیا اور تمام سلطنت میں اس خوش خبری کا اعلان کیا گیا اور سلطنت کے مخصوص امراء کو خلعت عطا کئے گئے ان میں مندرجہ ذیل امراء شامل تھے۔

(۱) اٹاک اٹمس (۲) طبقا جو بانی امیر مجلس (۳) چرکس خلیلی امیر ماخوریہ (۴) سو دون شیخونی نائب (۵) طبقا معلم امیر سلاح (۶) یونس نوروی دوادار (۷) قرون حسینی راس نوبہ۔

سلطان برقوق نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری ابوحدالدین بن یاسین کو بھی خلعت سے نوازا۔ اس نے سلطان کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری بدرالدین بن فضل اللہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر تمام سرکاری عہدے داروں اور افسروں کو خواہ وہ وزیر کاتب ہو یا قاضی اور محتسب ہو خلعت عطا کئے۔ نیز تمام مشہور علماء کرام و مقتدیان عظام و صوفیائے کرام کو خلعت عطا کئے گئے۔ یوں سلطنت کا انتظام بحسن و خوبی قائم ہو گیا اور عوام ایسے سلطان کی بادشاہت سے خوش ہوئے جو سلطنت کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اسے مستحکم بنا سکتا ہے۔

اس سال طبقا جو بانی امیر مجلس نے سلطان سے حج کرنے کی اجازت طلب کی تو سلطان نے اس کی اجازت دے دی اور وہ فریضہ حج ادا کر کے واپس آ گیا۔

قرط بن عمر کا قتل اور خلیفہ کی معزولی

قرط بن عمران ترکان سرداروں میں سے تھا جو سلطنت مصر کے خدمت گزار تھے وہ اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے امرائے مصر کا ہر کاب ہو گیا۔ آخر کار اسے صعیق (بالائے مصر) کی حکومت سپرد کی گئی تاکہ وہ اسوان کے علاقے میں مقیم عربوں کے خلاف جنگ کرے۔ اس نے اس سلسلے میں محض چند خدمات انجام دیں اور انہیں اس علاقے سے بھگا دیا۔

قرط کے دلیرانہ کارنامے: جب بحیرہ کے علاقہ میں بدر بن سلام نے بغاوت کا اعلان کیا اور وہاں سے بھاگ گیا تو اسے اس علاقہ کا حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے وہاں کا انتظام بھی درست کیا اور ان باغیوں اور منافقوں کا تعاقب کر کے ان کا قلع قمع کیا۔

جب انیال نے بغاوت کا اعلان کیا تو اس موقع پر اس نے اپنی دلیری اور بہادری کے کارنامے ظاہر کئے۔ اس موقع پر دیوار پر وہی چڑھا اور اس دروازے کو آگ لگا لی جہاں سے فوج نے داخل ہو کر اسے گرفتار کیا تھا۔

لہذا قرط بن عمر اپنے کارناموں کی وجہ سے سلطان کا منظور نظر ہو گیا تھا۔ تاہم وہ بہت ظالم و جاہل انسان تھا اور رعایا کی طرف سے اس کے خلاف بہت شکایتیں آنے لگی تھیں لہذا سلطان نے بیعت کے بعد پہلی فرصت میں اس کو گرفتار کر لیا اور اسے قید خانہ میں ٹھونس دیا پھر اسے معاف کر کے اسے رہا کر دیا۔

سازش کا انکشاف: اس کے بعد وہ اپنے خواص اور دوستوں کے ساتھ صبح سویرے سلطان کے آستانے پر حاضر ہوتا تھا مگر اس کے دل میں کھوٹ تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہا۔ تاہم اس کے بارے میں سلطان کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس نے خلیفہ متوکل بن المعتمد سے ساز باز کر رکھی ہے کہ وہ دونوں مل کر بغاوت کا اعلان کریں اور سلطنت کے خلاف ان عرب باغیوں کو اکٹھا کریں جو بحیرہ سے برقعہ کے گرد نواح میں پہنچ گئے ہیں اور بدر بن سلام کے ساتھیوں میں ہیں۔ یہ لوگ موجودہ سلطان (برقوق) کو معزول کر کے خلیفہ کو سلطنت سپرد کرنا چاہتے تھے۔ اس سازش میں بعض ایسے بے وقوف ترک امراء بھی شریک ہو

گئے تھے جن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

قرط کا قتل: لہذا سلطان (برقوق) نے دوسرے دن صبح کے وقت ان تمام افراد (سازشیوں) کو بلوایا اور انہیں (پوشیدہ سازش کے) تمام واقعات سے آگاہ کیا تو وہ سناٹے میں رہ گئے اور انکار کرنے لگے۔ بعض نے اقرار بھی کیا۔ لہذا خلیفہ کو قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا مگر قرط کو فوراً نکال کر اونٹ پر تشہیر اور سزا کے لئے شہر میں گشت کرایا گیا۔ پھر شہر سے باہر اسے مقتل کی طرف لے جایا گیا اور تلوار کے وار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے۔ باقی افراد کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔

نئے خلیفہ کا تقرر: اس کے بعد سلطان نے (معزول خلیفہ کے) ایک رشتہ دار عمر بن ابراہیم الواثق کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ وہ تھا جس کے والد ابراہیم کو سلطان ناصر نے خلیفہ ابو الریح کے بعد اس کے فرزند احمد کو معزول کر کے خلیفہ مقرر کیا تھا یہ واقعہ ۸۵ھ کے موسم بہار میں ہوا۔ اس کے بعد اس کے بجائے اس کے بھائی زکریا کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کا لقب مقتضم تھا۔

ناصری کا زوال اور نظر بندی

پہلے کے غلاموں میں سے ناصر بنی بھی تھا اور اس کے زمانے میں وہ اعلیٰ عہدے دار تھا اس کے سلطان ظاہر کے ساتھ غلامی کے زمانے میں سے جب کہ وہ اپنے آبا کے پاس تھے نہایت گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک کے بعد ابراہیم مصر خود مختار ہو گئے تھے اور انہوں نے ناصر کو اتنا تک مقرر کیا تھا، مگر وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے سکا تھا۔ اس کے بعد طشتمر آیا اور وہ دور زوال اور قید خانے میں بھی اس کے ہمراہ رہا۔ پھر وہ شام روانہ ہوا اور طرابلس کا حاکم مقرر ہوا۔

امیر سلاح: اس کے بعد انیال کی بغاوت اور اس کا زوال ۸۱ھ میں ۱۰ جمادی الاولیٰ ہوا تو اسے طرابلس سے بلوا کر انیال کے بجائے امیر سلاح مقرر کیا گیا امیر برکتہ نے اسے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا اور اپنے ساتھ اسے شامل کر لیا تھا لہذا جب امیر برکتہ کے اقتدار کو زوال آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ مقید ہوا۔ پھر اسے شام روانہ کر دیا گیا۔

حاکم حلب: اس اثناء میں انیال اپنی نظر بندی سے رہا ہو گیا تھا اور منکلی بقری احمدی کے بجائے ۸۲ھ میں حلب کا حاکم مقرر ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں تقریباً ایک سال حکومت کی۔ پھر اس کی بغاوت کی اطلاع آئی تو اسے گرفتار کر کے قلعہ کرک میں مقید کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے ماہ شوال ۸۳ھ میں پہلے ناصر بنی حلب کا حاکم مقرر ہوا۔

اس کے ایک سال کے بعد سلطان برقوق الظاہر مصر کے تخت شاہی پر بیٹھا اور مصر کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ چونکہ ناصر بنی ہوشیار سیاست دان تھا اس لئے (اکثر) وہ مصالح عام کا دعویٰ کر کے سلطان کے احکام کی تعمیل میں توقف کرتا تھا۔ سلطان کو اس کی یہ بات ناپسند تھی اور وہ (اس کے اس رویہ) سے ناراض ہوتا تھا۔ تاہم وہ ارکان سلطنت کے ایک رکن طلبقا جو بانی امیر مجلس کا حلیف بنا ہوا تھا۔

ناصر بنی کا آغاز: جب موسیٰ بن بلقادر ناصر کے پاس حلب پہنچا تو سلطان مصر نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے گرفتار کر لے

مگر اس نے قبیل حکم نہیں کی۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ وفادار تھا۔ لہذا اس نے مسولی کو پوشیدہ طور پر یہ اطلاع دے دی اور وہ مفروضہ ہو کر (سلطان کی سزا سے) بچ نکلا۔

ناصری ۸۵ھ میں سلطان کے پاس آیا تھا۔ اس موقع پر اس نے جو بانی اور اشس اتا بک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی تجدید کی اور پھر وہ حلب لوٹ گیا۔ وہاں سے ۸۵ھ کے آخر میں اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر لشکر کشی کی۔ اس (مہم میں) اسے شکست ہوئی اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ خود زخمی ہو کر تیسرے دن بچ نکلا۔

گرفتاری اور قید۔ ان تمام واقعات سے سلطان بہت ناراض ہوا لہذا اس نے ۸۷ھ میں اسے بلوایا۔ جب وہ سریاقوس کے مقام پر پہنچا تو (مصر کے) استاذ دار نے اس سے ملاقات کر کے اسے گرفتار کر لیا اور وہ اسے اسکندریہ لے گیا جہاں اسے دو سال تک قید رکھا گیا۔

سو دون کا تقریر۔ ناصر صری کے بجائے حلب کا حاکم حاجب سو دون المظفر کو مقرر کیا گیا وہ سلطان کا وفادار تھا اور ناصر صری کی تمام حرکات و سکنات کی بخبری کرتا تھا کیونکہ ترکوں کی حکومت میں سلطان کے حاجب کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ قدیم سلطنتوں کے محکمہ برید (ڈاک اور خبر نانی) کا انتظام بھی اپنے ماتحت رکھے لہذا وہ سلطان کا راز دان ہوتا تھا اور اس کی عملداری میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے باخبر رہتا تھا اور حکام میں سے جو کوئی بغاوت کا قصد کرے وہ اس سے بہت خائف رہتا تھا۔

یہ حاجب سو دون ہی تھا جو ناصر صری کی تمام خبریں سلطان کو بتاتا تھا اور اس کی سازشوں سے اسے باخبر رکھتا تھا۔ لہذا جب ناصر صری کو اسکندریہ میں مقید کیا گیا تو سلطان نے اسے حلب کا حاکم مقرر کیا۔

جو بانی کو جب ناصر صری کے زوال کا علم ہوا تو وہ بھی خوف زدہ ہوا کیونکہ ان دونوں کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ اس خبر سے بہت پریشان ہوا۔ سلطان کو بھی اس کی وفاداری پر شک و شبہ ہوا۔ لہذا اس نے اس کا اقتدار بھی ختم کر دیا جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

امیر جو بانی کا عروج و زوال۔ امیر جو بانی کا تعلق ترکی قبائل سے تھا۔ اس کا نام طفیق ہے اور وہ بیقنا خاں کے موالی (آزاد کردہ غلاموں) میں سے تھا جو سلطان اشرف پر حاوی تھا۔ اس نے اس کے حملات میں پرورش پائی اور اس کے زیر سایہ تمام اخلاق و آداب کی تربیت حاصل کی اس کے (شروع ہی سے) سلطان (برقوق) کے ساتھ مخلصانہ تعلقات تھے۔ کیونکہ دونوں نے ایک ہی جگہ پرورش پائی تھی اور اپنے وطن میں بھی دونوں ایک ساتھ پرورش پاتے رہے تھے۔ یوں دونوں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں باہمی محبت مستحکم ہوتی گئی یہاں تک کہ مصیبت اور جلا وطنی میں بھی دونوں ایک ساتھ رہے۔ کیونکہ جو بانی بھی (سلطان برقوق کے ساتھ) پانچ سال تک مقید رہا تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس سلطان کے رنج و غم کو مسرت میں اور نحوست کو سعادت مندی میں تبدیل کیا اور قید خانے کے بجائے سلطنت عطا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شائبہ اور اسی کا فضل و کرم جو بانی کو بھی حاصل ہوا اور اس کے بھی دن پھر گئے۔

برقوق کا رقیق خاص: (قید خانے سے رہا ہونے کے بعد) دونوں شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں دونوں اکٹھے رہے۔ پھر دونوں کو دارالسلطنت مصر بلایا گیا اور دونوں نے اکٹھے ترقی حاصل کی۔ سلطان (برقوق) عزوجاہ کے ہر مقام پر آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سلطنت میں اقتدار حاصل کر لیا۔ وہ امراء مصر کی تمام مشکلات رفع کرتا رہا اور ان کی ہر مشکل کو آسان کرتا رہا تا آنکہ وہ بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا۔

امیر مجلس: اب سلطان (برقوق) نے سلطنت کے اعلیٰ عہدے اور اختیارات انہی دوستوں میں تقسیم کئے۔ بالخصوص جو بانی کو بہت بڑا حصہ ملا۔ اسے سلطان نے امیر مجلس کا عہدہ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کا مشیر اعلیٰ ہے۔ یہ عہدہ اتا بک کے عہدہ کے بعد دوسرا بڑا عہدہ ہے۔ لہذا امراء مصر میں اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا اور وہ سلطنت کا اونچا ستون بن گیا جس پر حکومت کا قلم و نسق قائم تھا۔

جلا وطنی: یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہتا آئے کہ حسد و رقابت نے اس کے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا۔ سلطان اس سے بدگمان ہو گیا لہذا دانش مندی کے تقاضا کے مطابق اس نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی اور ۸۷۷ھ کے اچھی سات دن باقی تھے کہ سلطان نے اسے گرفتار کر کے اسے اپنے محل کے اندر سارا دن نظر بند رکھا۔ پھر اسے قلعہ کرک کی طرف جلا وطن کر دیا۔

نائب حاکم: اس عرصہ میں سلطان کے دل و دماغ میں رحم و شفقت، شرافت اور وفاداری کے جذبات میں کش مکش برپا رہی۔ آخر کار اپنی فطری شرافت اور فیاضی سے مجبور ہو کر سلطان نے دوسرے دن یہ شاہی فرمان بھجوایا کہ اسے ان تمام علاقوں کا نائب حاکم مقرر کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تبارق خدا کی زبانیں اس کے لئے دعائے خیر کرنے لگیں اور عوام میں اس کے عدل و انصاف اور علم و رواداری کے چرچے ہونے لگے۔

ترقی کے مواقع کی تلاش: سلطان سال بھر تک جو بانی کے حالات معلوم کرتا رہا اور اسے ہر طرح سے آزما تا رہا۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نہایت مخلص اور وفادار ہے۔ یوں حاسدوں اور خواہوں کی کوششیں ناکام ہوئیں لہذا سلطان موقع کی تلاش میں رہا کہ وہ کسی اعلیٰ عہدہ پر اس کا تقرر کر کے اس کی اشک شویٰ کرے۔ آخر کار شام میں بندمر کی بغاوت کا واقعہ رونما ہوا جو جو بانی کی ترقی و شادمانی اور سعادت مندی کا بدر کامل بن کر نمودار ہوا اور وہ اعلیٰ عہدہ پر مقرر ہو گیا۔

بندمر کے واقعات: یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ بندمر خوارزمی شام میں دمشق کا نائب حاکم تھا۔ اس کا تعلق اس خوارزمی فوج سے تھا جو خوارزم شاہ کے ماتحت تھی۔ وہ تاتاریوں کے دور میں عراق کا حاکم تھا۔ جب چنگیز خان کے ہاتھوں وہ ہلاک ہو گیا تو یہ فوج شام کے علاقوں میں منتشر ہو گئی اور ایوبی سلاطین کی ملازمت کرنے لگی۔ اس کے بعد خوارزمی فوج مصر کے ترک سلاطین کے ماتحت ہو گئی۔

دمشق کی حکومت: بندمر انہی کی نسل سے تھا۔ اس کی خاندانی نجات و شرافت امراء مصر کو پسند آ گئی اور وہ ان کا ملازم ہو گیا۔ آخر کار وہ حکومت کے عہدہ دل کا امیدوار بن گیا اور منجک یوسفی اور عشقتمر ناصر کی حکومت میں حکومت کرتا رہا۔ جب خاصگی نے اقتدار حاصل کیا تو اس نے دمشق میں بغاوت کر دی۔ لہذا اس نے محاصرہ کر کے اسے ہاتھ ڈالنے پر مجبور کیا۔

آخر کار اسے اس کے عہدہ پر بحال کر دیا گیا۔

گرفتاری اور قید: جب گزشتہ حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور موجودہ امیر (برقوق) برسرِ اقتدار آیا تو امرائے مصر نے اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ وہ برکتہ کا حامی تھا۔ لہذا جب برکتہ نے بغاوت اختیار کی تو اس نے دمشق میں اپنے دوستوں کو جن میں بندمر اور بقری شامل تھے یہ خطوط لکھے کہ وہ قلعہ دمشق پر قبضہ کر لیں۔ ادھر برقوق نے قلعہ کے نائب حاکم کو خط لکھ کر ان خطروں سے آگاہ کیا۔ لہذا جنترانخ طاز دابن جرجی اور محمد بیگ اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور تین دن تک اس سے جنگ کرتے رہے پھر اسے گرفتار کر کے مقید کر لیا۔ اس کے ساتھ بقری بن برکش اور جبریل بھی تھے ان سب کو اسکندریہ لاکر مقید کر دیا گیا۔

شام کی حکومت پر بحالی: جب برکتہ مارا گیا تو بندمر اور برکتہ کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا جن میں بیقانا صری اور دمرداش احمدی بھی شامل تھے۔ جب سلطان تخت نشین ہوا تو اس نے بندمر کو شام کی حکومت پر بحال کر دیا۔ مگر وہ مال و دولت کا بہت حریص تھا اور ظلم و تشدد کے ذریعے مال و دولت وصول کرتا تھا اور مختلف قسم کی سزائیں دے کر مال جمع کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام اس کے دور حکومت سے تنگ آ گئے اور ان کی حالت قابلِ رحم ہو گئی۔

نظام حکومت کا مخالف گروہ: اس زمانے میں مشکوک افراد کی ایک جماعت تھی جو تحصیل علم کا دعویٰ کرتی تھی مگر ان کے عقائد صحیح نہیں تھے کچھ افراد خدا کو جسم مانتے تھے کچھ رافضی تھے اور کچھ خدا کے اجسام میں حلول ہونے کے قائل تھے۔ ان میں ضلالت و گمراہی اور محرومی کا رشتہ مشترک تھا۔ وہ اپنے ان عقائد باطلہ کی وجہ سے اعلیٰ مراتب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا وہ زاہد بن کر مخلوق خدا اور حکومت کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ شرعی احکام کو چھوڑ کر اس سیاست کو اختیار کر رہے ہیں جو سابق خلفاء اختیار کر چکے تھے اور جسے علمائے کرام اور مفتیان شرع جان بوجہ قرار دے چکے تھے کیونکہ ملکی دفاع اور نظم و نسق چلانے کے لئے سلطان کی ضرورت ہوتی ہے اور قدیم زمانے میں شرطہ صفری و کبریٰ اور مظالم کا عہدہ بغداد میں بھی قائم تھا جو دارالسلام کہلاتا تھا اور خلافت اور دین و علم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس بارے میں پہلے بہت کچھ بحث ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ اُموی خلافت کے عہد خلافت میں ضرورت پیش آنے پر فوجوں کی تنخواہیں مقرر تھیں اور یہ (اصلاحات) ایسی بڑی نہ تھیں جنہیں تبدیل کیا جائے۔

مخالفوں کی سازش: بہر حال یہ بے وقوف ان چیزوں کی مخالفت کر کے لوگوں میں انتشار پھیلاتے رہے تھے آخر کار انہوں نے ارباب اختیار کے خلاف ایک جماعت تیار کر لی۔ انہوں نے قلعہ دمشق کے محافظ اور اس کی فوجوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی مگر اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے حاکم دمشق بندمر کو بھی اس سازش میں شریک کیا تھا کیونکہ اس کا فرزند محمد شاہ اس جماعت میں شریک تھا۔

بندمر کی گرفتاری: جب سلطان (برقوق) کو یہ اطلاع ملی تو وہ بندمر سے بدگمان ہو گیا۔ لہذا بہت جلد اس نے بندمر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اس کے بعد اس نے اپنے محاسب اعلیٰ کو اس کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس سے رعایا کے اس مال و دولت کا حساب لے جو اس نے حکومت سے چھپا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان بے وقوفوں کی جماعت اور ان کے پیروؤں کو بلوا کر انہیں قید خانوں میں ٹھونس دیا وگرنہ وہ گونا گوں سخت سزاؤں کے مستحق تھے۔

عشقتمر کا عارضی تقرر: اس زمانے میں عشقتمر ناصر بیت المقدس میں مقیم تھا سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ دمشق کا نائب حاکم بن جائے چنانچہ وہ دمشق کا حاکم مقرر ہو کر پہنچا اور چند دنوں تک حکومت کا کام سنبھالا مگر یہ کام نہ کر سکا اس لئے اس نے اس کام سے سبک دوش ہونے کی درخواست کی۔ کیونکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا اور اس قدر اپاہج بھی ہو گیا تھا کہ اسے گھر سے پلنگ پر لیٹے ہوئے اٹھا کر اس کے دفتر پہنچایا جاتا تھا۔

جوبانی کا تقرر: لہذا سلطان نے امیر جوبانی کو اس عہدہ پر مقرر کیا۔ اس وقت سلطان اس کی حالت سے بالکل مطمئن تھا اور اس سے بہت خوش تھا۔ لہذا امیر جوبانی قلعہ کرک سے بہت جلد مصر پہنچا اس وقت اس کے استقبال کے لئے شاندار انتظام کیا گیا اور اسے ہر قسم کی سواریاں خلعت فاخرہ گھر اور اس کا ساز و سامان مہیا کیا گیا سلطان نے اس کا ایسا شاہانہ استقبال کیا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ چنانچہ عوام سلطان کی دوست نوازی اور وفاداری کے جذبے کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور دور دراز کے علاقوں میں بھی اس کا چرچا ہوتا رہا۔

شام کا حاکم مطلق: اس کے بعد سلطان نے اسے شام کے صدر مقام کی طرف خود مختار حاکم بنا کر بھیجا۔ اسے اختیار تھا کہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ امیر جوبانی نے تاریخ ۳ ربیع الاول ۷۷۷ھ کو زیدانیہ کے مقام پر قاہرہ سے باہر اپنی فوجوں کی صف بندی کی اور دوسرے دن وہاں سے کوچ کیا۔ اس وقت سلطان کی سعادت و خوشنودی اس کے شامل حال تھی۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچا تو اہل شہر اس کے خیر مقدم کے لئے آئے۔ آخر کار وہ کیم ربیع الثانی کو دمشق میں داخل ہوا۔ اس وقت اہل شہر نے اس کی آمد پر بھاری جشن منایا۔ شہر کے گلی کو بچے تماشائیوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایسے دلکش مناظر دیکھنے میں آئے جو ناقابل بیان تھے۔

جب امیر جوبانی نے دمشق کا انتظام سنبھالا تو لوگ سلطان کے حسن انتخاب کی تعریف کرنے لگے۔ سلطان نے اس کے سابق عہدہ پر احمد بن امیر بیٹکا کو (امیر مجلس) مقرر کیا۔

افریقی ممالک سے دوستانہ تعلقات: اس زمانہ میں افریقیہ کا سلطان خاندان موحدین سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ امیر زکریا یحییٰ بن عبدالواحد بن ابو حفص الہناتی کی نسل سے تھا جو مراکش کے سلاطین بنو عبدالمومن پر ۶۲۵ھ میں غالب آ گیا تھا۔ اس سلطان کا نام احمد بن محمد بن ابو بکر بن یحییٰ بن ابراہیم ابو زکریا تھا۔ اس سلسلہ نسب میں تمام افراد سلاطین رہے ہیں۔

قدیم زمانے سے مغرب اقصیٰ (مراکش) کے سلاطین مصر کے ترک سلاطین کے حق شناس تھے اور ان کی فضیلت اور خوبیوں کے قائل تھے۔ کیونکہ ان کی سلطنت بہت وسیع تھی اور ان کی عملداری میں بہت شاندار مساجد بھی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ (مصری سلاطین) حرمین (مکہ و مدینہ) کی خدمت بھی کرتے تھے۔

ان دونوں سلطنتوں کے درمیان کبھی کبھی تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا تھا اور پھر دونوں سلطنتوں کے اندرونی حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا تھا۔

سلطان سے ابن خلدون کی ملاقات: مجھے (ابن خلدون) یہ شرف حاصل تھا کہ میں (افریقیہ کے) اس سلطان سے خصوصی تعلقات رکھتا تھا۔ چنانچہ جب میں ۷۸۴ھ میں مصر پہنچا اور میں نے سلطان الظاہر (برقوق) سے ملاقات کی تو

سلطان مصر نے پہلی ملاقات میں (افریقہ کے) سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اس کے اوصاف حمیدہ بیان کئے اور یہ بھی بتایا کہ وہ سلطان مسلمانوں سے بے حد محبت کرتا ہے لہذا مسلمانوں کو (بالعموم) اور سلاطین کو بالخصوص اس کی قدر دانی کرنی چاہئے کیونکہ اس کے زائرین حرم اور حاجیوں کے لئے راستوں میں سفر کرنے کے لئے سہولتیں فراہم کی ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔

اس کے بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ افریقہ کے سلطان نے میرے اہل و عیال کو میرے پاس (مصر) آنے سے روک لیا ہے تاکہ میں ۱۰ ایس آؤں (اور وہاں سے نہ جا سکوں) لہذا میں نے سلطان مصر سے درخواست کی کہ وہ سلطان مذکور سے میری سفارش کر کے میرے لئے سہولت بہم پہنچائیں چنانچہ اس نے میری مدد کی۔

تحائف کا تبادلہ ۱۰ ای طرح میں نے افریقہ کے سلطان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ سلطان مصر سے محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرے اور تحائف کا تبادلہ کرے۔ جیسا کہ دونوں میں گزشتہ زمانے میں ہوا تھا۔ لہذا اس نے میری یہ درخواست قبول کر لی اور جلدی سے تحائف جمع کرنے شروع کئے۔ مگر ہمارے ہاں مغرب (مراکش) میں ایسا کوئی شان دار تحفہ جو مشرق کے سلاطین کو پیش یا جاسکے عمدہ عرب گھوڑوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ جو عمدہ اور نادر سوغاتیں ہوتی ہیں وہ وہاں بھی ہوتی ہیں لہذا اہل القدر سلاطین کو متبادل اور پامال قسم کا تحفہ پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔

تحائف کا جہاز غرق بہر حال تحائف اور سوغاتوں کے تبادلہ کے لئے ایک خاص جہاز تیار کیا گیا اور میرے (ابن خلدون) کے اہل و عیال کو بھی اس سلطان کے ذریعے اہل میں سوار کیا گیا۔ کیونکہ بحری راستے میں سہولت تھی اور اس کی مسافت بھی کم تھی۔ مگر جب اسکندریہ کی بندرگاہ قریب آئی تو اس سخت آندھی اور تیز ہوائیں چلیں کہ جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکا اور اس میں جو حیوانات اور سامان تحائف اور سوغات تھے وہ سب غرق ہو گئے اور میرے اہل و عیال بھی ڈوب گئے اور اس کے اندر جو نہایت عمدہ قسم اور نسل کے گھوڑے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اس تباہی سے صرف ایک شاہی قاصد زندہ بچا جو دونوں سلاطین کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کے تعلقات قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔

قاصد کا استقبال: اس قاصد کا نہایت عزت و احترام کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا اور اس کی خوب مہمان داری کی گئی اور جب اس نے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جانے کا ارادہ کیا تو سلطان مصر نے اس کے ہاتھ عراق اور اسکندریہ کے تیار کردہ منقش ریشم کے نہایت ہی بیش قیمت کپڑے اس کثیر مقدار میں افریقہ کے بادشاہ کے لئے سوغات اور تحائف کے طور پر روانہ کئے جو شہنشاہوں کے شایان شان تھے۔

میں نے اس سلطان کو ایک خط تحریر کیا جس میں اس کی بہت تعریف کی گئی تھی اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ اس کے تحائف ارسال کرنے سے سلطان بہت متاثر ہوا اور اس سے دوستی اور محبت کے تعلقات مستحکم ہو گئے ہیں۔ (اس خط کے جواب میں) سلطان نے اس حادثہ (جہاز کے ڈوبنے) پر اظہارِ افسوس کیا اور یہ تحریر کیا کہ وہ سلطان مصر کو دوبارہ تحائف اور سوغاتیں بھیج رہا ہے تاکہ یہ دوستانہ تعلقات مستحکم ہو جائیں۔

دوبارہ مغربی تحائف: چنانچہ جب ۸۸ھ میں مغرب سے حاجیوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو مغرب (مراکش) کے اکابر

اور شہزادے نہایت پیش قیمت اور ناقابل بیان ایسے تحائف اور سوغاتیں لے کر آئے جو عجیب و غریب اقسام کے تھے۔ ان کے رنگ اور شکلیں دلکش اور دلآویز تھیں۔

سلطان مصر نے ان تحائف کو بے حد پسند کیا۔ اس موقع پر شاہی قاصد نے سلطان مغرب کا خطبہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ حاجیوں کے سفر حج کے لئے عمدہ زوراء مہیا کیا گیا اور محمل کے امراء کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ چنانچہ شاہی قاصد اور (دوسرے حاجیوں) نے فریضہ حج بخیر و خوبی ادا کیا۔

مصری تحائف کا تبادلہ: سلطان نے ان سفیروں کے ہاتھ پہلے کی طرح نہایت کثیر مقدار میں عمدہ پوشاکوں کے تحائف (سلطان مغرب) کو بھجوائے۔ یوں دونوں سلاطین کے درمیان محبت اور دوستی کے تعلقات قائم ہو گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری ناچیز کوششیں بار آور ہوئیں۔

مغربی حاجیوں کا قافلہ: حاجیوں کے اس قافلہ میں مغرب میں قبیلہ ہلال کے عرب سردار یعقوب بن علی بن احمد بھی شامل تھے جو اس قبیلہ ریاح کے سردار تھے جو قسطنطنیہ، بجایہ اور زاب میں آباد ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے فرزند اور دیگر رشتہ دار بھی تھے۔

ان کے علاوہ عون بن یحییٰ بن طالب، ابن مہنبل بھی حج کرنے گئے تھے۔ ان کا تعلق قبائل سلیم کی ایک شاخ کعب سے ہے جو تونس، قیروان اور جریر کے مقامات میں آباد ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بھی فریضہ حج ادا کیا اور یہ سب حضرات ۸۹ھ کے ماہ ربیع الآخر کے وسط میں اپنے وطن واپس آ گئے۔

امراء مکہ معظمہ کے حالات

یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مکہ معظمہ کی حکومت اس زمانے میں خاندان بنو تادہ کے پاس تھی جو قبیلہ بنو مطاعن الہواشم اور بنو حسن سے منسوب تھے۔ یہ لوگ مصر میں ترکوں کی حکومت کے زمانے سے حکومت کرتے تھے ان کا بادشاہ بدوی تھا۔ بہر حال یہ لوگ سلطان مصر کے مطیع و فرمانبردار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان عباسی خلفاء کو بھی تسلیم کرتے تھے جنہیں مصر کے ترک سلاطین مقرر کرتے تھے۔

احمد بن عجلان کی حکومت: آخری زمانے میں ۱۰۷۰ھ میں عجلان کے بعد اس کا فرزند احمد بن عجلان حاکم ہوا۔ وہ نہایت عادل اور انصاف پسند تھا۔ وہ ظالموں اور مقصدوں سے رعایا کے مال و دولت کی حفاظت کرتا تھا بالخصوص وہ ان لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا جو (اپنے وطن کو چھوڑ کر زہد و عبادت کے لئے) مکہ معظمہ میں مقیم ہوتے تھے۔ اس کے انھیال کے ذریعے جو بنو عمر کے نام سے مشہور تھے۔ اس کا رعب و بدبہ بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ اس کی حکومت کے مددگار تھے۔ اس لئے اسے عدل و انصاف کے کاموں میں بہت تقویت حاصل ہوئی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ معظمہ میں بیرونی بزرگ اور تاجر حضرات بکثرت آباد ہو گئے اور مکہ معظمہ کے تمام گھر ان سے معمور ہو گئے کیونکہ اس کے عدل و انصاف اور نیکی کا چرچا دور دور تک پہنچ گیا تھا۔

مگر اس کے چچا زاد بھائی عنان بن تھامس بن رمیثہ اور محمد ابن رمیثہ اس سے حسد کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نعمتیں عطا کی تھیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق وہاں کا محصول نہیں خرچ کرتا تھا۔ اس لئے وہ اس کے مخالف ہو گئے تھے اور بغاوت کا ارادہ کر رہے تھے کہ احمد بن عجلان (حاکم مکہ) نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مگر چونکہ وہ اس کے بھائی محمد بن عجلان کے حلیف تھے اس لئے اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ یا تو انہیں چھوڑ دے یا انہیں قید کر دے۔ لہذا وہ ایک سال یا اس سے زیادہ مدت تک قید خانے میں رہے۔ اس کے بعد وہ قید خانے سے نکل کر بھاگ نکلے۔ مگر اسی رات وہ پکڑے گئے اور دوبارہ قید خانے میں پہنچا دیئے گئے۔ مگر عثمان بن مقاس وہاں سے بچ نکلا۔ وہ ۷۸ھ میں فریاد لے کر سلطان مصر کے پاس پہنچا۔

کپیش کی بری حرکات: تھوڑے عرصے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ احمد بن عجلان طبعی موت کے ساتھ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بھائی کپیش بن عجلان نے اس کے فرزند محمد کو (جو بہت نو عمر تھا) اس کے بجائے حاکم مقرر کیا اور خود اس نے انتظام حکومت سنبال لیا ہے (جورشتہ دار) نظر بند تھے انہیں اس نے زہر دلوایا تاکہ (حکومت کا) میدان خالی ہو جائے۔ کیونکہ وہ بھی اس کے امیدوار تھے۔

سلطان مصر کو اس کی یہ حرکتیں ناپسند آئیں اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ کپیش ان رشتہ داروں میں فساد ڈلوا کر مکہ معظمہ میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے لہذا جب ۷۸ھ میں حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو سلطان نے حاجیوں کے قافلہ کے امیر کو ہدایت کی کہ وہ اس بچے کو معزول کر دے جو حاکم مقرر کیا گیا ہے اور اس کے بجائے عنان بن مقاس کے فرزند کو حاکم مقرر کیا جائے اور کپیش کو گرفتار کر لیا جائے۔

نو عمر امیر کا قتل: چنانچہ جب مصری حاجیوں کا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا اور وہ نو عمر (حاکم) خلیفہ کے محل کا استقبال کرنے کے لئے نکلا تو کپیش وہاں نہیں پہنچا کیونکہ اسے گرفتار کرنے کے لئے آدمی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ تاہم نو عمر بچہ (حاکم) خلیفہ کے محل کے استقبال کے لئے پہنچا اور حسب معمول محل کو چومنے کے لئے گھوڑے سے اترتا وہ لوگ جو گھات میں تھے خنجر لے کر اس پر بچھڑے کیونکہ وہ اسے کپیش سمجھے ہوئے تھے (حملہ کرنے کے بعد) وہ غائب ہو گئے اور ان کا سراغ نہیں مل سکا وہ اسے زمین پر زخمی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔

عنان کی حکومت: بعد ازاں امیر (قافلہ حج) حرم شریف میں داخل ہوا اور طواف کعبہ اور (صفا و مروہ کے درمیان) سعی کرنے کے بعد اس نے عنان بن مقاس کو اس کے بزرگوں کے طریقے کے مطابق حکومت کا خلعت پیش کیا۔ اس وقت کپیش بھاگ کر مکہ معظمہ کے ساحلی علاقہ جدہ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ حجاز کے متفرق اور خانہ بدوش عرب قبائل کے پاس پہنچا اور فریادی بن کر مدد کا طالب ہوا۔ مگر چونکہ وہ سلطان کے مطیع و فرمانبردار تھے اس لئے انہوں نے اس کی امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور اس کے خاندان نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔

جب امیر قافلہ حج مصر پہنچے تو سلطان نے اسے بچہ کے قتل پر ملامت کی۔ مگر اس نے یہ معذرت پیش کی کہ اس کے آدمیوں کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ لہذا سلطان نے اس کی معذرت قبول کر لی۔

امرائے مکہ کی خانہ جنگی: جب (مصری) حاجیوں کا قافلہ چلا گیا تو کپیش وہاں لوٹ آیا اس کے ساتھ چند اوباش قسم کے افراد مل گئے تھے۔ لہذا وہ (ان کی مدد سے راستے میں چھپ کر) گھات لگا کر بیٹھتا تھا اور راگبیروں، سواروں اور مسافروں کے لئے خطرہ کا باعث بنتا تھا۔ پھر ۷۹۹ھ کے شروع میں اس نے مکہ معظمہ پر لشکر کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مگر ایک دن عنان بن مقاص نے مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ کے نظم و نسق میں خلل آ گیا۔ کیونکہ عنان شہر پر افراد کی مدد سے مکہ معظمہ کے بیرونی مسافروں (مجاوروں) کا مال لوٹنے لگا تھا۔ انہوں نے وہاں کے امراء اور خود سلطان کے کھیتوں کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ یہ شاہی کھیت صدقہ و خیرات کے لئے تھے۔

اب سلطان نے علی بن عجلان کو مکہ معظمہ کا حاکم مقرر کیا اور فتنہ و فساد کے انسداد کے لئے اسے نظر بند کر دیا۔ یوں مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ کے لئے امن و امان قائم ہو گیا۔

منطاش کی بغاوت

منطاش اور ترمذائی دردمندی جن کا گزشتہ واقعات میں تذکرہ ہوا ہے تراز ناصری کے دو بھائی تھے۔ یہ سلطان ناصر محمد بن قلاؤن کے آزاد کردہ غلام (موازی) تھے ان دونوں نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ ترمذائی کا اصلی نام محمد تھا اور یہ سب سے بڑا بھائی تھا۔ منطاش کا حقیقی نام احمد تھا اور وہ سب سے چھوٹا تھا۔

ترمذائی کا سلطان اشرف سے تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ مختلف عہدوں پر فائز ہو کر ترقی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ ۸۰۰ھ میں حلب کا گورنر مقرر ہوا۔ اس کی ترکمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔

اس جنگ کا سبب یہ ہے کہ ترکمانوں کے چند امراء اس کے پاس آئے تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا کیونکہ وہ اس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے تھے۔ اس واقعہ پر ترکمان جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ لہذا وہ (مقابلہ کے لئے) وہاں پہنچا۔ سلطان نے اسے شام اور حماة کا لشکر مدد کے لئے بھیجا تو وہ (ترکمان) بھاگ کر اور شکست کھا کر در بند پہنچ گئے۔ پھر پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا تو (شاہی) لشکر کو شکست دی۔ اور جب یہ لشکر تنگ دروں پر پہنچا تو اسے لوٹ لیا۔

اس کے بعد ترمذائی ۸۲ھ میں فوت ہو گیا۔ چونکہ سلطان برقوق ان دونوں بھائیوں کے ساتھ پرانے تعلقات کا خیال رکھتا تھا اس لئے اس نے منطاش کو ملطیہ کا حاکم مقرر کر دیا۔

نافرمانی کے آثار: جب سلطان (برقوق) تخت نشین ہوا اور خود مختار بن گیا تو منطاش کی طرف سے نافرمانی کے آثار ظاہر ہوئے تو سلطان نے (اس کی سرکوبی کا) ارادہ کیا، مگر سو دون باق کی سفارش سے یہ ارادہ تبدیل کر دیا۔ سو دون باق ہزاری کے منصب کا حاکم تھا۔ وہ سلطان کا نہایت مخلص اور وفادار تھا۔ اس سے پہلے وہ امیر ترمذائی کا ملازم تھا۔ اس لئے وہ اس کے بھائی منطاش کے لئے نمک حلائی کے طور پر سفارش لے کر گیا اور سلطان کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین دلایا اور یہ بھی کہا کہ وہ باغی ترکمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کے فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دے گا۔

قاضی سے ساز باز: (اس یقین دہانی کے بعد) منطاش اپنی عملداری کے مرکز ملطیہ پہنچ گیا مگر اس کی بغاوت اور

نافرمانی کے آثار باقی رہے چنانچہ وہ ترکمانی امراء کے ساتھ بھی اس مقصد کے لئے سازش کرنے لگا۔ یہ خبر سلطان تک بھی پہنچ گئی مگر اس نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تاہم منطاش نے اسے بھانپ لیا۔ اس لئے اس نے بلا وروم کے مرکزی مقام سیواس کے حاکم سے خط و کتابت کی۔ وہاں ایک قاضی خود مختار بنا ہوا تھا وہ بنو ارش کی نسل کے ایک بچہ کو بادشاہ بنا کر اس کا سرپرست بنا ہوا تھا۔ یہ خاندان سلطان ہلاکو کے زمانے سے اس علاقے پر حکومت کرتا تھا اور اس علاقہ کی حفاظت کے لئے تاتاری قبائل کی فوج متعین تھی۔

لہذا جب منطاش کے قاصد اور اس کے خطوط اس قاضی کے پاس پہنچے تو اس نے تعاون کا اظہار کرتے ہوئے بہت جلد اپنے ساتھیوں کو نمائندہ بنا کر مکمل سمجھوتہ کے لئے بھیجا۔ منطاش ان سے ملاقات اور گفت و شنید کرنے کے لئے شہر سے باہر نکلا اور اپنے دوادار (پیشکار) کو ملطیہ کا نائب مقرر کیا۔ وہ سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ اپنے حاکم کے باغیانہ مقاصد کے برے انجام سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس لئے اس نے سلطان کی اطاعت کا اعلان کیا اور منطاش سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں سلطان کی حکومت قائم کر دی۔

سیواس میں آمد: جب منطاش کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تاہم وہ اپنے ارادے پر قائم رہا اور قاضی کے وفد کے ساتھ سیواس پہنچ گیا۔ جب وہ قاضی کے پاس آیا تو اس وقت حکومت کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے تھے۔ اس لئے قاضی نے اس سے روگردانی کی اور سلطان کو یہ مغالطہ دیا کہ اس نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا ہے۔

شاہی فوجوں کی روانگی: سلطان (برقوق) نے ۸۹۰ھ میں یونس دوادار، قروم، راس نوبہ، طبغا، الرباح امیر سلاح اور ہزاری منصب دار سودون باق کو فوجیں دے کر (مقابلہ کے لئے) روانہ کیا۔ اس نے ناصری کو بھی بلوایا اور دمشق کے انیال یوسنی کو بھی جو ہزاری منصب دار تھا، بلوایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی اپنی فوجیں لے کر روانہ ہوں۔ چنانچہ وہ سب فوجیں روانہ ہوئیں۔

امیر تیمور کا ظہور: اس زمانے میں ماوراء النہر اور خراسان کا تاتاری بادشاہ تيمور (تیمور) تھا جو چغتائی کے خاندان سے تھا۔ اس نے عراق، عرب و عجم) اور آذربائیجان کی طرف لشکر کشی کی اور تورین پر بزرگ شمشیر قبضہ کر کے اس کو لوٹ لیا تھا۔ اب وہ بغداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لہذا برقوق کے شاہی لشکر نے بظاہر یہ شہرت دی کہ وہ اس (تاتاری بادشاہ) سے جنگ کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں مگر جب یہ لشکر حلب پہنچا تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ تيمور (تیمور) نے اپنی فوجی حملے کا رخ اس باغی کے خلاف موڑ دیا ہے جس نے ماوراء النہر کے دور دراز علاقے میں علم بغاوت بلند کیا ہے۔

شاہی فوج سیواس میں: لہذا سلطان کی فوجیں سیواس کی طرف لوٹ گئیں۔ وہاں کے باشندے ان (کے حملے) سے غافل تھے کہ اچانک یہ فوجیں ان کی سرحدوں میں گھس گئیں۔ قاضی (حاکم شہر) نے فوراً منطاش کو رہا کر دیا۔ اس سے پیشتر اسیری کی حالت میں قاضی اسے سلطان مصر کے خلاف بھڑکا رہا اور اس مقصد کے لئے لگاتار کوشش کرتا رہا تا آنکہ وہ اس کے بہکانے میں آ گیا۔

تاتاریوں کی امداد: اس وقت قاضی نے اسے بلا وروم کے ان تاتاری قبائل کی طرف بھیجا جو ابن ارتنا کی عملداری میں

آباد تھے۔ چنانچہ اس نے انہیں سلطان مصر کے برخلاف آمادہ جنگ کیا اور انہیں اس خطرہ سے آگاہ کیا کہ اگر بادشاہ ابن ارتقا اور اس کے شہر کا خاتمہ ہو گیا تو ان کے قبائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

شہابی فوجوں کی واپسی: اس عرصے میں سلطان کی فوجیں سیواس پہنچ گئیں اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر کے انہیں بہت نقصان پہنچا اور اہل شہر ہتھیار ڈالنے والے ہی تھے کہ اتنے میں مطاش تاتاری قبائل کو لے کر پہنچ گیا۔ سلطانی لشکر نے ان کا بھی مقابلہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ بالخصوص ناصری نے اس جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مگر جنگ طویل ہونے کی وجہ سے شاہی لشکر اکتا گیا اور فتح و ظفر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے فوجیں دل برداشتہ ہو گئیں۔ وہ اپنے مرکز سے اس قدر دور دراز آ گئیں تھیں کہ وہاں رسد اور سامان خوراک پہنچنا بھی منقطع ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے سپہ سالاروں سے واپس جانے کی استدعا کی۔ چنانچہ کچھ فوجیں صف بندی کو برقرار رکھتے ہوئے لوٹ گئیں۔ اس وقت کچھ تاتاری فوجوں نے ان کا تعاقب کیا تو شاہی فوجوں نے پلٹ کر ان کا صفایا کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارادہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گی تاکہ فتنہ و فساد کا انسداد ہو سکے۔

طویل محاصرہ سے پیزاری: وہ امراء جنہوں نے سیواس کا محاصرہ کیا تھا۔ وہ طویل محاصرہ سے اکتا گئے تھے۔ ان میں سے قروم اور طبقا معلم سپہ سالار ناصری کے پاس پہنچے تاکہ وہ سلطان کے پاس یہ شکایات پہنچا دے۔ وہ کچھ عرصے تک گفت و شنید کرتے رہے پھر انہوں نے شہر کا محاصرہ چھوڑ دیا۔ کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے شہر کے قاضی کو اس کی اطلاع دی اور اسے احسان قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ بلاش کو زندہ رکھے تاکہ وہ ان کے فتنہ و فساد کو دور کر سکے۔

بغاوت کے آثار: یونس دوادار کو جب یہ معلوم ہوا کہ سب امراء بارے میں متفق ہیں تو وہ ان کی مخالفت نہیں کر سکا اور (واپس جانے کے لئے) تیار ہو گیا جب وہ حلب پہنچا تو فوج کا ایک افسرہ مرداش اس کے پاس آیا اور اسے اطلاع دی کہ دمشق کا نائب حاکم جو بانی ناصری کو بغاوت پر اکسار رہا ہے اور ان دونوں نے امانت اور بغاوت کا پختہ ارادہ کر لیا ہے لہذا جب یونس مصر پہنچا تو اس نے سلطان کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ سلطان نے مرداش کو بلوایا تو اس نے بالمشافہ اس بات سے سلطان کو مطلع کیا اور اسے صحیح اطلاعات بہم پہنچائیں۔

جوبانی کے متعدد غلام بہت کمینے تھے۔ مال و دولت نے انہیں بہت بدست کر دیا تھا۔ اور جاہ پرستی کی طبع انہیں بغاوت کرنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ وہ انہیں روکتا دیا مگر پھر انہوں نے حاجب طرنگائی کو اس مقصد کے لئے آمادہ کیا۔ مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور شاہی دربار میں حاضر نہیں ہوا۔

جوبانی اور دیگر امراء کی گرفتاری: یہ خبریں مصر پہنچ گئی تھیں۔ جوبانی کو اس بارے میں شک و شبہ ہوا۔ لہذا اس نے سلطان کے سامنے پیش ہونے کی اجازت حاصل کی۔ چنانچہ جب اسے اجازت مل گئی تو وہ دمشق سے ماہ بیچ الاول ۷۰۹ھ میں ڈاک کی (تیر رفتار) سواری سے روانہ ہوا۔ جب وہ سریاقوس کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے استاد دار بہادر منجلی کو بھیجا۔ اس نے اسے گرفتار کر لیا اور بحری سفر سے اسے اسکندریہ بھیج دیا گیا۔

دوسرے دن سلطان نے قروم اور طبقا معلم کو بھی گرفتار کرا کے ان دونوں کو بھی اس (جوبانی) کے پاس

(اسکندریہ) بھیج دیا اور وہ سب وہاں مقید رہے۔ یوں ان کی بغاوت کا خطرہ دُور ہو گیا۔

سلطان نے جو بانی کے بجائے دمشق کا حاکم طرنطائی حاجب کو مقرر کیا اور قروم کے بجائے مصر میں اپنے چچا زاد بھائی جماس کو مقرر کیا اور طبقاً معلم کے بجائے دمر داش کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حالات دُست ہو گئے۔

ناصری کی کامیاب بغاوت

جب حلب میں ناصری کو ان حکام کی نظر بندی کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تاہم اس نے کامیاب بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے فتنہ پرداز اور شہر پسند امراء و حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سب سے پہلے اس نے اس مہم کا آغاز امیر سودون مظفری کی مخالفت سے کیا۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ سلطان کو اس کے خلاف بھڑکا کر اس کا عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نیز ترکوں کی سلطنت میں حاجب کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ قدیم سلطنتوں کی طرح خبر رسانی اور ڈاک کے انتظام کی نگرانی بھی کرے۔ حاجب ہی سلطان کو اس کی عملداری کے واقعات سے باخبر رکھتا تھا اور جو حکام بغاوت کا قصد رکھتے ہوں وہ ان کے حلقے کے لئے کاغذ بنا رہتا تھا۔

لہذا ان باغیوں کی جماعت اور مظفری کے درمیان فضا تاریک ہو گئی اور ان کے اختلافات کی خلیج وسیع ہو گئی۔ جب سلطان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے چھوٹے دوادار (پیش کار) تلکتر کو فوراً ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے بھیجا تاکہ مخالفت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب ان (باغیوں) نے اس کی آمد کی خبر سنی تو انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوا اور انہیں معاملہ مشتبہ نظر آیا۔

جب تلکتر وہاں پہنچا تو اس نے ناصری سے ملاقات کی اور اسے سلطان کا وہ خط دکھایا جس میں اسے حاجب (مظفری) سے صلح کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس سے چشم پوشی کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ ناصری کو جب تلکتر کے ذریعے یہ یقین ہو گیا کہ سلطان اس کے ساتھ اور دیگر امراء سے نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کئے ہوئے ہے تو وہ اس (مصالحت) کے لئے تیار ہو گیا۔ مگر اس کے دوستوں کی جماعت کا یہ اصرار تھا کہ وہ حاجب پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دے لہذا اس نے ان کی یہ تجویز بھی مان لی۔

حاجب کا قتل: ادھر تلکتر صبح سویرے ایوان حکومت پہنچا تاکہ فریقین میں صلح کرادے تاکہ باہمی خوف و نفرت کی فضا دور ہو جائے۔ ناصری نے اسے اپنے خلوت خانے میں طلب کیا چنانچہ جب وہ اس سے گفت و شنید کر رہا تھا کہ اچانک اس کی جماعت نے حاجب پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس مہم کا سرغنہ ابقا جو ہری تھا۔ اس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا لہذا تلکتر خاموشی کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ گیا۔

بغاوت کا آغاز: اس کے بعد (باغی) امراء ناصری کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ناصری نے انہیں بغاوت پر آمادہ کیا اور وہ تیار ہو گئے۔ یہ (سازش) ماہ محرم ۹۱ھ میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد یہ خبر طرابلس میں پہنچی تو وہاں کے امراء بھی بغاوت پر آمادہ ہو گئے ان کا سرغنہ بذالار ناصری تھا۔ اس نے باغیوں کو جمع کر کے ایوان حکومت پر حملہ کر دیا اور نائب حاکم کو گرفتار کر

کے اسے مقید کر دیا۔

امرائے مصر کی فوج کشی: بعد ازاں حلب، حمص اور شام کے دیگر علاقوں میں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تو سلطان (مصر) نے ان سے جنگ کرنے کے لئے فوجیں روانہ کیں۔ ان کے ساتھ اٹھس اٹابک مصر، یونس دوادار (پیش کار) غلیلی چرکس، امیر الماخوریہ (وزیر سامان جنگ) احمد ابن پیتقا امیر مجلس (وزیر دربار) اید کا صاحب الحجاب (وزیر داخلہ) تھے۔ سلطان نے فوج کے بہادر غلاموں اور سو رماؤں میں سے پانچ سو جنگ جو بہادروں کا انتخاب کر کے انہیں غلیلی کی قیادت میں دیا اور انہیں اپنا مخصوص علم جس کا نام شالیش تھا۔ ان کے حوالے کیا۔ سلطان نے اس مخصوص فوجی دستہ کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کیا اور دوسرے فوجی دستوں کو ہر طرح کیل کانٹے سے درست کیا اور یہ تمام فوجیں سال کے موسم بہار کے وسط میں صف آرا ہو کر روانہ ہوئیں۔

منطاش کی حمایت: ناصری نے اس کام (بغاوت) کے بعد منطاش کو بلا بھیجا جو شاہی لشکر کی سیوا سے واپسی کے بعد سے تاتاری قبائل میں قیام پزیر تھا۔ ناصری نے اسے احسانات سے مالا مال کیا۔ پھر اس نے ترکمان اور عرب قبائل کو بھی اکٹھا کیا۔ اس کے بعد وہ ان تمام فوجوں کے لئے کر دمشق (پر حملہ کرنے کے ارادے سے) روانہ ہوا۔

دمشق کا نائب حاکم طر نطائی تھا وہ سلطان کو لگا تازان کی خبریں روانہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج کے نائب امیر صفوی کو الگ کرنے پر بھی آمادہ کر رہا تھا کیونکہ اس کے ناصری کے ساتھ گہرے تعلقات تھے لہذا فوج اس کے خلاف بدگمان ہو گئی اور انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے گھر کو لوٹ کر اسے قیدی بنا کر قلعہ کرک کی طرف بھیج دیا اور اس کے بجائے محمد بایکیش بن جندر کمانی کو مقرر کیا جو اپنے والد کے ساتھ بندمر کے پاس ملازم تھا اور اس وقت نابلس اور اس کے آس پاس کے علاقہ کا حاکم تھا۔ لہذا اسے غزہ کی طرف منتقل کر دیا۔

عداری اور شکست: جب سلطان کی فوجیں دمشق پہنچیں تو انہوں نے قاصیوں کی منتخب جماعت کا ایک وفد ناصری اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ مصالحت کرا سکیں۔ مگر (فریق مخالف) اس کے لئے آمادہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اس وفد کو بھی روک لیا گیا اور انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔

جب مرج کے مقام پر فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو احمد بن پیتقا اور اید کا زالحاجب اور ان دونوں کی فوجیں دشمن کی صفوں کی طرف چلی گئیں اور ان کی طرف سے لڑنے لگیں۔ دیگر امراء کے ممالیک نے بھی ان کی پیروی کی (وہ بھی دشمن کے ساتھ مل گئے) لہذا (سلطان کی جو فوج) باقی رہ گئی تھی۔ دشمن نے ان پر سخت حملہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ (شاہی) فوج منتشر ہو گئی اور اٹھس (سپہ سالار) دمشق کے قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ کیونکہ سلطان نے اسے لکھ دیا تھا کہ اگر اسے ضرورت ہو (تو وہ قلعہ میں پناہ لے سکتا ہے)۔

گرفتاری اور قید: (دوسرا سپہ سالار) یونس حیران و پریشان بھاگتا رہا۔ کیونکہ اس کے ممالیک اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کی امیر الامراء عنقا سے مڈبھیڑ ہوئی جس کے ساتھ اس کے دو اقدار میں اختلافات تھے۔ لہذا اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔

(تیسرا سپہ سالار) چرکس خلیلی بھی محاصرہ میں آ گیا تھا حالانکہ سلطان کے مخصوص ممالیک (غلام) اس کے چاروں طرف تھے ان لوگوں نے اس موقع پر نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کی تھی تاہم دشمن کا ایک سپاہی خلیلی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس نے نیزہ کا وار کر کے اسے گرا دیا تھا اور پھر اس کا سر کاٹ دیا تھا۔

(اس واقعہ کے بعد) (سلطان کی) تمام فوج منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ لہذا ہر طرف سے انہیں گرفتار کر کے قیدی بنایا گیا۔

ناصری کا دمشق پر قبضہ: اب ناصری اور اس کی فوجیں فوراً دمشق میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ عرب اور ترکمانوں کی فوجیں اس کے گرد و نواح میں لوٹ مار کرتی رہیں۔ عنقا (جس نے یونس کو گرفتار کیا تھا) یونس کے بارے میں اجازت طلب کی تو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اس کا سر کاٹ کر ان کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ پھر قلعہ کے نائب حاکم کو حکم دیا گیا کہ وہ آتمش کو اپنے پاس مقید رکھے۔ باقی قیدیوں کو قلعہ دمشق، صغد اور حلب کے مختلف قید خانوں میں الگ الگ رکھا گیا۔

ابن بایکس نے غزہ میں (بغوات کی) تحریک چلائی اور ان کی اطاعت حاصل کی۔ جب وہاں سے ہزاری منصب کا امیر ایٹال یوسفی، دمشق سے بھاگ کر گزرا تو اس نے اسے گرفتار کر کے قلعہ کرک میں مقید کر دیا۔

مدافعت کی تیاری: سلطان مصر مدافعت کے لئے تیار ہوا۔ اس نے آتمش کے بجائے دمرادش کو اتابک (امیر الامراء) مقرر کیا اور یونس کے بجائے قرماش جندار کو دوا دار (پیش کار) مقرر کیا۔ اس نے ان تمام عہدوں پر جو خالی تھے نئے افسروں کو مقرر کیا۔ اس نے نظر بند خلیفہ متوکل بن معتمد کو بھی رہا کر دیا اور اسے دوبارہ خلیفہ مقرر کیا اور اس کے بجائے جو خلیفہ مقرر تھا اسے معزول کر دیا۔

باغیوں کا حملہ مصر: ناصری اور اس کی فوجیں چند دنوں دمشق میں مقیم رہیں۔ پھر انہوں نے متحد ہو کر مصر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تمام فوجیں اس مقصد کے لئے روانہ ہو گئیں۔ مگر ان کی (روائی کی) خبریں پوشیدہ رہیں یہاں تک کہ ان کا ہراول دستہ بلیس کے مقام تک پہنچ گیا۔ پھر وہ برکتہ الحاج کے مقام تک پہنچ گئے اور اسی سال کے ماہ جمادی الاخرہ کی سات تاریخ کو وہاں خیمہ زن ہو گئے۔

شاہی فوج کو شکست: سلطان اپنے غلاموں کو لے کر قلعہ کے سامنے سارے دن صف آراء رہا مگر اس کی فوجیں اور عوام جوق در جوق ناصری کے محاذ جنگ کی طرف جاتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کا میدان جنگ ان سے بھر گیا۔ وہ امراء جو سلطان کے تھے ناصری سے پناہ کے طالب ہوئے تو ناصری نے انہیں پناہ دے دی۔ سلطان کو یہ سب خبریں ملتی رہیں۔ اس اثناء میں اس کی کچھ فوجیں جنگ کے لئے آگے بڑھیں تو وہ شکست کھا کر سلطان کے پاس واپس آ گئیں۔

سلطان برقوق کا فرار: ایسی حالت میں جب سلطان کو اپنا اقتدار خطرہ میں نظر آیا تو اس نے پوشیدہ طور پر ناصری کے پاس صلح کا پیغام بھیجا جس میں نہایت نرم لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی پیش کش کی تھی کہ وہ اپنی سلطنت اپنے ملازموں کے ساتھ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس پیغام میں سلطان نے اس بات کا اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ کہیں پوشیدہ ہو جائے گا تاکہ

پہنچا دیہ کے علاوہ اور کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔

چنانچہ جب رات ہو گئی تو اس نے اپنے باقی ماندہ غلاموں کو کہیں چلے جانے کی اجازت دی۔ پھر خود بھی بدل کر نکل گیا اور شہر کے کسی پوشیدہ مقام میں روپوش ہو گیا۔

ناصری کی حکومت: اس کے بعد ناصرہ اور اس کے ساتھی صبح سویرے قلعہ پہنچے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے امیر حاج ابن الاشرف کو تخت نشینی پر بحال کیا اور اس کی بادشاہت کا اعلان کر کے اس کا لقب الملک المنصور رکھا۔ اس کے بعد جو بانی اور ان امراء کو فوری طور پر طلب کیا گیا جو اسکندریہ میں نظر بند تھے۔ لہذا وہ جلد روانہ ہو کر دوسرے دن قاہرہ پہنچ گئے۔ ناصرہ اور اس کے ساتھی ان امراء کے استقبال کے لئے پہنچے۔ ناصرہ نے جو بانی کو اپنے شاہی اصطبل پر اتارا اور اسے اپنی حکومت اور اقتدار میں شریک کیا۔

سلطان برقوق کی جاں بخشی: پہلے ہی دن سے سلطان ظاہر کی تلاش کا اعلان کیا گیا اور سارے دن اس کی تلاش جاری رہی۔ دوسرے دن بھی اس کی تلاش جاری رہی۔ یہاں تک کہ جو بانی کے ایک غلام نے اس کا سراغ نکال لیا۔ جب اس نے سلطان ظاہر کو دیکھا تو اس نے زمین بوسی کی اور اس کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کیا اور اسے پناہ دینے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد وہ سلطان کو قلعہ میں لایا اور وہاں ٹھہرایا۔ پھر اس کے بارے میں مشورے ہوئے۔ مظاہر اور زلازلیہ چاہتے تھے کہ سلطان (برقوق) کو قتل کیا جائے۔ مگر ناصرہ اور جو بانی معاہدہ کی پابندی کرنا چاہتے تھے (آخر کار سلطان کی جاں بخشی کی گئی)۔

سرکاری عہدوں کی تقسیم: اس کے بعد جو بانی کو نائب مقرر کیا گیا اور ناصرہ کو نوبہ (شاہی غلاموں کا سپہ سالار) مقرر ہوا۔ مرداش احمد امیر سلاح احمد بن بیقا امیر مجلس ابقا عثمانی دوا دار ابقا جوہری استاذ دار (وزیر مالیات) کے عہدہ پر مقرر ہوا۔ یوں تمام عہدوں اور مناصب پر نئے تقررات مکمل ہو گئے۔

شام کے حکام: بعد ازاں زلازلیہ کو دمشق کا نائب حاکم بنا کر بھیجا گیا اور کتبغا بیقادی کو حلب کا حاکم بنایا گیا۔ سلطان نے طرابلس کی حکومت سے معزول کر کے اسے دمشق میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ مگر جب وہ ناصرہ کی حامی ہو تو اس نے اسے اپنا جانشین بنا کر حلب کا حاکم مقرر کیا۔

مخالف امراء کی گرفتاری: (اس حکومت نے) امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا جن میں نائب حاکم سووون باق اور سووون طرنطائی بھی شامل تھے۔ ان میں سے کچھ کو اسکندریہ میں اور کچھ کو شام میں مقید رکھا گیا۔ اس اثناء میں سلطان کے غلاموں کی تلاش جاری رہی۔ چنانچہ ان کی اکثریت کو مقید کیا گیا اور باقی افراد کو شام کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ متعلق حکام اور امراء کی خدمت کریں۔

نئی حکومت نے سلطنت کے وزیر مال (استاذ دار) محمود کو جو محل شاہی کا قارون (قارون القصری) (محل کا سرمایہ دار) تھا گرفتار کر لیا اور اس سے دس لاکھ درہم (جرمانہ) وصول کیا پھر اسے قید خانہ میں ٹھونس دیا گیا۔

برقوق کی الکرک میں جلا وطنی: پھر ارباب حکومت اس بارے میں مشورہ کرتے رہے کہ آیا (سابق) سلطان کو قلعہ کرک، قوص اور اسکندریہ میں سے کہاں بھیجا جائے۔ آخر کار ان کا منفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ اسے قلعہ کرک بھیجا جائے مگر (شہرت یہ دی گئی کہ) اسے اسکندریہ بھیجا جائے گا۔ کیونکہ انہیں منطاش کی طرف سے اندیشہ تھا۔

چنانچہ جب اس کی روانگی کا وقت آیا تو منطاش سمندر کے قریب گھات میں بیٹھا رہا اور وہیں اس نے ساری رات گزاری۔

ادھر جب جو بانی سلطان (برقوق) کو لے کر قلعہ سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ کرک کا حاکم موسیٰ بن عیسیٰ بھی اپنی فوجوں کے ساتھ سوار ہو کر روانہ ہوا تاکہ وہ سلطان کو (صحیح و سلامت) قلعہ کرک تک پہنچا دیں۔ جو بانی رات کے وقت رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور سلطان کے ساتھ گیا پھر وہ واپس آ گیا۔

قلعہ الکرک کی حکومت: منطاش کو جب اصل معاملہ کا علم ہوا تو وہ بہت بگڑا اور اس نے بغاوت کا لباس پہن لیا۔ تاہم سلطان (اس کے مکر و فریب سے بچ کر) پیچھے و عافیت اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ قلعہ کرک پہنچ گیا ناصری نے اس کے خواص میں سے حسن کشکی کو اس کی خدمت پر مامور کیا اور اسے کرک کا حاکم بھی مقرر کیا اور اسے سلطان کی اس طرح خدمت کرنے کی ہدایت کی کہ کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ اس قلعہ کرک لے گیا اور قلعہ میں اس کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا۔ چنانچہ سلطان رہاں اس وقت تک رہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دوسری صورت نہیں پیدا کی۔

اس کے بعد یہ خبر آئی کہ سلطان ظاہر (برقوق) کے وہ غلام جو اس واقعہ کے بعد پوشیدہ تھے دشمن میں بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ لہذا (انہیں تلاش کر کے) گرفتار کر لیا اور ان سب کو اسیر بنا لیا گیا۔ انہی میں ایبقا صغیر بھی شامل تھا۔

منطاش کی حکومت

منطاش ناصری کے ساتھ مصر آ گیا تھا مگر وہ حکومت و اقتدار کا خواہاں تھا اور پوشیدہ طور پر بغاوت اور غداری کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ کیونکہ (نئی) حکومت نے اس کے حق کے مطابق جاگیریں نہیں دی تھیں اور نہ سرکاری عہدے تقسیم کرتے وقت اسے کوئی اعلیٰ عہدہ دیا تھا (اس کے خیال کے مطابق) ناصری نے اس کی خدمات اور دشمن کے مقابلے میں جنگی کارناموں کا پورا صلہ نہیں دیا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ اس بات سے ناراض ہوا کہ جو بانی کو اس پر ترجیح دی گئی ہے اور اسے ”خاص آدمی“ بنا دیا گیا ہے لہذا وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے بغاوت اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔

بغاوت کی تیاری: جب امیر جو بانی کو قید کیا گیا تھا اور حلب میں ناصری نے بغاوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جو بانی کے غلام (ممالیک) بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ بغاوت کے زمانے میں دوران سفر میں منطاش سے بھی مانوس ہو گئے تھے اور اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ لہذا منطاش نے انہیں بھی اس بغاوت کے منصوبے میں شامل کیا اس کے ساتھ

ساتھ وہ بظاہر جو بانی کے سامنے اپنے خلوص کا اظہار کرتا رہا اور اس کی محفلوں اور کھانے کی دعوتوں میں اس کا بار بار غائبانہ ہوا۔ دوسری طرف بیقادیہ کی جماعت بھی ناصری کے خلاف تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ناصری ان کی تنخواہوں اور جاگیروں میں کوتاہی اختیار کر رہا ہے۔ لہذا وہ بھی (اندرونی طور پر) اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس لئے جب منطاش نے انہیں بھی بغاوت پر آمادہ کیا تو وہ فوراً اس مقصد کے لئے تیار ہو گئے اور اس کی زبردست تائید کی اور ضرورت کے وقت اس کی حمایت کا وعدہ کیا۔

یہ خبر ناصری اور جو بانی تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اسے شام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا مگر وہ بیمار بن گیا اور کئی دنوں تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ وہ ان سے ٹال مٹول کر رہا تھا تاکہ ان کے خلاف اپنے منصوبے کو مستحکم کر لے۔

ہنگامہ آرائی پیر کے دن جو بانی (اسے گرفتار کرنے کے لئے) اس کے گھر پہنچا تو اس وقت منطاش نے اپنے گھر میں حملہ کرنے کے لئے اپنے آدمیوں کو چھپا رکھا تھا لہذا انہوں نے جو بانی کو پکڑ کر فوراً مار ڈالا۔ اس کے بعد منطاش رمیلہ پہنچا۔ وہاں اصطبل کے دروازے کے پاس اس نے امراء کی سواریوں کو لوٹ لیا۔ اس نے مدرسہ ناصریہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک افسر کی قیادت میں جنگ جو سیاہی اور تیر اندازا کٹھے کر رکھے تھے۔ لہذا وہ وہاں کے اذان کے منارے کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ اس وقت اشرافیہ اور دیگر جماعتوں کی فوجیں اندرون شہر سے اس کے پاس اکٹھی ہونے لگیں۔ نیز سلطان ظاہر کے جو غلام باقی رہ گئے تھے وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ یوں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔

جنگ کا آغاز (یہ حالت دیکھ کر) بیقادیہ کی جماعت کے امراء بھی اپنے گھروں سے نکل کر رمیلہ کے مقام پر پہنچ گئے اور انجام کار کا انتظار کرتے رہے۔ ناصری اس وقت اپنی موجودہ فوج کو لے کر نکلا۔ اس نے امراء کو دشمن کے خلاف حملہ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کھڑے رہے (اور حملہ نہیں کیا) لہذا ناصری اور فریقین بھی حملہ کرنے سے رک گئے۔ جو بانی کے ممالک (غلام) اپنے آقا کا بدلہ لینے کے لئے ناصری کی طرف پہنچے تو منطاش نے دھمکی دی (کہ اگر وہ اس کے پاس گئے تو) وہ ناصری کو قتل کر دے گا لہذا وہ منتشر ہو گئے۔

ناصری کی شکست فریقین دن کے آخری حصے تک جنگ کرتے رہے۔ پھر دوسرے دن صبح سویر جنگ شروع ہو گئی۔ ناصری نے بڑھ چڑھ کر حملہ کیا مگر پسپا ہوا۔ فریقین تین دن تک جنگ کرتے رہے۔ اس اثناء میں منطاش کی فوج طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، تا آنکہ چہار شنبہ کی شام کو ناصری کی فوج اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ناصری سردن تک شاہی قلعہ میں رہا۔ اس کے بعد منطاش قلعہ میں داخل ہو گیا اور اس نے اس کے گھروں اور خزانوں کو لوٹ لیا۔

منطاش کی حکومت کا آغاز ناصری حیران اور پریشان پھرتا رہا، اس کی فوجیں اسے چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں۔ بیقادیہ کا گروہ دوسرے دن صبح سویرے منطاش کے پاس پہنچا تو منطاش نے انہیں گرفتار رک لیا اور ناصری کے پاس سے جو بھاگ کر آئے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ اسکندریہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان کے ایک گروہ کو جسے ناصری نے قید کر رکھا تھا، قوص اور دمیاط کی طرف بھیجا گیا۔

تجدید بیعت: بعد ازاں اس نے ازسر نو امیر حاج المنصور (سلطان مصر) کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلطان کے غلاموں کو بذریعہ اعلان یہ پیغام بھجوایا کہ وہ حاضر ہو جائیں۔ یوں اس نے ان کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد گرفتار شدہ غلاموں کو قوص بھیج دیا گیا۔ پھر اس نے (شہر کے) بعض دولت مندوں کا مال ضبط کر لیا نیز (سابق وزیر مال) استاذ دارمجد کورہا کر دیا اور اسے خلعت عطا کر کے اسے اس کے عہدے پر بحال کرنے کا ارادہ کیا۔

ضبط اموال: مگر جلد ہی اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور دوبارہ اس کا مال و سامان ضبط کیا گیا۔ چنانچہ اس نے اس کی دولت کا عمدہ حصہ چھین لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سونے (زر) کے ساٹھ خزانے (قطار) تھے۔

نئے حکام کا تقرر: جب مطاش امور سلطنت میں خود مختار ہو گیا تو اس نے سرکاری عہدوں اور مناصب پر اپنی مرضی کے مطابق عہدے دار مقرر کئے چنانچہ اس نے اشقمری کو شام سے بلوایا۔ اس کے بھائی ترمطائی نے ان دونوں کے بھائی چارہ کے تعلقات قائم کر دیئے تھے۔ لہذا اس نے انہیں نائب اعظم مقرر کیا۔ اور استمد بن یعقوب شاہ کو امیر سلاح مقرر کیا اور ابھاقصوفی کو حاجیوں کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ یوں اس نے ان تینوں کو خصوصی مشورہ کے لئے ارکان سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔

ابراہیم بن بطلقتمر نے جو امیر چندار (سپہ سالار) تھا۔ اس بغاوت میں اہم حصہ لیا تھا۔ اس لئے مطاش نے اس کا خاص طور پر خیال رکھا اور ہزاری امراء پر اسے مقدم رکھا۔ مگر جب اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ دیگر امراء کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرنے میں گفت و شنید کر رہا ہے اور خود مختار بنا چاہتا ہے تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر اسے حلب کا حاکم بنا کر اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔

مطاش نے ارغون سمندر کو اپنا ”خاص آدمی“ مقرر کر رکھا تھا اور وہ اس کا منظور نظر تھا لہذا ہر خاص و عام اس سے تعلق قائم کرنے لگا اور وہ صبح سویرے اس کے دروازے پر جمع ہونے لگے مگر کچھ عرصے کے بعد مطاش کو یہ خبر ملی کہ اس نے امیر چندار ابراہیم سے ساز باز کر رکھی تھی لہذا اسے پھر گرفتار کر لیا اور قید میں رکھ کر یہ تحقیق کرنی چاہی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ سازش میں شریک تھا یا نہیں؟ مگر وہ انکار کرتا رہا اور قید خانے ہی میں زندگی گزارتا رہا۔

مطاش نے (سابق) نائب سودون کو (قید خانے سے) رہا کر دیا اور وہ مصر آ کر خانہ نشین ہو گیا اور یہ سلسلہ حکومت اسی طرح قائم رہا۔

بذلار کی ناکام بغاوت: جب دمشق میں بذلار کو یہ اطلاع ملی کہ مطاش سلطنت (مصر) کا خود مختار حاکم ہو گیا ہے تو یہ بات اسے ناگوار معلوم ہوئی اور اس کے دل میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس مقصد کے لئے اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے شام میں حلب وغیرہ کے حکام سے خط و کتابت کی اور انہیں (بغاوت میں) متحد ہونے کی دعوت دی مگر انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی اور وہ (مطاش کے) مطیع اور فرمانبردار رہے۔

بذلار کی شکست: اس اثناء میں طاز کے بھائی جہتمر نے جو دمشق کا امیر کبیر تھا۔ یہاں کے امراء سے (بذلار کے خلاف) ساز باز کی اور انہیں سلطنت مصر کا وادار بنایا۔ جب بذلار کو یہ اطلاع ملی تو وہ اپنے غلاموں اور حامیوں کو لے کر اسے گرفتار کرنے کے لئے پہنچا مگر وہ اسے گرفتار نہیں کر سکا بلکہ اس کے برخلاف حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور دمشق کے عوام نے بذلار

کے خلاف اس کی امداد کی اور دن کے ایک حصے میں اس کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ جب بذلار کو اپنی شکست اور ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اس نے ہتھیار ڈال دیئے اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔

نیا حاکم دمشق: منطاش کو سرعت کے ساتھ یہ خبر پہنچائی گئی تو اس نے اسے نظر بند کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بذلار قید خانے میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اب منطاش نے جنترم کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔

برقوق کے قتل کا حکم: جب سلطان ظاہر (معزول بادشاہ) کو قلعہ کرک میں یہ اطلاع ملی کہ منطاش سلطنت (مصر) کا خود مختار حاکم ہو گیا ہے اور اس نے پینقاد یہ کے تمام گروہ کو مقید کر رکھا ہے اور ان کے بجائے اپنے حامیوں کو مقرر کر دیا ہے تو اسے اپنی جان کا خطرہ نظر آیا اور اس کے نتائج بد سے خوفزدہ ہوا۔

جب منطاش خود مختار ہوا تو اس کے نزدیک اہم کام سلطان ظاہر (برقوق) کا خاتمہ کرنا تھا لہذا اس نے قلعہ کرک کے نائب حاکم حسن کشکی کو حکم بھیجا کہ وہ اسے (سلطان برقوق) کو قتل کر دے مگر ناصری نے جب حسن کشکی کے سپرد (سابق) سلطان کو کیا تھا تو اس وقت اس نے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے بدخواہوں سے اس کی حفاظت کرے۔ لہذا وہ اس (قتل کے) ارادے سے باز رہا۔ اس نے بریدی اور قاضی شہر اور پرائیویٹ سیکرٹری اور دوسرے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلطان (برقوق) کا خون بہانے سے پرہیز کیا جائے۔

معذرت نامہ: لہذا اس (حسن کشکی) نے منطاش کو یہ معذرت نامہ بھیجا کہ سلطان (موجودہ) اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر اس کام کی انجام دہی میں بہت خطرات ہیں۔ منطاش نے سلطان اور خلیفہ کی اجازت نامہ حاصل کر کے ان کی اجازت کے ساتھ دوبارہ اسی مضمون کا خط لکھا۔ مگر اس نے بریدی (مضمون قاصد) کو اپنے پاس ٹھہرائے رکھا اور وعدوں کے ساتھ بہلاتا رہا اور ٹال مٹول کرتا رہا تا آنکہ اس سے مخلصی کی کوئی صورت نہ نکلی۔

یہ لوگ سلطان کے احترام اور شفقت کی وجہ سے اس حکم کو سلطان سے چھپائے ہوئے تھے۔ تاہم سلطان نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ اس لئے اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وسیلہ بنائے رکھا۔ کیونکہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے ان کے مزار کو دیکھا کرتا تھا۔

بریدی کا قتل: (اس موقع پر) سلطان کے غلاموں نے شہر کا گشت کیا اور وہ ایسے افراد (کی امداد) حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو سلطان کی اچھی طرح بدافعت کر سکتے تھے۔ چنانچہ گفت و شنید کے بعد انہوں نے خلوص کے ساتھ (سلطان کی بدافعت کا) معاہدہ کیا اور وہ بریدی (شاہی قاصد) سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ بریدی کا گھر سلطان کے گھر کے سامنے تھا۔ چنانچہ یہ (مخلصین) رمضان المبارک کی دسویں تاریخ کی رات کو اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس کا سر کاٹ کر سلطان (برقوق) کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ ان کی تلواروں کی دھاروں سے خون بہ رہا تھا اس وقت حسن کشکی سلطان کو تسلیم دینے کے لئے اس کے دسترخوان پر روزہ افطار کر رہا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا۔

دوبارہ حکومت کے لئے جدوجہد انہوں نے اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر سلطان (برقوق) نے اسے اپنی پناہ

میں لے لیا اور اس نے برقوق کو قلعہ کی حکومت سپرد کر دی اور نائب حاکم نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد دوسرے دن شہر والوں نے آ کر سلطان (برقوق) کے ہاتھ پر بیعت کی (اور اسے جائز سلطان تسلیم کیا)

عرب قبائل کی امداد۔ گرد و نواح سے بنو عقبہ اور دوسرے عرب قبائل بھی آئے اور انہوں نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یہ خبر چاروں طرف مشہور ہوئی تو ہرست سے (سلطان برقوق کے) غلام اس کے پاس آ گئے۔

دمشق کی سمت پیش قدمی۔ جب مطاش کو (مصر میں) یہ خبریں ملیں تو اس نے غزہ کے نائب حاکم کو ہدایت کی کہ وہ فوج لے کر کرک پہنچ جائے اس نائب حاکم کا نام ابن بکیش تھا (جب سلطان کو یہ اطلاع ملی تو) اسے پس و پیش ہوا کہ آیا وہ ابن بکیش کی فوج کا مقابلہ کرے یا وہ شام کی طرف روانہ ہو جائے۔ آخر کار اس نے دمشق کی پیش قدمی کا مصمم ارادہ کر لیا اور کرک سے پندرہ شوال کو روانہ ہو گیا۔ اس نے قبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں عرب قبائل کی فوجوں کو اکٹھا کیا۔ پھر وہ ایک ہزار سے زائد عربوں اور ترکوں کی فوج لے کر روانہ ہوا اور منازل طے کرتا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا۔

اہل دمشق کی شکست۔ ادھر دمشق کے نائب حاکم جنمتر نے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجیں جن میں شام کے امراء اور بندمر کی اولاد شامل تھی۔ چنانچہ شجب کے مقام پر فریقین میں جنگ ہوئی۔ یہ گھسان کی جنگ تھی۔ آخر کار اہل دمشق کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سے افراد مارے گئے۔ سلطان (برقوق) کو فتح حاصل ہوئی۔ اس نے دشمن کی فوج کا دمشق تک تعاقب کیا مگر اس کے بہت سے افراد مصر بھاگ گئے۔

ابن بکیش کی شکست۔ پھر سلطان (برقوق) کو احساس ہوا کہ ابن بکیش اور اس کی فوجیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں اس لئے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور راتوں رات فوج لے کر صبح سویرے تاریخ دس ذوالقعدہ اس کی فوجوں پر حملہ کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی اور سلطان اور اس کی فوج نے ان کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا اور ان سے مالا مال ہو گئے اور اس کی وجہ سے سلطان کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا۔

محاصرہ دمشق۔ اس کے بعد سلطان دمشق کی طرف واپس آیا اور میدان میں صف آراء ہوا تو عوام اور گرد و نواح کے افراد سلطان کے خلاف ہو گئے اور میدان میں وہ سلطان کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اس لئے وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چنانچہ عوام نے اس کا اور اس کے غلاموں کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ پھر سلطان قبہ بلیغنا کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اہل دمشق نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے۔ چنانچہ سلطان ماہ محرم ۹۳ھ تک ان کا محاصرہ کرتا رہا۔

کمشیقہ کی امداد کی مہم۔ ادھر حلب کے نائب حاکم کمشیقہ حموی نے اپنی عملداری میں سلطان کی حمایت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جب سلطان کرک سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا تو اس نے تحریری طور پر اسے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ لہذا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے تو کمشیقہ سلطان سے ملاقات کے لئے تیار ہوا اور اپنے ساتھ وہ تمام ساز و سامان لے کر روانہ ہوا جس سے سلطان کی فوج ہر قسم کی خامیاں اور کمزوریاں دور کر سکے اور اس کی شان و شوکت قائم ہو سکے۔

تاریخ ابن خلدون

قیدی امراء کا فرار: دوسری طرف انیال یوسفی اور سلطان کا چچا زاد بھائی قجماش اور وہ امراء جو صغد میں مقیم تھے وہ سب کے سب سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ صغد کے نائب حاکم کے پاس سلطان کے چند غلام ملازم تھے انہوں نے اس سے غداری کر کے صغد کے قید خانے میں مقید تمام امراء کو رہا کر دیا۔ لہذا وہ سب سلطان (برقوق) کے پاس پہنچ گئے جب کہ وہ دمشق کا محاصرہ کر رہا تھا۔ ان سب کا پیش رو انیال تھا۔

قوص کی بغاوت: جب ان امراء کو جو قوص میں نظر بند تھے یہ اطلاع ملی کہ سلطان (برقوق) نظر بندی سے رہا ہو گیا ہے اور وہ کرک کے علاقہ پر قابض ہو گیا ہے اور لوگ (اس کی حمایت میں) اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس سال کے ماہ شوال میں بغاوت کا اعلان کیا اور وہاں کے حاکم کو گرفتار کر کے قاضی کے خزانے سے مال و دولت نکال لی۔

جب ان کی (بغاوت کی) اطلاع مصر پہنچی تو ان (کی سرکوبی) کے لئے فوجیں روانہ کی گئیں پھر یہ اطلاع بھی ملی کہ ان (باغیوں) نے اسوان پہنچ کر وہاں کے حاکم حسن ابن قرط کو بھی ورغلا یا ہے اور اس نے بھی ان کی حمایت کا وعدہ کیا ہے لہذا ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وادی القصب کی مشرقی سمت سے سویز کی طرف روانہ ہوں اور وہاں سے کرک جائیں۔

بغاوت کا انسداد: چنانچہ جب ابن خریط (کے ساز باز) کی خبر ملی تو مطاش نے سندرمین یعقوب شاہ کو روانہ کیا۔ وہ اپنی فوجوں کو لے کر مشرقی کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ اتنے میں ابن قرط نے جلد پہنچ کر اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلایا تو اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کی عملداری پر بحال کر دیا گیا۔

اس کے بعد ابن یعقوب شاہ قوص پہنچ گیا۔ اس نے تمام گردنواح کے علاقہ پر قابو پالیا تھا اور باغی امراء کو گھیرے میں لے کر انہیں گرفتار کر لیا تھا۔

اس کے بعد سلطان ظاہر کے غلاموں اور مہر کے بالائی علاقہ (دنی) کے حکام جو غلام تھے ان سب کو قتل کروا دیا۔ پھر امراء کو لے کر مصر روانہ ہوا اور وہاں اس سال کی پندرہ ذوالحجہ کو پہنچا۔ وہاں صرف چار امراء کو چھوڑ دیا گیا تھا جن میں سومانی ابدی بھی شامل تھا۔ باقی امراء کو مقید رکھا گیا۔

کشمیقہ کی بغاوت: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ناصری نے کشمیقہ کو جو اس نوبہ (شاہی غلاموں کا افسر) تھا حلب کا نائب حاکم مقرر کیا تھا، مگر جب مطاش خود مختار حاکم ہو گیا تو وہ اس کا مخالف ہو گیا تھا۔ پھر جب بذلار نے دمشق میں بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ تاہم جب اسے کرک کی نظر بندی سے سلطان کے رہا ہونے کی اطلاع ملی تو اس وقت اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور سلطان (برقوق) کی بادشاہت کی تحریک کی حمایت کی۔ ابراہیم بن جندار نے اس کی مخالفت کی اور حلب کے مضافات کے اہل باقوسا نے بھی نافرمانی کی۔ لہذا کشمیقہ نے ان سب سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور قاضی ابن ابی الرضا کو بھی قتل کر دیا جو اس کا مخالف تھا۔ یوں ماہ شوال میں وہ حلب کا خود مختار حاکم ہو گیا۔

برقوق کی زبردست امداد: اس کے بعد اسے اطلاع ملی کہ سلطان (برقوق) نے دمشق اور ابن بکیش کی فوجوں کو

شکست دیکر قہر بلغا کے مقام پر اپنا محاذ قائم کر رکھا ہے کیونکہ اہل دمشق نے میدان سے نکال کر اس کا سامان لوٹ لیا تھا۔ اب وہ دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا اس نے حلب سے فوجیں اور سامان جنگ اکٹھا کیا اور سلطان کو (جنگ کے لئے) جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب فراہم کیں۔ ان میں (نقد) مال و دولت، کپڑے، ہتھیار، اونٹ، گھوڑے، محاصرہ کے آلات، شاہی خیمے، فرش اور چھوٹی بڑی سب چیزیں شامل تھیں۔

(جب وہ وہاں پہنچا تو) سلطان نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی۔ سلطان نے اسے اتا تک اور مشیر اعظم بنا لیا اور وہ اس کے ساتھ دمشق کے محاصرہ میں شریک رہا۔

شدید محاصرہ دمشق: کمشیقہ کے پہنچنے کے بعد دمشق کا محاصرہ سخت کر دیا گیا کیونکہ سلطان کے پاس جنگجو سپاہیوں اور محاصرہ کے آلات کی کثرت ہو گئی تھی۔ لہذا شہر پناہ کو چاروں طرف سے محاصرت (قلعہ شکن آلات) کے پتھروں سے تباہ و برباد کر دیا گیا اس کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے اور اس کے آس پاس کے گھروں میں آگ لگ گئی اور تمام گنبدوں اور قلعوں پر تباہی اور آتشزدگی مسلط ہو گئی۔ نیز فصلوں کے اوپر سے مدافعت جنگ شدید ہو گئی اس کا مشورہ شافعیہ کے قاضی احمد بن القزہ نے دیا تھا، مگر اہل علم اور دیندار حضرات نے اس کی مخالفت کی تھی۔

منظاش کو جب دمشق کے محاصرہ کی اطلاع ملی تو اس نے طبقتا اچھی دوا دار الاشراف کے ذریعے وہاں کی فوجوں کے لئے مالی امداد بھجوائی اور وہ خود وہاں رہا۔

اس کے بعد (حاکم دمشق) جنتر نے امیر آل انبلی یحییٰ بن جبار سے فوجی امداد طلب کی تو وہ جنگ کرنے کے لئے وہاں پہنچا۔ اس کے مقابلہ کے لئے کمشیقہ نائب حاکم حلب (فوج لے کر) آیا اور مقابلہ کر کے اس کی فوج کو منتشر کر دیا اور اس کے خادم کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر سلطان کے پاس لایا سلطان نے اسے براہ نوازش سے چھوڑ دیا بلکہ اسے خلعت اور سواری دے کر اس کے آقا کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد بدستور دمشق کا محاصرہ جاری رہا۔

انیال کی بغاوت

دمشق کے واقعہ کے بعد جب انیال کو شکست ہوئی تو وہ مصر کی طرف بھاگ گیا تھا جب وہ غزہ میں سے گزرا تو ابن بکیش نے اسے قید کر دیا تھا اور کرک میں نظر بند رہا۔ جب ناصری خود مختار حاکم ہوا تو اس نے اسے صفحہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جہاں وہ دیگر امراء کے ساتھ نظر بند رہا۔

جب قطبک نظامی صفحہ کا حاکم ہوا تو اس نے برقوق کے غلاموں کی ایک جماعت کو اپنا ملازم مقرر کیا اور ان میں سے بلبلغا سامی کو دوا دار مقرر کیا۔

جب اسے یہ اطلاع ملی کہ سلطان برقوق نظر بندی سے آزاد ہو گیا ہے اور وہ شام روانہ ہو گیا ہے تو بلبلغا نے اپنے استاذ قطلو بقا کے غلاموں کے ساتھ یہ ساز باز کی کہ وہ مخالفت کر کے سلطان کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت نے راہ فرار اختیار کی تو قطلو بقا ان کے تعاقب کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے بلبلغا سامی کو دوا دار اور صفحہ کا حاجب مقرر کیا (اس کے جانے کے بعد) ان لوگوں نے انیال اور تمام شاہی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیال نے قلعہ

پر قبضہ کر لیا۔

جب قتلوق بقا مفرو افراد کے تعاقب سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو روک دیا ہے لہذا وہ اپنے غلاموں سے بدگمان ہو کر صغد سے چلا گیا کیونکہ اس کے گھر اور جاگیر کو لوٹ لیا گیا تھا۔ وہ شام چلا گیا جہاں کے امراء نے سلطان (برقوق) سے مشتبہ کے مقام پر شکست کھائی تھی اور اب وہ مصر جا رہے تھے لہذا وہ بھی ان کے ساتھ مصر روانہ ہو گیا۔

ادھر انیال نے صغد کا انتظام درست کر کے وہاں اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر وہ سلطان کے پاس چلا گیا اور اسی کے ساتھ رہنے لگا۔

منطاش کی فوج کشی۔ ادھر مصر میں شام کی فوجوں کی شکست کی خبریں لگا تار پہنچنے لگیں اور (یہ بھی معلوم ہوا کہ) سلطان الظاہر (برقوق) نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے اور حلب صغد اور شام کے دیگر علاقے اس کے حامی ہوتے جا رہے ہیں پھر شکست خوردہ فوجیں بندر کی اولاد اور نائب حاکم صغد بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی (منطاش کو) جنگ کے لئے آمادہ کیا۔ نیز دمشق کے نائب حاکم جنتیہ کے خطوط اور اس کے فریاد نامے بھی لگا تار آتے رہے۔

شام کی طرف فوج کشی۔ ان حالات میں منطاش نے شام کی طرف فوج کشی کا عزم مصمم کیا اور جنگی تیاریاں شروع کیں اور اعلان کر لیا کہ فوجیں اکٹھی ہو جائیں۔ اس نے سلطان مصر خلیفہ قاضیوں اور علماء کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور ۱۷ ذوالحجہ ۱۱۷۱ھ کو کوچ کیا۔ وہ قاہرہ سے باہر دیدانیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوا تاکہ وہ جنگی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرے۔

منطاش نے قاہرہ پر اپنے دو ادار (پیش کار) صراہ شمر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اسے مکمل اختیارات دیئے۔ اس نے قلعہ پر بکا اشرفی کو مقرر کیا اس نے قلعہ میں خزانہ کے ایک گورنر کا دروازہ بند کر کے اوپر سے بھی اسے بند کیا اور اسے کنویں کی طرح بنا کر وہاں بڑے بڑے سابق ارکان سلطنت قیدیوں کو منتقل کیا۔

منطاش نے نائب سودون کو قلعہ کی طرف منتقل کر کے اسے وہاں ٹھہرایا پھر اس نے حکم دیا کہ سلطان (برقوق) کے جو غلام باقی رہ گئے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس پر وہ شہر کے نامعلوم مقامات میں روپوش ہو گئے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ قاہرہ کی اکثر سڑکوں اور شاہراؤں کے پھاٹک بند کر دیئے جائیں۔ چنانچہ وہ بند کر دیئے گئے۔

منطاش کی روانگی (ان مزید حفاظتی اقدامات کے بعد) منطاش سلطان کو لے کر ۲۲ ذوالحجہ کو روانہ ہوا۔ اس کی تمام فوجیں جنگی طریقہ کے مطابق کوچ کر رہی تھیں اور منزل بمنزل رواں تھیں۔ دوران سفر میں اسے یہ اطلاع ملی کہ سلطان کے بعض غلام جو امراء کے پاس ملازم ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ساز باز کر کے حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں لہذا اس نے انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر وہ (خبر ملتے ہی) بھاگ گئے اور سلطان (برقوق) کی فوج میں شامل ہو گئے۔

فریقین کی صف آرائی۔ سلطان (برقوق) دمشق کا محاصرہ کر رہا تھا مگر جب اسے مصر سے فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور شتب کے قریب خیمہ زن ہوا۔ (دوسرے دن) صبح کے وقت اس کی فوجیں صف آراء ہوئیں۔ کمشیقا حلب کی فوجوں کو لے کر سلطان کے دائیں طرف (میںہ) صف آراء ہوا۔

ادھر مطاش نے بھی اپنی فوجوں کو صف آراء کیا۔ اس نے شاہ مصر امیر حاجی خلیفہ قاضیوں اور تیر اندازوں کو فوج کے پیچھے رکھا اور ان کے ہمراہ تارتر کو جو راس نوبہ (شاہی غلاموں کی فوج کا افسر تھا) اور امیر سلاح سند مر بن یعقوب شاہ کو برقرار رکھا اور خود وہ اپنے غلاموں اور ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ کے وسط میں صف آراء ہوا۔

شدید جنگ: جب فریقین صف آراء ہو گئے تو مطاش اور اس کی فوجوں نے سلطان کے میمنہ (دائیں طرف کی فوج) پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو منتشر کر دیا لہذا کمشقا شکست کھا کر حلب کی طرف بھاگا اور وہ اس کا تعاقب کرنے لگے۔ پھر (مطاش کی فوج) سلطان کے خیمے کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے لوٹ لیا اور سلطان کے پچازاد بھائی قجماش کو بھی مقید کر لیا جو وہاں زخمی تھا۔

شاہ مصر اور خلیفہ کی گرفتاری: بعد ازاں سلطان (برقوق) نے اس حصے پر حملہ کیا۔ (شاہ مصر) امیر حاجی خلیفہ اور قاضی تھے۔ وہ سب اس کے حکم اور قبضے میں آ گئے۔ لہذا سلطان نے ان پر اپنا ایک افسر مقرر کیا۔

بعد ازاں فریقین گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے حال سے واقف تھے۔ ایسی حالت میں سلطان اپنے سواروں کے ایک دستہ کو لے کر صفوں کو چرتا رہا اور سواروں پر حملے کرتے رہا اور ہر طرف سے انہیں بھگا تا رہا یہاں تک کہ اس کے شکست خوردہ غلام اور امراء اس کے پاس جمع ہوتے رہے اور اس کی فوج کی تعداد زیادہ ہو گئی۔

مطاش کو شکست: پھر اس نے باقی ماندہ فوج پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی وہ سب دمشق کی طرف چلے گئے مگر سلطان (اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ) شحب کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔

جب مطاش پہنچا تو اس نے نائب حاکم جنتمر کو یہ بتایا کہ اسے فتح حاصل ہوئی ہے اور سلطان امیر حاجی پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے اعلان کر لیا کہ فوجیں مسلح ہو کر اس کے استقبال کے لئے نکلیں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ (دمشق سے) باہر نکلا تو سلطان (برقوق) نے اپنی فوجوں سے اس کا مقابلہ کر کے اس (مطاش) کی فوجوں کو شکست دی اور ان کا صفایا کیا۔ اس سلسلے میں دمشق کے بہت سے عام شہری بھی مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان اپنے محاذ کی طرف لوٹ گیا۔

امیر حاجی کی دست برداری: ایسی حالت میں امیر حاجی (موجودہ شاہ مصر) نے اپنی دست برداری کا اعلان کیا اور وہ اس (برقوق) کے حق میں بادشاہت سے الگ ہو گیا۔ لہذا (برقوق) نے خلیفہ اور قاضیوں کو بلوایا۔ انہوں نے اس کی دست برداری کی شہادت دی اور یہ بھی گواہی دی کہ خلیفہ نے سلطان (برقوق) کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور اسے دوبارہ تخت نشین کیا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔

برقوق کی مصرواگی: سلطان (برقوق) شحب کے مقام پر نو دن مقیم رہا۔ چونکہ سردی شدید ہو گئی تھی اور اناج کی کمی کی وجہ سے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ اس لئے سلطان نے مصر جانے کا قصد کیا اور وہاں سے مصر روانہ ہو گیا۔ جب مطاش کو اس کی اطلاع ملی تو وہ تعاقب کے لئے نکلا۔ مگر جب قریب آیا تو پیچھے ہٹ گیا اور واپس چلا گیا۔ مگر سلطان نے اپنا سفر جاری رکھا۔ غزہ کے حاجب نے ابن بکیش کو گرفتار کر لیا تھا۔ لہذا جب سلطان وہاں پہنچا تو اس نے حاجب کو اس کا حاکم مقرر کیا اور ابن بکیش کو نظر بندی کی حالت میں اپنے ساتھ رکھا۔ سلطان مصر کے حالات بھی اس سفر میں معلوم کراتا رہا۔

محافظ قلعہ کی بغاوت

مطاش جب سلطان مصر اور فوج کو لے کر شام روانہ ہوا تھا تو اس نے قاہرہ میں اپنا جانشین اپنے دوادار (پیش کار) سرای تمر کو مقرر کیا تھا اور اسے اصطلیل کے پاس ٹھہرایا تھا اس نے قصر کا محافظ بکا اشرفی کو مقرر کیا تھا اور وہاں کے نظر بندوں پر بھی اسے نگران مقرر کیا تھا۔ لہذا انہوں نے دورانہدیشی اور سختی کا طریقہ اختیار کیا۔

چند دنوں کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ سلطان کے غلاموں کی ایک جماعت نے بغاوت کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ان کے غلاموں سے بھی ساز باز کی ہے لہذا انہوں نے رات کے وقت حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اس سے پہلے ان غلاموں نے اپنی حفاظت کے لئے مقابلہ بھی کیا تھا۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی گرفتار کیا جو ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ بہت بڑی جماعت تھی۔ اس لئے انہیں زیادہ دورانہدیشی کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ انہوں نے اعلان کر لیا کہ جس کسی کے پاس سلطان کا کوئی غلام پایا گیا اسے سزا دی جائے گی۔

انہوں نے سلطان کے بھانجے کو اس کی والدہ کے گھر سے منتقل کر کے قلعہ میں بند کر دیا اور ان امراء کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جو خیوم میں نظر بند تھے۔ چنانچہ وہ قتل کر دیے گئے۔

انہیں مطاش اور اس کی فوجوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اس لئے انہوں نے قافلوں سے خبریں معلوم کرنے کے لئے کچھ افراد کو بھیجا تاکہ وہ خبریں معلوم کر سکیں۔

انہوں نے قلعہ کے قیدیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر وہ خبر اس سے باز رہے اور ان پر سختی کرنے لگے اور خوراک پہنچانے والوں کو بھی روکنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیدیوں کی حالت ابتر ہونے لگی اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس اثنا میں کسی قیدی کو ایک ایسی زمین دوز سرنگ کا سراغ مل گیا جو اصطلیل کی دیوار تک پہنچتی تھی۔ اس سے انہیں بہت خوشی حاصل ہوئی اور انہیں رہائی کی صورت نظر آئی۔

نقب زنی: جب یکم صفر ۹۲ھ کی چہار شنبہ کی رات آئی تو وہ اس سرنگ میں گھس گئے وہاں انہیں نقب زنی کا آلہ بھی ملا جس کے ذریعے انہوں نے دیوار میں نقب لگائی اور اصطلیل کے اوپر کے حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں خاصکیہ کی جماعت میں سے ایک بزرگ آگے بڑھا۔ انہوں نے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مارے گئے اور جو باقی رہے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قلعہ کے نائب حاکم شعبان بکا کو آواز دی تاکہ یہ معلوم ہوا کہ اس نے بھی بغاوت کر دی ہے۔

حاکم مصر کا فرار: پھر انہوں نے اصطلیل کا اوپر اور نیچے کا دروازہ توڑ دیا اور سرای تمر (مطاش کے جانشین) کے گھر میں گھس گئے۔ وہ ان کی ہنگامہ آرائی سے بیدار ہو گیا اور بکا کے حالات سے خوفزدہ ہو کر فصیل کے اوپر سے صحیح وسالم کود گیا۔ وہ حاجب قطلوبغا کے پاس گیا اور (اسے ساتھ لے کر) مدرسہ حسن میں پناہ گزین ہوا۔

یہاں مطاش نے اصطلیل کی حفاظت کے لئے ترکان تیراندازوں کی ایک جماعت کو متعین کر رکھا تھا اور ان کا وظیفہ

مقرر کر رکھا تھا۔ وہ تنکوڑاں نو بہ کی نگرانی میں تھے۔

بکا کی فوج نے سرای تمر کے گھر کو لوٹ لیا اور اس کے مال و اسباب اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور اسکے گھوڑوں پر سوار ہو کر پورے شاہی اصطبل پر قبضہ کر کے رات بھر ڈھول بجاتے رہے۔ دوسرے دن بکانے ان سے جنگ کی۔ کچھ افراد نے پوشیدہ طور پر طلبخانات پر قبضہ کر لیا تھا مگر انہیں ہٹا دیا گیا۔

بکا کی فتح: سرای تمر اور قطلو بقا حاجب نے ان سے جنگ کرنے کے لئے اصطبل کی طرف فوج کشی کی اور وہاں جنگ کرنے پہنچ گئے۔ مگر (کچھ عرصہ جنگ کرنے کے بعد) وہ مدرسہ (حسن) میں پناہ گزین ہو گئے۔ اب بکا کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اس لئے اس نے مدرسہ میں آگ لگانے کے لئے آدمی بھیجے مگر ترکان فوج (تیراندازوں) نے جو وہاں تھے پناہ طلب کی۔ چنانچہ انہیں پناہ دے دی گئی۔ اس کے بعد اس کی فوج شہر میں منطاش اور اس کے ساتھیوں کے گھروں کو لوٹنے کے لئے پہنچی اور وہاں خوب فتنہ و فساد برپا کیا۔ اس اثناء میں سلطان کے وہ غلام جو قاہرہ میں چھپے ہوئے تھے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔

امراء کی نظر بندی: دوسرے دن بکانے سودون نائب مصر کو پناہ دی اور وہ اسے امیر سلاح ناصری اور درداش کے پاس لے گیا۔ بکانے ان دونوں کو نظر بند کر دیا۔ پھر سودون مدرسہ حسن پہنچا جہاں تماشا بینوں کی بہت بھیر تھی۔ اس نے سرای تمر اور قطلو بقا حاجب کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں پناہ دے دی گئی عوام نے انہیں پکڑنا چاہا۔ مگر سودون ان دونوں کو بحفاظت بکا کے پاس لے آیا۔ اس نے ان دونوں کو بھی نظر بند کر دیا۔

برقوق کی حکومت کا اعلان: جمعہ کے دن سودون نے قاہرہ میں امن عام کا اعلان کیا اور سلطان (برقوق) کے حق میں خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی دن سے سلطان (برقوق) کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

مقید امراء کی رہائی: بکانے حکم دیا کہ قید خانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں اور ان قید خانوں میں منطاش نے جن حکام اور امراء سلطنت کو بند کر رکھا تھا انہیں رہا کر دیا جائے۔ وہاں کے حاکم حسن بن کورانی نے راہ فرار اختیار کی، کیونکہ وہ سلطان کے غلاموں کے برخلاف منطاش کا آلہ کار بنا ہوا تھا۔ اس لئے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ مگر بکا کو اس کا سراغ مل گیا لہذا (گرفتار کرنے کے بعد) اس نے اسے بھی منطاش کے حامیوں کے ساتھ مقید کر دیا۔

اس نے ان تمام امراء کو رہا کر دیا جنہیں مصر، میاٹ اور خیوم میں مقید رکھا گیا تھا۔ انہی میں مکہ معظمہ کے خاندان بنو حسن کا حاکم شریف عثمان بن مقاس (امیر مکہ) بھی قید میں تھا۔ اسے بھی دیگر قیدیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ اسے بکانے اپنے بھائی ایبقا کے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر باہر بھیجا تا کہ وہ سلطان کے حالات (باہر نکل کر) معلوم کریں۔

شاہی افواج کی آمد: (ان کے جانے کے بعد) اتوار کے دن سلطان کا ایک خط بھی سیف بن محمد بن عیسیٰ العابدی کے ہاتھ وہاں پہنچا جس میں یہ تحریر تھا کہ حسب معمول سلطان کے گھروں میں غلہ اور چارہ (مناسب مقدار میں) فراہم کیا جائے۔ (اس خط میں) تمام واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ سلطان مصر روانہ ہو گیا ہے اور رملہ کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔

یکا کا بھائی ایبٹا بھی بتاریخ ۸ صفر بروز چہار شنبہ اسی قسم کی اطلاعات لے کر واپس آ گیا۔ پھر شاہی فوجیں لگا تار آنے لگیں اور صالحیہ میں مقیم ہوئیں۔ سلطان ان سے ملاقات کرنے کے لئے عکرشہ کے مقام پر پہنچا۔

برقوق کی دوبارہ تخت نشینی: سلطان (برقوق) منگل کے دن ۱۴ صفر قلعہ کے میدان میں صبح سویرے پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اسے بادشاہت کا عہدہ عطا کیا اور وہ دوبارہ تخت نشین ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اُن امراء کو بلا بھیجا، جنہیں مظاہر نے اسکندریہ میں مقید کر رکھا تھا۔ انہی میں ناصری جو بانی، ابن بیٹقا، قرا درداش، ابغا جو ہری، سودون باق، سودون طرنگائی، قردمر معلم وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے سلطان کے سامنے معذرت پیش کی۔ لہذا سلطان نے ان کا عذر قبول کر کے انہیں ان کے عہدوں پر بحال کر دیا۔ اس نے انیال یوسفی کو اتابک (وزیر اعظم) ناصری کو امیر سلاح (وزیر جنگ) جو بانی کو راس نو بہ (سپہ سالار) اور سودون کو اپنا نائب، یکا کو دودار (پیش کار) قمر قاش کو استاذ دار (وزیر مالیات) کمشیقا خاصگی کو امیر مجلس (وزیر دربار) قطلیمش کو امیر ماخوریہ (وزیر سامان جنگ) اور قلعہ کرک کے پرائیویٹ سیکرٹری کو مصر میں اپنا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیا۔ اس طرح اس نے باقی سرکاری عہدوں پر بھی (مناسب افراد) مقرر کئے۔

جب قمر قاش فوت ہو گیا تو اس نے سابق استاذ دار محمود کو اس عہدہ پر مقرر کیا۔ اور اس کی سابقہ خدمات کا خیال رکھا اور دشمن کی طرف سے جو تکالیف اسے چھٹی تھیں ان کی تلافی کی۔ یوں سلطان (برقوق) کا انتظام سلطنت درست ہو گیا اور جب اس کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے شام کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور دشمن کے فتنہ و فساد کا قلع قمع کرنے کا ارادہ کیا۔

مظاہر کی مکمل شکست

جب سلطان (برقوق) (دوبارہ) قاہرہ میں تخت نشین ہوا اور اس کا انتظام سلطنت درست ہوا تو اس نے شام کو فتح کرنے کی طرف توجہ مبذول کی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے جنگی تیاریاں شروع کیں۔ اس نے جو بانی کو دمشق کا نائب حاکم اور سپہ سالار مقرر کیا۔

سلطان نے ناصری کو حلب کا حاکم مقرر کیا کیونکہ اس نے کمشیقا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مصر کا اتابک (امیر الامراء) مقرر کرے گا۔ اس نے قرا درداش کو طرابلس کا حاکم اور یامون قلعہ وادی کو حماة کا حاکم مقرر کیا۔ یوں اس نے شام کے تمام علاقوں کے حکام مقرر کر دیئے تھے اور انہیں (فوج کشی کے لئے) تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔

آخر کار (فوج کشی) کا اعلان کیا گیا اور یہ (فوجیں) ۸ جمادی الاولیٰ ۹۲ھ میں (مصر سے) روانہ ہو گئیں مگر مظاہر نے اپنی پوری کوشش اس پر صرف کی کہ سلطان کی مصر میں (تخت نشینی کی) خبر اس کے امراء اور افسروں سے پوشیدہ رہے مگر آخر کار یہ خبر ظاہر ہو کر مشہور ہو گئی تو ان کے رجحانات سلطان کی طرف ہو گئے۔

۱۔ اصل کتاب میں ۴ صفر تحریر ہے مگر یہ تاریخ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ اوپر یہ تحریر ہے کہ بتاریخ ۸ صفر یکا کا بھائی ایبٹا اسی قسم کی اطلاعات لے کر واپس آیا لہذا سلطان کی آمد اس کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ اس لئے ہم نے ترجمہ میں ۴ لکھی ہے کیونکہ رابع کے بعد عشر کا لفظ کتاب کے لکھنے سے رہ گیا ہوگا۔ [مترجم]

حلب کا محاصرہ: اس اثناء میں اس نے امیر میازتمر کو حلب کا نائب حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ لہذا اہل کافوسا اکٹھے ہو گئے اور اس نے کمشیتقا کے قلعہ کا پانچ مہینے تک محاصرہ کیا اور محاصرہ کو سخت کر دیا۔ یہاں تک کہ قلعہ کا دروازہ اور پلن بھی جلادیا اور تین مقامات کی طرف سے اس کی فسیل میں نقب زنی کی چنانچہ ایک مقام پر جہاں نقب لگ گئی تھی، فریقین کے درمیان شمعوں کی روشنی میں دو مہینے تک لگا تار جنگ ہوتی رہی۔

طرابلس پر منطاش کا قبضہ: اس کے بعد اس نے ابن ایمازتر کمانی کی سرکردگی میں طرابلس کی طرف فوجیں بھیجیں۔ چنانچہ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور حاجب الحجاب سندمر کے قبضہ سے اس شہر کو چھین لیا۔ وہ سلطان ظاہر (برقوق) کا حامی بن کر اس شہر پر قابض تھا۔ لہذا جب یہ علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے قشتر اشرفی کو اس کا حاکم مقرر کیا۔ پھر بعلبک کی طرف محمد بن سندمر اس کے رشتہ داروں کو اور اس کی فوج کو اپنے لشکر کے ساتھ بھیجا تو منطاش نے دمشق میں ان سب کو مرواڈالا۔

ابقاصغدی کی اطاعت: پھر اس نے قشتر اشرفی نائب حاکم طرابلس کو حکم دیا کہ وہ صغد کے محاصرہ کے لئے فوج کشی کرے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا مگر وہاں کی فوجوں نے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی۔ لہذا منطاش نے اپنی سلطنت کے بڑے سپہ سالار ابقاصغدی کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ چنانچہ وہ سات سو سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ مگر جب اسے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ سلطان مصر میں تخت نشین ہو گیا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ شامل ہو کر (سلطان کا) مطیع و فرماں بردار ہو جائے چنانچہ اس نے اس بارے میں سلطان سے خط و کتابت کی اور جب وہ صغد پہنچا تو وہاں کے نائب حاکم کی اطاعت قبول کر کے وہ منطاش کے حامیوں اور اس کی فوج سے الگ ہو گیا اس نے رات صغد کے باہر گزاری، مگر دوسرے دن وہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں ماہ جمادی الآخرہ کے وسط میں پہنچ گیا۔ اس وقت شام کے امراء قلعہ کے باہر جو بانی کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے خیمہ زن تھے۔ لہذا جب وہ مصر پہنچا تو سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے ہزاری منصب کے امراء میں شامل کر لیا۔

مخالفوں کا قتل: جب اس کے ساتھی صغد سے دمشق واپس آئے تو منطاش پریشان ہو گیا۔ کیونکہ اسے اس وقت لوگوں کی مخالفت کا علم ہوا اور وہ اپنے حامیوں سے بدگمان ہو گیا۔ لہذا اس نے امراء اور دمشق کے نائب حاکم جنتمر اور ہزاری منصب کے امیر ابن جرجی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے ابن قتیق حاجب کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ان امراء میں قاضی محمد بن قرشی بھی شامل تھے۔ اس کی اس (حرکت) سے بہت ناراض ہو گئے اور اس سے بھاگ کر سلطان کی پناہ میں چلے گئے۔ ان میں محمد بن سندمر بھی شامل تھا۔ بدرالدین بن فضل اللہ بھی جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا، نیز ناظر لشکر بھی بھاگ گئے۔ یہ لوگ شجب کے معرکہ کے موقع پر دمشق چلے گئے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ سلطان اسی دن اس پر قبضہ کر لے گا وہ منطاش کے ماتحت رہے انہوں نے دوبارہ بھاگنے کا ارادہ کیا مگر وہ نہیں بھاگ سکے۔

اب منطاش نے سلطان سے متعلقہ ان غلاموں کو قتل کرنا شروع کیا جو قلعہ میں مقید تھے اس نے چراکہ کی ایک جماعت کو ذبح کر دیا۔ اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔

شاہی لشکر کی روانگی: مصر سے فوجی افسران شاہی لشکر کو لے کر جو بانی کی قیادت میں روانہ ہوئے اور مختلف منازل طے کرتے رہے۔ ہر منزل پر دمشق کے امراء بھاگ کر (شاہی لشکر میں) شامل ہو جاتے تھے سب سے آخر میں عربوں کا حاکم ابن نصیر اپنے والد کی طرف سے مطیع ہو کر اس شاہی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔

مطاش کا فرار: اب مطاش کو اپنی (ناکامی کا) اندیشہ ہوا اور اس کے ساتھیوں پر خوف و ہراس چھا گیا۔ لہذا وہ ماہ جمادی الآخرہ کے وسط میں اپنے خواص اور دوستوں کو لے کر دمشق سے بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھ مال و دولت اور سامان کے ستر صندوق تھے اس نے اپنے ساتھ محمد بن انبال کو بھی لے جانا چاہا مگر اس کے غلاموں کی ایک جماعت نے بغاوت کر دی اور وہ اسے اسی کے باپ کے پاس واپس لے گئے۔

عربوں کی پناہ میں: امیر آل فضل یحییٰ بن جبار اس زمانے میں اپنے قبائل میں مقیم تھا اور اس کے ساتھ آل مرو کے قبائل بھی رہتے تھے جن کا امیر عنقا تھا لہذا مطاش ان کے پاس پہنچ کر پناہ کا طالب ہوا تو ان (عرب قبائل) نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔

قلعہ دمشق کی تسخیر: جب مطاش دمشق سے بھاگ گیا تو انہیں اپنے قید خانے سے نکل کر قلعہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے ساتھ سلطان کے غلام بھی تھے۔ اس نے جو بانی کو یہ (مطاش کے فرار کی) اطلاع پہنچائی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ دمشق پہنچا اور اپنے (سابقہ) کوسنبھال لیا۔ اس نے مطاش کے ماتی ماندہ حامیوں اور ملازموں کو بھی دیگر اسیروں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔

طرابلس سے طبقا حلبی اور مرداش یوسفی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں مطاش نے بلوایا تھا مگر وہ ان کی آمد سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔

فتح حلب: جب ایماز تمر حلب کا محاصرہ کر رہا تھا اور اہل کانفوسا اس کی مدد کر رہے تھے تو اسے یہ خبر (مطاش کے فرار کی) ملی۔ لہذا اس نے راہ فرار اختیار کی اور وہ مطاش کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد کمشیقا پل کی مرمت کرنے کے بعد ان لوگوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور اپنے ساتھ حاجیوں کو لے کر آیا۔ اس نے کانفوسا کے باشندوں کے ساتھ جنگ کی ان کے ساتھ مطاش کے حامی بھی تھے۔ یہ جنگ تین دن تک جاری رہی اس کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ کمشیقا نے اہل کانفوسا کے آٹھ سو افراد سے زائد کو قتل کیا اور کانفوسا کے مقام کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ ویران ہو گیا۔ اس نے قلعہ کی تعمیر کر کے اسے مستحکم کیا اور اس میں سامان رسد و خوراک بھر دیا۔

شامی شہروں پر قبضہ: جو بانی نے طرابلس کی طرف فوجیں بھیجیں جنہوں نے جنگ کے بغیر اس شہر کو مطاش کے نائب حاکم قشتر اشرفی سے چھین لیا۔ اس طرح حماة اور حمص پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بانی نے جو دمشق کا نائب حاکم اور شامی علاقوں کا گران حاکم تھا۔ عرب قبائل کے حاکم یحییٰ بن جبار کو پیغام بھیجا کہ وہ مطاش کو اپنے علاقے سے نکال دے اور اسے اس کے حوالے کر دے مگر اس نے انکار کیا اور معذرت پیش کی۔ لہذا وہ ناصری اور دیگر امراء کے ساتھ فوج لے کر دمشق سے روانہ ہوا اور مصر کا قصد کیا۔ جب اس کی فوجیں حمص پہنچیں تو وہاں مقیم ہو گئیں۔ انہوں نے یحییٰ کو پیغام بھیج کر (مطاش کو

نہ بھیجنے کی (معذوری کی وجہ طلب کی تو اس نے غرور و تکبر کا اظہار کیا اور صاف انکار کر دیا۔

ادھر دمشق سے اٹس نے پیغام دیا کہ بندر اور جنتمر کے حامی گروہ بغاوت کا قصد رکھتے ہیں لہذا ناصری دمشق روانہ ہوا اور اس نے ان کا قتل عام کیا۔ پھر وہ اپنے فوجی مرکز کی طرف لوٹ آیا اور وہاں سے انہوں نے سلمیہ کی طرف کوچ کیا۔

عرب قبائل سے جنگ: (عرب قبائل کے امیر) عیبر نے اپنے رویہ پر اصرار کیا۔ فریقین میں سفیروں کا تبادلہ ہوا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر کار فریقین میں سخت جنگ ہوئی (شاہی) فوجوں نے مطاش اور عرب کی فوجوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے کر خیموں تک بھگا دیا۔ درداش نے مطاش کا تعاقب کر کے اسے علاقہ سے باہر نکال دیا اور عرب قبیلہ کوچ کر کے چلا گیا۔ پھر انہوں نے حملہ کیا مگر وہ ان کے حملہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ ان کے ساتھ آل علی کا پورا گروہ تھا۔ انہوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور انہیں شکست ہو گئی۔

جوبانی کا قتل: جوبانی کے غلام اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لہذا عرب قبائل نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے (اپنے سردار) عیبر کے پاس لے گئے۔ اس نے اسے (جوبانی کو) قتل کر دیا۔

عرب قبائل کا قتل عام: اب ناصری دمشق چلا گیا۔ اس نے امراء کی ایک جماعت کو اسیر بنا لیا اور ان میں سے ایبقا جو ہری مامون المعلم اور دوسرے افراد کو قتل کر دیا۔ چونکہ عرب قبائل نے ان کے خیموں اور سامان کو لوٹ لیا تھا اس لئے ناصری دمشق چلا آیا تھا۔ اس نے ایک ہی رات نزاری تھی کہ دوسرے دن صبح سویرے آل علی اپنے قبائل کو لے کر حملہ آور ہوئے۔ اس نے انہیں شکست دے کر ان کی ایک جماعت کا قتل عام کیا۔ یوں اس نے جنگ میں ان کی حرکتوں کا انتقام لے لیا۔

ناصری کا تقریر: بعد ازاں سلطان (برقوق) نے اس سال کی پندرہویں شعبان کو ناصری کو دمشق کا نائب حاکم مقرر کیا اور اس نے وہاں کا انتظام حکومت سنبھال لیا۔

محمود کے تقریر اور کارنامے: محمود ہونہار نو خیز ترک تھا وہ ترکوں کے ایک خاندان کرای منصور کی نسل سے تھا۔ اس نے حکومت مصر کے زیر سایہ پرورش پائی تھی اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا رہا تھا اس نے بہت سے امراء اور وزراء کے ماتحت کام کیا یہاں تک کہ وہ معراج کمال تک پہنچ گیا۔ اس نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ سلطان مصر نے اسے اپنے لئے انتخاب کیا اور اسے مختلف خدمات میں آزماتا رہا اور وہ ہر مرحلے میں کامیاب ثابت ہوا اور نہایت محنت اور دلجمعی کے ساتھ سلطان کی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ تا آنکہ جب سلطان کو اس کی صلاحیتوں کے بارے میں کامل یقین ہو گیا تو اس نے قید خانوں کے معاملات اور سرکاری شعبوں کے دفاتر کو درست کرنے کا کام اس کے سپرد کیا۔

محصولات کا افسر: اس اثناء میں استاذ الدار (وزیر مال) بہادر منجکی ۹۰ھ میں فوت ہو گیا تو سلطان مصر نے اسے اپنے محل اور سلطنت کا نگران مقرر کیا اور محصولات کے دفاتر کے ملازموں کا نگران..... افسر بھی مقرر کیا تاکہ وہ شاہی حقوق کی نگرانی کرے اور خزانوں کا.....

قاروان کی طرح محافظ بن کر مالیات کی نگرانی کرے اور اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے کر سرکاری محاسبوں کے حسابات کو چیک کرے اور نہ صرف آسان کاموں کو اپنے فہم و دانش اور بصیرت کے ذریعے حل کرے بلکہ پیچیدہ اور مشکل کاموں کو بھی آسان بنا سکے اور مشکل مسائل بھی حل کر سکے۔

سرکاری آمدنی میں اضافہ: اس نے ان فرائض کو جو سلطان نے اس کے سپرد کئے تھے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اس نے محصولات کی آمدنی میں اس قدر اضافہ کیا کہ سرکاری خزانے اسے جمع کرنے میں تنگ ہو گئے اور یہ (آمدنی) نہ صرف سلطان کے تمام مصارف امور سلطنت کے اخراجات اور اس کے غلاموں اور فوجوں کے لئے کافی ہو گئی بلکہ وہ ان کی تنخواہوں اور وظائف میں اضافہ اور توسیع کا ذریعہ بھی ثابت ہوئی اور اس اضافے کی بدولت ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ جس سے سلطان نہایت ہی مطمئن اور مسرور ہوا۔

(یہ کامیابی دیکھ کر) دفتر والے اور دیگر ملازمین حسد کرنے لگے۔ انہوں نے چغچ خوری کے تیر چلائے اور فریاد کرنے والے ضرورت مندوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ مگر وہ اس معاملے میں بھی سونے کی طرح کھرا نکلا اور اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ثابت ہو سکا۔

ضبط مال اور قید: بعد ازاں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے اسے (محمود کو) زوال آیا اور وہ نظر بند ہو کر قید خانوں کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا اور اسے گونا گوں تکالیف میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے مال و دولت کو ضبط کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ناصری نے جو اس وقت باختیار حاکم بنا ہوا تھا محمود سے ہونے کی اشرافیوں (نانیر) کے پانچ خزانے چھین لئے اور منطاش کے بچپن خزانوں پر قبضہ کیا۔

سابقہ عہدہ پر بحالی: ان تمام تکالیف اور آزمائشوں میں اس کا زرخاں کندن بن کر نکلا اور (اس کی قسمت کا) چاند گہن سے نکل آیا جب کہ سلطان (برقوق) مصیبتوں اور زوال کے بعد خود مختار بن کر اس کے تحت پر دوبارہ بیٹھا اور اس نے اسے سابقہ عہدہ پر بحال کیا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیئے۔

مالیات کا انتظام: اس نے سلطنت کے مالیات کو اس طرح درست کیا کہ (ملازمین کی) تنخواہ اور وظائف میں اضافہ اور توسیع ہوئی گئی اور محصولات بے اندازہ اور بے حساب وصول ہونے لگے۔ اس نے اپنی قابلیت اور دور اندیشی سے آمد و خرچ کا حساب اس طرح درست کیا کہ سلطنت کے مالیات کا توازن پہلے کی طرح قائم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ داد و بخش کا معیار بدستور برقرار رہا وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا اور جو کوئی اس کے پاس کسی ضرورت سے آتا تھا تو اس سے وہ نہایت شرافت اور فیاضی کا سلوک کرتا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سلطنت کے لئے نیک نامی کا باعث بنا اور خواص کے لئے تو وہ ان کی پناہ گاہ تھا۔

وزیر مالیات: اس کے حریفوں نے اس کے خلاف بہت چغچ خوری کی مگر سلطان کو اس پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ ان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی اور مخالفوں کے لئے تمام راستے بند ہو گئے۔ اس کے برعکس اس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ سلطان کو اس کی صلاحیت اور قابلیت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تمام اہم کام اس کے سپرد کر

دیئے، بالخصوص سلطنت کے مالیات کا مکمل انتظام اس کے سپرد کر دیا تھا چنانچہ اس نے آمد و خرچ کا حساب اس طرح برقرار رکھا کہ نہ تو کوئی فضول خرچی ہوتی تھی اور نہ اہم کاموں کو انجام دینے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا منصب بلند ہوتا گیا اور جب سلطان مغل بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے شام کے سفر پر روانہ ہوا تو وہ اس وقت تک وہ بدستور اپنے اعلیٰ عہدے پر کام کرتا رہا۔

محاصرہ حلب و عنتاب

جب شاہی لشکر کو سلمیہ کے مقام پر شکست ہوئی تو یحیر (عرب قبائل کا سردار) اپنے قبیلوں منطاش اور اس کی فوج کو لے کر حلب کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ پھر یحیر اپنی جاگیر کے شہر سرمین کی طرف پہنچا تا کہ حسب معمول وہاں کی اراضی کو اپنی قوم میں تقسیم کر دے، مگر اس سے پیشتر حلب کا نائب حاکم کمشیقاً ۲ سے ترکمانی فوج میں تقسیم کر چکا تھا جو اس کی ملازمت میں تھی۔ جب یحیر وہاں پہنچا تو یہ فوج حلب کی طرف بھاگ گئی۔ راستے میں انہیں احمد بن المہدار کا لشکر ملا جو یحیر کے مقابلہ کے لئے آ رہا تھا (اسے دیکھ کر) یہ فوج واپس آ گئی اور ان کا علی بن یحیر (اور اس کی فوج سے) مقابلہ ہوا انہوں نے اسے شکست دے کر اس کے کچھ کامیوں کو مار ڈالا۔ اب یحیر اپنے قبائل کی طرف لوٹ گیا اور ان سب نے حلب کی طرف کوچ کیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں شدید محاصرہ کرتے رہے۔

یحیر کی معذرت: پھر کمشیقاً نائب حاکم حلب سے کہنے لگا کہ کتابت کی اور اپنی طرف سے (محاصرہ سے) دست بردار ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے افعال کے بارے میں معذرت پیش کی اور جو بانی اور اس کی فوج کو جو جنگ میں شریک تھی مجرم قرار دیا اور اپنے حاجب عبدالرحمن کے ذریعے پناہ طلب کی۔ کمشیقاً نے اسے سلطان کے پاس بھیجا اور یحیر کی شرائط سے آگاہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی۔

منطاش کے دیگر حالات: جب منطاش کو محاصرہ حلب کے موقع پر ان بانوں کا علم ہوا تو وہ اس سے بدگمان ہو گیا تاہم اس نے یحیر کے ساتھ یہ چال چلی کہ اس نے یحیر کو یہ بتایا کہ وہ ان کے قریب ترکمانوں کی فوج پر حملہ کرنے چاہتا ہے لہذا اس نے عربوں کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ان کے سات سو افراد اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ در بند سے آگے بڑھا تو اس نے عرب فوج کو گھوڑوں سے اتار کر پیادہ پا کر دیا اور ان کے گھوڑے لے کر ترکمانوں کے پاس چلا گیا اور مرعش کے شہر میں مقیم ہو گیا، جس کا سردار سولی (ترکمانوں کا حاکم) تھا۔

عنتاب پر حملہ: (لاچار ہو کر) عرب فوجیں پیادہ یحیر کے پاس آ گئیں اور یحیر اپنے راستے کی طرف لوٹ گیا۔ ادھر منطاش حلب کے ایک قلعہ کی طرف جس کا نائب عنتاب تھا پہنچا۔ اس کا نائب حاکم محمد بن شہری تھا۔ اس نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کا نائب حاکم چند دنوں تک قلعہ میں محصور رہا مگر منطاش بھی ثابت قدم رہا اور اس کے ساتھیوں کا قتل عام کرتا رہا اور وہاں کے امراء کی ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اتنے میں حلب حماة اور صغد سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے فوجیں آ گئیں تو منطاش مرعش کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے بلا وروم کی طرف منتقل ہو گیا۔ مگر اس وقت اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔

۳۳ھ میں ان کی بڑی تعداد سلطان کی مطیع و فرمانبردار ہو گئی۔ ترکمانوں کے امیر سولی بن دلقادر نے ۱۰ ذوالحجہ کو سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ سلطان نے اس کو پناہ دے کر اسے حسب سابق بلستین کا حاکم مقرر کر دیا۔

کمشیقا کے حالات

کمشیقا حموی پہلے بیچا کا راس نوبہ (غلاموں کا سردار) تھا اور طرابلس کا نائب حاکم تھا۔ سلطان نے اسے معزول کر کے اسے دمشق میں مقید کر دیا تھا۔ جب ناصری دمشق پر قابض ہو گیا تو اسے نظر بندی سے رہا کر دیا اور وہ دیگر افراد کے ساتھ مصر آ گیا جب وہ شام کے تمام علاقوں کا حاکم بن گیا تو اس نے احمہ کے وسط میں اپنے بجائے اسے حلب کا حاکم مقرر کیا۔ جب سلطان (برقوق) کے عہد زوال ختم ہوا اور اس نے دمشق کا قصد کیا تو کشیقا نے سلطان کو اپنی حمایت اور اطاعت کا پیغام بھیجا اور اس نے حلب اور اپنی عملداری میں سلطان کی حمایت کا اعلان کیا اور جب سلطان دمشق کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کیا تو کشیقا نے اس کی تمام ضروریات پوری کیں اور پھر وہ بنفس نفیس حلب کی امدادی فوجیں لے کر اس کے پاس پہنچا اور تمام امدادی جنگی سامان لے کر آیا اور نہ صرف اس کی تمام جنگی خامیوں کو دور کیا بلکہ اس کی شاہی شان و شوکت کو قائم کیا۔ سلطان نے اس کے تمام کارناموں کا بہت شکر یہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مصر کا اتابک (امیر الامراء) مقرر کرے گا۔

حلب میں محصور: اس کے بعد شیب کی جنگ ہوئی جس میں کشیقا شکست کھا کر حلب بھاگ گیا اور وہاں محصور ہو گیا۔ مطاش کے اتابک میماز تمر نے اس شہر کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیا۔ جب مطاش دمشق سے بھاگ کر عرب قبائل میں پناہ گزین ہوا تو میماز تمر نے حلب کا محاصرہ اٹھالیا۔

اس کے بعد جو بانی نے جنگ کی جس میں وہ مارا گیا۔ بعد ازاں مطاش اور بصر نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور عرصہ درز تک اس کا محاصرہ کرتے رہے۔ آخر کار جب ان دونوں میں اختلاف پیدا ہوا تو مطاش ترکان قوم کے علاقے کی طرف بھاگ گیا اور بصر سلمیہ کے شہر کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے سلطان سے پناہ طلب کی اور ماہ شوال کے وسط میں وہ سلطان کا مطیع و فرمانبردار ہو گیا۔

فصیلوں کی مرمت: بہر حال جب یہ لوگ محاصرہ سے دست بردار ہوئے تو کشیقا نے قلعہ سے نکل کر اس کی شکستہ حالت کو درست کیا۔ اس نے (باغیوں کے مرکز) بالقوسا کو تاجہ و ویران کیا اور وہاں کے باشندوں کا صفایا کیا اس نے حلب کی فصیلوں کی مرمت کی اور ان کے رخنوں کو دور کیا۔ یہ فصیلیں ہلاکو کے زمانے سے شکستہ اور خراب حالت میں تھیں۔ اہل حلب نے اس کی مرمت کے اخراجات کے لئے دس لاکھ درہم جمع کر دیئے تھے اور وہ تین ماہ میں اس کام سے فارغ ہوا۔ جب سلطان کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور اس کا نظم و نسق درست ہوا تو اس نے ماہ ذوالحجہ ۹۲ھ میں کشیقا کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے بجائے حلب کا حاکم قرار مراداش کو مقرر کیا جو اس سے پہلے طرابلس کا حاکم تھا۔ طرابلس کا حاکم اس کے

بجائے انیال صغیر کو مقرر کیا گیا۔

مصر میں کمشیتقا کا خیر مقدم: کمشیتقا حلب سے روانہ ہو کر مصر ۹ صفر ۹۳۳ھ کو پہنچ گیا۔ سلطان اس کی آمد سے بہت خوش ہوا اور نائب کے ہمراہ امراء مصر کو اس کے خیر مقدم کے لئے بھیجا۔ جب وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس کا نہایت گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اتا بک انیال سے اعلیٰ منصب اسے عطا کیا اور اسے منجک کے محل میں آباد کیا اور محل کو نہایت عمدہ ساز و سامان سے آراستہ کیا اور اسے نہایت عمدہ پوشاکیں بھیجیں اور بھاری گاڑیوں کے ساتھ نہایت اچیل گھوڑے تحفہ میں دیئے نیز امراء مصر کو بھی حکم دیا کہ وہ اسے تحائف پیش کریں۔ چنانچہ وہ اسے تحائف بھیجنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے اور بیش قیمت تحائف پیش کئے۔

امراء شام میں سے اس کے ہر کاب حسن کشکی اور طبقا اشرفی بھی تھے۔ سلطان نے ان دونوں کی بھی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد کمشیتقا مصر میں نہایت اعلیٰ مناصب پر فائز رہا اور جب ماہ جمادی الاولیٰ ۹۳۴ھ میں اتا بک مصر انیال فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کے بجائے اسے سلطنت مصر کا اتا بک مقرر کیا اور شجب کی جنگ کے موقع پر اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اتا بک کے فرائض میں ہسپتال (پیارستان) کی نگرانی بھی شامل تھی لہذا یہ کام بھی اس کے سپرد کیا گیا۔

اتتمش کے حالات: سلطان نے اتمش نجاشی کو جو سلطنت کا اتا بک تھا (اس عہدے سے) معزول کر دیا تھا اور وہ ۹۳۷ھ میں ربیع الاول کے وسط میں فوجوں کو لے کر ناصری اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے شام روانہ ہوا تھا کیونکہ اس نے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ فریقین کے درمیان دمشق کے مضافات میں مرجع کے مقام پر جنگ ہوئی اس میں (سلطانی) فوجوں کو شکست ہوئی اور اتمش نے قلعہ دمشق میں پناہ لی۔ کیونکہ سلطان کی طرف سے ضرورت کے وقت اسے تحریری اجازت حاصل تھی لہذا وہ وہاں محصور ہو گیا۔

دوسرے دن قلعہ کے نائب حاکم ابن الحمصی نے ہتھیار ڈال دیئے تو ناصری نے قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اتمش کو گرفتار کر کے وہاں نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد ناصری مصر پہنچ کر وہاں کا حاکم بن گیا۔

نظر بندی سے رہائی: جب سلطان (برقوق) ماہ صفر ۹۳۲ھ میں دوبارہ مصر کا بادشاہ ہوا تو اس وقت اتمش قلعہ دمشق میں نظر بند تھا لہذا جو بانی نے فوج کشی کر کے ماہ جمادی الاخرہ میں اتمش کو اس کی نظر بندی سے رہا کیا۔ اسی اثناء میں سلطان کے غلاموں نے اس قید خانہ کو توڑ ڈالا۔ جہاں وہ قلعہ دمشق میں مقید تھے اور وہاں سے نکل کر جو بانی کی آمد سے پہلے اتمش کے ساتھ مل گئے۔ جو بانی کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے سلطان کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس وقت تک قلعہ میں رہے جب تک کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے سے فارغ ہو۔

اس کے بعد جو بانی کی مطاش کے ساتھ جنگ ہوئی جس کے ساتھ عرب قبائل بھی تھے اس جنگ میں جو بانی مارا گیا اور اس کے بجائے ناصری دمشق کا حاکم ہوا۔ اس کے بعد عرب قبائل اس سے الگ ہو گئے تو مطاش انہیں چھوڑ کر ترکمانوں کے علاقے میں پناہ گزین ہوا۔ یوں شام کے علاقے بھی سلطان کے ماتحت ہو گئے اور اس کی سلطنت مستحکم اور وسیع ہو گئی۔

امراء دمشق کی آمد: اب سلطان نے امیر اتمش کو قلعہ دمشق سے بلوایا۔ چنانچہ ۸ ربیع الاول ۹۳۳ھ میں اسے

تاریخ ابن خلدون

واپس لانے کے لئے سلطان کا ایک غلام قنوبائی روانہ ہوا اور وہ اسی سال ۴ جمادی الاول کو مصر پہنچ گیا۔ اس کے ہمراہ کاب دمشق کا حاجب الحجاب بھی تھا اور وہ امراء بھی تھے جو شام میں مقید تھے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) جلتز نائب حاکم دمشق (۲) اس کا فرزند (۳) اس کا بھانجا (۴) اس کا استاذ دار (مشیر مالیات) طبقا (۵) دمرداش یوسفی نائب حاکم طرابلس (۶) طبقا علی (۷) قاضی احمد بن القریشی (۸) فتح الدین بن الرشید (۹) پرائیویٹ سیکرٹری (۱۰) دیگر امراء۔ یہ سب چھتیس افراد تھے۔

جب ایشیا مصر پہنچا تو سلطان نے اس کی بہت عزت افزائی کی۔ پھر حاجب (دربان) نے ان قیدیوں کو پیش کیا جو اس کے ہمراہ تھے۔ سلطان نے کچھ لوگوں کو دھمکایا۔ اس کے بعد وہ قلعہ میں مقید رکھے گئے تاکہ وہ سیاسی طور پر قتل کے مستحق تھے۔ انہیں دوسروں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔

سلطان افریقیہ سے تعلقات

سلطان (مصر) اور سلطان افریقیہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بکر بن ابی حفص (موحدین) کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ چنانچہ بالعموم دونوں طرف سے تحائف کا تبادلہ ہونے لگا۔

جب تونس میں سلطان (برقوق) کے زوال اور اس کی نظر بندی کی اطلاعات پہنچیں تو تونس کا سلطان بہت رنجیدہ ہوا اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگا اور وہ اس کے حالات معلوم کرتا رہا اور اہل تونس میں سے جو مسافر جاتے تھے ان کے ذریعے حالات دریافت کرتا رہا۔ تاکہ اسے اصل حقیقت کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان مصر کو نخصی کے اسباب عطا فرمائے اور وہ دوبارہ تخت نشین ہو گیا ہے۔ سلطان تونس اس خبر کو سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس نے اسے مبارک باد دیئے اور دوستانہ تعلقات میں اضافہ کرنے والے تحائف کے ساتھ ساتھ خاندان موحدین کے بزرگ محمد بن علی بن ابی ملال کے دوستانہ پیغام کے ساتھ اپنی کوچیجا۔

سفیر تونس کی آمد: یہ شاہی قاصد ۹۲ھ میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں (مصر) پہنچا۔ سلطان اس سے اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور جب وہ ساحل بولاق کے قریب سمندر سے اترتا تو سلطان کا استاذ دار محمود (وزیر مالیات) اس کے استقبال کے لئے پہنچا اور شاہی اصطبل کے سامنے رمیلہ کے مقام پر طشتر کے گھر پر اس کے قیام کا بندوبست کیا گیا اور (اس کی مہمان داری میں) جس قدر رقم خرچ کی گئی وہ اس جیسے (الیچیوں پر) اس سے پہلے نہیں صرف کی گئی تھی۔ اس قاصد نے سلطان سے حج پر جانے کے لئے درخواست کی تو سلطان نے اسے حج کرایا اور (شاہ تونس کو) منقش ریشم اور حریری پوشاکیں اور ایسے ہتھیار بھیجے جو بے نظیر تھے۔ وہ قاصد ماہ ربیع الاول کے آخر میں ۹۳ھ میں واپس (اپنے وطن) چلا گیا۔

منطاش کے ساتھ آخری جنگ

ادھر منطاش عرب قبائل سے الگ ہو کر ترکمانوں کے علاقے میں آوارہ پھرتا رہا۔ پھر اس نے ۹۳ھ کے وسط

میں دمشق کا قصد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ ارادہ ناصری کے اشارہ پر کیا تھا یوں وہ اسے دھوکا دے کر اسے گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مطاش مرعش سے حلب کے علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس کی آمد کی خبر حماة پہنچی تو وہاں کا نائب حاکم طرابلس کی طرف بھاگ گیا۔ لہذا مطاش حماة میں (جنگ کے بغیر) داخل ہو گیا اور پناہ دینے کا اعلان کرایا۔ پھر وہاں سے اسی طرح حمص پہنچا، پھر وہ بعلبک آیا۔ وہاں کا نائب حاکم دمشق بھاگ گیا۔ لہذا اب دمشق کا نائب حاکم فوج لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لئے دمشق سے نکلا۔ اس نے زیدانی کے راستے سے کوچ کیا۔ مطاش راستہ بدل کر دمشق پہنچ گیا۔ احمد شکار ابن ابوبندمر بھی اس طرف پہنچا تو خوارزمیہ اور بندمریہ فوج نے بغاوت کر دی اور انہوں نے اس کے لئے شہر کے دروازے کھول دیئے۔ چنانچہ جب وہ گھوڑوں کے اصطبلوں کے پاس سے گزرا تو اس نے تقریباً آٹھ سو گھوڑے (وہاں سے اپنے لئے) نکال لئے۔

طویل جنگ: دوسرے دن مطاش بھی اس کے پیچھے آیا۔ اس نے قصر اہلق میں قیام کیا۔ اس کے ساتھ جو امراء اور افسر تھے وہ ان گھروں میں جو محل کے چاروں طرف تھے مقیم ہوئے۔ نیز کچھ لوگوں نے جامع شکران اور جامع پتھام میں بھی قیام کیا۔ اس نے لوگوں کا مال ضبط کرنا اور ان کے ٹیکس عائد کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لئے سارا دن صرف کیا اتنے میں ناصری فوجیں لے کر وہاں پہنچ گیا اور شام تک کی مرتبہ فریقین میں جنگ ہوئی اور دوسرے دن بھی جنگیں ہوتی رہیں تا آنکہ رجب اور شعبان کے پورے مہینوں میں جنگ لگا تارہوئی اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے محاذ پر ڈٹا رہا۔

فوجی تیاری: جب سلطان کو یہ اطلاع پہنچی تو اسے ناصری پر بدگمانی ہوئی اور اس نے ناصری کو مطاش کی جنگ میں سستی کرنے کا ملزم قرار دیا اور خود (اس کے مقابلہ کے لئے) تیاری کی۔ لہذا اس نے ۱۰ ماہ شعبان کو (اس مقصد کے لئے) فوجی بھرتی کا اعلان کرایا۔ اس نے ان مخالف امراء کو قتل کرایا جو قید میں تھے اور ست قسم کے امراء کو اسکندریہ اور دمياط کی طرف بھیج دیا اور (فوج لے کر) خود ماہ شعبان کی بیس تاریخ کو (شام کی جنگ کے لئے) روانہ ہوا۔ اس نے زیدانیہ کے مقام پر قیام کیا تاکہ فوجوں کی تمام خامیوں کو دور کیا جائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔

سلطان نے قاہرہ میں اتا بک کشیقہ حموی کو جانشین مقرر کیا اور اسے اصطبل کے قریب ٹھہرایا اور اسے اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے (کسی عہدہ پر) مقرر کرے اور جسے چاہے معزول کر دے۔ اس نے قاہرہ میں اتا بک کی مدد کے لئے اس کے ماتحت امراء کی ایک جماعت کا تقرر بھی کیا۔ اس نے نائب سودون کو قلعہ میں ٹھہرایا اور وہاں نو غلاموں میں سے چھ سو افراد کو متعین کیا۔

ناصری کی شکست: سلطان نے اپنے ساتھ چاروں (فقہی مسلک) کے قاضیوں اور مفتیوں کو لے گیا تھا۔ اس نے اس سال کے یکم رمضان المبارک کو شام کے ارادہ سے کوچ کیا۔ چنانچہ اس ماہ کی چوتھی تاریخ کو یہ اطلاع ملی کہ مطاش کو جب یہ اطلاع ملی کہ سلطان نے مصر سے فوج کشی کی ہے تو وہ دمشق سے امیر آل مراد عنقاء کو لے کر بھاگ گیا جو مطاش کی امداد کے لئے آیا اور اس کے بعد فریقین میں مقابلہ ہوا۔ جس میں ناصری کو شکست ہوئی اور شام کے امراء میں سے تقریباً پندرہ افراد مارے گئے جن میں ابراہیم بن محجک بھی شامل تھا۔

یمازتمر کی علیحدگی: دوسرے دن ناصری منطاش کے تعاقب کے لئے نکلا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ (علاقہ کے) کسان دمشق کے گرد و نواح میں اس کا محاصرہ کر رہے ہیں لہذا منطاش ناصری سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوا، مگر اس کا اتا بک (بڑا افسر) یمازتمر اکثر فوج کو لے کر ناصری کے لشکر سے جا کر مل گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منطاش نے راہ فرار اختیار کی۔ اب ناصری دمشق لوٹ آیا تھا۔ اس نے یمازتمر کی تعظیم و تکریم کی اور (اسے ترقی دلانے کے) اچھے وعدے کئے۔ اتنے میں اسے یہ خبر ملی کہ سلطان شام کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے لہذا ناصری اس کا استقبال کرنے کے لئے روانہ ہوا اور قانون کے مطابق اس سے ملاقات کی سلطان نے اس کی بہت عزت افزائی کی اور جب وہ سواری سے اترا تو وہ خود بھی پا پیادہ ہو گیا اور بغل گیر ہونے کے بعد اس نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ پھر اسے دمشق کی طرف لوٹا دیا۔

سلطان کی دمشق میں آمد: اس کے بعد سلطان (اپنی فوجوں کے ساتھ) اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا تا آنکہ سلطان بھی دمشق پہنچ گیا۔ اب ناصری دوبارہ اس کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ سلطان بتاریخ ۱۲ رمضان المبارک (موجودہ سال) قلعہ دمشق میں اس حال میں داخل ہوا کہ امرائے لشکر اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے مگر ناصری اس کے ساتھ سوار تھا اور اپنے سر پر (رسم و رواج کے مطابق) کروٹی اٹھائے ہوئے تھا۔

امراء کی معذرت: پھر نے حماة کے نائب حاکم کے خط کے ہمراہ اپنے گزشتہ افعال پر معذرت کا اظہار کیا کہ اس نے منطاش کے معاملہ میں ناصری پر جو الزام لگایا تھا ان سے اس کا مقصد فتنہ و فساد کا انسداد تھا۔ اس نے سلطان سے پناہ طلب کی اور اس بات کی ضمانت دی کہ منطاش جہاں کہیں ہو گا وہ اسے وہاں سے پکڑ کر حاضر کر دے گا۔

سلطان نے اسے پناہ دی اور اسے تحریر کیا کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کرے۔ چنانچہ عید الفطر کا دن گزارنے کے بعد وہ شوال کو منطاش کی تلاش میں حلب کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں، علی بن ولقد اور امیر ترکمان کا ایلچی ملا جو اس کی طرف سے تحائف لے کر آیا تھا اور اس نے سیس کے واقعہ پر معذرت نامہ بھی پیش کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حلب کے نائب حاکم کے حوالے کر دے گا۔

سلطان نے یہ تحائف قبول کر لئے اور اسے پناہ دے کر اس کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں (عرب قبائل) آل مہنا اور آل عیسیٰ کے امراء کے وفد آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ منطاش اور پھر کے برخلاف سلطان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ (انہوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ) وہ دونوں شام کی سرحد پر رجبہ کے مقام پر مقیم ہیں۔ لہذا سلطان نے اس وفد کی عزت افزائی کی اور ان کی اطاعت قبول کی۔

منطاش کی گرفتاری کی اطلاع: پھر وہ حلب کی طرف روانہ ہوا اور اس کے قلعہ میں مقیم ہوا۔ سلطان کو یہ اطلاع کہ منطاش پھر سے الگ ہو گیا ہے یا وہ مار دین کے علاقے سے گزر رہا تھا کہ وہاں کی فوجوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے ساتھیوں کی جماعت کو گرفتار کر لیا ہے، گروہ بھاگ کر امیر ترکمان سالم رودکاری کے پاس پہنچ گیا ہے چنانچہ اس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بارے میں سلطان کو پیغام بھیجا ہے۔

لہذا سلطان نے حلب کے نائب حاکم قرا مرداش کو فوج دے کر سالم رودکاری کے پاس بھیجا تا کہ وہ منطاش کو

حاضر کرے اور اس کے پیچھے ناصر کو بھی بھیجا۔

اس نے اتابک کو مار دین کی طرف بھیجا تا کہ وہ منطاش کے ساتھیوں کو لے کر آئے انیال راس العین کی طرف پہنچ گیا تھا۔ بہر حال مار دین کے حاکم کے ساتھی آئے اور انہوں نے منطاش کے ساتھیوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ مار دین کے حاکم نے تحریر کیا تھا کہ وہ سلطان کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے اور اس کے دشمن کی گھات میں ہے۔

نا کام واپسی: اتنے میں قرا درداش بھی سالم رود کاری کے پاس پہنچ گیا اور منطاش کو حاصل کرنے کے لئے وہ اس کے پاس چار دن مقیم رہا مگر وہ نال منول کرتا رہا۔ لہذا قرا درداش نے اس پر حملہ کر کے اسے کے قبول کو لوٹ لیا اور اس کی قوم کا قتل عام کیا۔ مگر سالم رود کاری اور منطاش سباز کی طرف بھاگ گئے۔

اس کے بعد ناصر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے درداش کو اس فعل پر ملامت کی اور ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ناصر مارنے کے لئے تیار ہو گیا۔ آخر کار کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور سب فوجیں سلطان کے پاس لوٹ آئیں۔

اس کے بعد سالم رود کاری نے منطاش کے بارے میں معذرت نامہ بھیجا کہ ناصر نے اسے لکھا تھا کہ وہ منطاش کو بحفاظت رکھے کیونکہ اس میں ترکوں کا نقصان ہے۔

ناصری کا قتل: (اس علم کے بعد) سلطان قلعہ میں بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ یہ واقعہ ۶ ذوالحجہ اسی سال کا ہے۔ اس نے ناصر کو بلوا کر اسے زبرد توخ کی۔ پھر اسے اور اس کے بھتیجے کشلی اور راس نوبہ (فوجی افسر) شیخ حسن اور علی احمد بن الہمدار کو جس نے قلعہ حلب پر قبضہ کر لیا تھا، گرفتار کر لیا اور ناصر اور قشتر اشرفی کو جو مار دین سے ان کے ساتھ آیا تھا، قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے دمشق کا نائب حاکم اس کے بجائے بکا دادار کو مقرر کیا اور اس کی جاگیریں قرا درداش کو دیں اور اسے حکم دیا کہ وہ مصر چلا جائے۔ اس کے بجائے حلب کا حاکم حلبان کو مقرر کیا گیا جو (پہلے) راس نوبہ (غلام فوج کا) فوجی افسر تھا۔

نئے عہدیداروں کا تقرر: سلطان نے بکا کے بجائے ابو یزید کو دوادار (بیکار سلطانی) مقرر کیا۔ یوں اس نے اس کی خدمات کا صلہ دیا جو اس نے ناصر کے عہد حکومت میں سفیر بن کر انجام دی تھیں اور اس کی شکایت کی وجہ سے وہ ابو یزید کے ساتھیوں کے پاس چھپ گیا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

پھر سلطان حلب سے کوچ کر کے ماہ ذوالحجہ کی پندرہویں تاریخ کو دمشق پہنچا اور وہاں رہ کر مفسد امراء کو قتل کرایا جن کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے۔ اس نے عرب قبائل پر محمد بن مہنا کو مقرر کیا اور یحییٰ کی جاگیریں ترکمانوں کی ایک جماعت کو دے کر مصلوٹ گیا۔

مصر واپسی: اتابک کشیقہ نائب سودون اور حاجب سکیس سلطان سے ملے اس کے بعد ۹۴ھ میں سلطان فوجوں کے ساتھ نہایت شان دار طریقے سے قلعہ میں داخل ہوا اور اس دن جشن منایا گیا۔

سلطان کی آمد کے دسویں دن دمشق کے نائب حاکم بکا کی وفات کی خبر موصول ہوئی تو سلطان نے اس کے بجائے سودون طرظائی کو نائب حاکم مقرر کیا۔ پھر ماہ صفر کی پندرہویں تاریخ کو قرا درداش احمدی کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ قید خانے ہی میں ہلاک ہو گیا۔

بغاوت کا انسداد: سلطان نے طبقاً المعلم اور قروم جی کو بھی گرفتار کر لیا اسی سال ماہ صفر کے آخر میں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ جب بکا ہلاک ہو گیا تھا تو اس کے ساتھی بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ افراد بھاگ گئے تھے۔ اس موقع پر غلاموں کی ایک جماعت نے ایلقادودار اور بذر لار کی سرکردگی میں قلعہ دمشق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور قید خانے کے اندر نقب لگا کر ناصری اور منطاش کے تقریباً ایک سو حامیوں کو نکال لیا۔

لہذا اس کے مقابلے کے لئے شاہی فوج بھیجی گئی اور انہوں نے قلعہ کا تین دن تک محاصرہ کیا۔ پھر قلعہ کے پھانک پر حملہ کر کے اسے جلا دیا اور شاہی فوج قلعہ میں داخل ہو گئی اس نے ان (سب باغیوں) کو گرفتار کر کے انہیں مار ڈالا۔ مگر ایقادودار اور بذر لار پانچ افراد کو لے کر بھاگ نکلے یوں اس بغاوت کا قلع تفع ہو گیا۔

اسی سال ماہ شعبان کے آخر میں سودون طنزانی کی وفات کی خبر آئی تو اس کے بجائے امیر مجلس کشیقہ اشرفی کو (دمشق کا) حاکم بنایا گیا اور کشیقہ کے عہدے پر امیر شیخ خاسگی کو مقرر کیا گیا۔

منطاش کی شکست: منطاش سالم رود کاری کے ساتھ سنجار بھاگ گیا تھا اور کئی دنوں تک اس کے ساتھ مقیم رہا۔ پھر اسے بھی چھوڑ کر بصرہ کے پاس چلا گیا اور اس کے (عرب) قبائل کے ساتھ رہنے لگا۔ اس اثناء میں وہاں کے قبیلے کے ایک شخص نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔

پھر ۹۴ھ میں یکم رمضان کو وہاں سے روانہ ہوا اور دریائے فرات عبور کر کے حلب کے علاقے میں آ پہنچا۔ وہاں سرکاری فوجوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا۔ جس میں اسے شکست ہوئی اور اس کے حامیوں کی ایک جماعت گرفتار ہو گئی۔

اس اثناء میں بصرہ بغاوت اور نافرمانی کے اثرات سے تنگ آ گیا اور اس کے قبائل بھی غلہ اور خوراک کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ لہذا اس نے اپنے حاجب (دربان) کو پناہ حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے منطاش کو گرفتار کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ بشرطیکہ اسے چار شہر جاگیر میں دیئے جائیں جن میں معرہ کا شہر بھی شامل ہو۔

منطاش کی تلاش: ابو یزید دودار نے سلطان کی طرف سے ان شرائط کو منظور کرنے کی تحریر لکھ بھیجی پھر ۹۵ھ میں محمد نامی ایک شخص نے یہ اطلاع دی کہ وہ سلمیہ میں اپنے قبائل کے ساتھ مقیم تھا اور اس کے ساتھ ترکمان بھی ہیں جو شیزر کے مقام پر مقیم ہیں۔

باغیوں کو شکست: لہذا سرکاری فوجیں وہاں پہنچیں اور انہوں نے باغیوں کو شکست دے دی۔ وہاں ایک شاہی سوار نے تلوار سے حملہ کر کے منطاش کو اوندھا کر دیا تھا اور اسے زخمی کر دیا تھا۔ کیونکہ میدان جنگ میں وہ منطاش کو شناخت نہیں کر سکا کیونکہ تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اس کی شکل خراب ہو گئی تھی لہذا ابن بصرہ اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کر اور بچا کر فرار ہو گیا مگر ان کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت ماری گئی جن میں ابن بروعان اور ابن انیال بھی شامل تھے چنانچہ ان دونوں

کے سر (کاٹ کر) دمشق لائے گئے۔

اب سلطان نے تمام امراء شام کو حکم دیا کہ وہ عام فوج کشی کر کے اسے اپنے علاقوں سے نکال دیں تاکہ یہ علاقے محفوظ رہیں اور عوام اپنے کھیتوں کے غلوں کو اٹھا سکیں۔

دشمنوں کا قتل عام: پھر عجم اور منطاش نے اسی سال کے یکم جمادی الآخرہ کو سلمیہ کی طرف فوج کشی کی۔ حلب اور حماة کے نائب حکام نے ان کا مقابلہ کیا۔ مگر انہوں نے ان دونوں کو شکست دی اور حماة کے شہر کو لوٹ لیا۔ حلب کے حکم نے محاذ تبدیل کر کے عجم کے قبائل کی بستیوں کا رخ کیا اور ان پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور ان کے مویشیوں کو ہنکا کر لے آئے اور باقی ماندہ حصہ کو نذر آتش کر دیا اس کے بعد سرکاری فوجیں ان کی واپسی تک گھات میں لگی رہیں اور (دشمن کے) واپس آنے کا انتظار کرتی رہیں جب شہر حماة میں۔ (دشمن کو) یہ اطلاع ملی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قبائل کی طرف واپس آئے۔ اس وقت گھات میں لگی ہوئی پوشیدہ فوج نے ان پر حملہ کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ یوں فریقین میں سے عرب امراء اور غلاموں کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔

ماہ شعبان المعظم میں (عرب قبائل کا ایک سردار) عامر بن طاہر بن جبار سلطان کے پاس آیا اور اس نے اطاعت قبول کی اور اپنے چچا (عجم) کی مخالفت کا اعلان کیا۔ ذکوان میں عجم بھی سلطان کا مطیع و فرمانبردار ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ منطاش کو پکڑ سکتے ہیں۔

عرب قبائل کا فیصلہ: سلطان نے اس عرب سردار کا خیر مقدم کیا اور اسے احسانات اور توقعات سے زیر بار کیا اور اسے اپنی منظوری اور اختیارات دے کر بنو عجم کے پاس بھیجا۔ چنانچہ جب ان کا چچا زاد بھائی عمر بن طاہر سلطان کی طرف سے یہ توقعات لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے آل مہنا کے تمام قبائل سے گفت و شنید کی اور انہیں سلطان کی طرف سے ملنے والی امداد کی طرف مائل کیا اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ مخالفت اور نافرمانی کے نتیجے میں وہ کس قدر پریشان اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ ان سب نے عجم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دو باتوں میں سے ایک کو منظور کرے یا تو وہ منطاش کو اپنے پاس رکھے یا وہ انہیں اجازت دے کہ وہ سلطان کی اطاعت قبول کر لیں اور پھر وہ جہاں چاہے چلا جائے۔

منطاش کی گرفتاری: عجم یہ باتیں سن کر بہت گھبرایا۔ وہ اپنے قبائل کی مخالفت نہیں کر سکا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ منطاش کو گرفتار کر کے اسے سلطان کے حکام کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر کے اسے حلب کے نائب حاکم کے حوالے کر دیا۔ ان فرزندوں نے سلطان کی طرف سے اپنے معاہدے اور اپنے باپ کے لئے نائب حاکم سے حلف نامہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے افسروں کو بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے منطاش کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ سوار اور پیادہ فوج بھیجی اور وہ اسے حلب لے آئے۔ یہاں لانے پر انہوں نے ایک بڑا جشن کا دن منایا اور اسے قلعہ میں مقید کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے قاہرہ سے ایک امیر کو بھیجا۔

منطاش کا قتل: اس نے (قید خانے میں) گھس کر اسے قتل کیا اور اس کا سر (کاٹ کر) شام کے علاقے میں اس کا گشت کرایا۔ اور بتاریخ ۱۱ رمضان المبارک کو وہ سرقاہرہ لے کر آیا اور باب زویلہ کے اوپر (منطاش کے) سر کو لٹکا دیا۔ اس سے

پہلے اسے (شاہی) قلعہ پر لٹکایا گیا تھا اور اس کا قاہرہ اور مصر کے علاقوں میں گشت کرایا گیا تھا۔ بعد میں اسے باب زویلہ میں لٹکایا گیا۔ پھر اسے اس کے اہل و عیال کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے اسی سال کی رمضان المبارک کی آخری تاریخ میں دفن کر دیا۔

مکہ معظمہ کے واقعات

جب محمد بن احمد بن عجلان (حاکم مکہ) مارا گیا تو سلطان (مصر) نے عنان بن مقابس کوچ کے زمانے میں ۸۸۷ھ میں مکہ معظمہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس وقت کیش بن عجلان نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا تھا مگر ۸۹۷ھ میں میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ تاہم عنان انتظام حکومت سنبھال نہیں سکا اور وہ اپنے چچا بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں پر غالب نہیں آسکا۔ ان (مخالفوں) نے مکہ معظمہ کے مجازوں (زائرین) کے مال و دولت پر دست درازی کی اور وہ غلہ بھی لوٹ لیا جو مصر سے سلطان امراء اور تاجر کے لئے کشتیوں میں جدہ لایا جا رہا تھا۔ انہوں نے بحر کے تاجروں کو بھی لوٹ لیا۔ یوں مکہ معظمہ اور وہاں کے گمگم دو نواح کے حالات ابتر ہوتے گئے۔ لہذا وہاں کے عوام نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ بنو عجلان کو مکہ معظمہ کا حاکم مقرر کرے۔

علی کا تقرر: لہذا ۸۹۹ھ میں جب سلطان کے پاس مصر بن عجلان میں سے ایک نوعمر لڑکا علی آیا تو سلطان نے اس کو مکہ معظمہ کا امیر مقرر کیا اور اسے امیر الحاج کے ساتھ اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ شرفاء مکہ (امراء) کے درمیان صلح کرائے۔ جب وہ امیر مکہ معظمہ پہنچا تو اس زمانے میں قرقاش وہاں موجود تھا۔ اشراف مکہ اس سے خوف زدہ ہوئے اور عنان بھی پریشان ہوا۔ تاہم وہ اس سے ملاقات کے لئے روانہ ہوا۔ اشراف مکہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علی بن عجلان اور اس کے فوجی افسروں اور غلاموں کی جماعت کی مخالفت کی جائے۔

عنان کی گرفتاری: عنان بن مقاس ۹۰۷ھ کو سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان نے اسے گرفتار کر کے اسے قید کر لیا اور وہ اس وقت تک مقید رہا جب تک کہ وہ ماہ صفر ۹۱۲ھ میں قلعہ کی بغاوت کے موقع پر بکا کے ساتھ نہیں نکلا۔ اس وقت اسے اس کے بھائی ایبقا کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ سلطان کا حال معلوم کرے۔

دو عملی حکومت: بکا کی کوششوں سے سلطان نے دوبارہ حکومت حاصل کی۔ کیونکہ دونوں ہم صحبت رہے تھے۔ اس لئے سلطان نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ سلطان نے عنان کو علی بن عجلان کے ساتھ حکومت میں شریک کیا۔ لہذا یہ دونوں دو سال تک اسی طرح حکومت کرتے رہے مگر ان دونوں کا نظم و نسق خراب رہا کیونکہ اشراف مکہ عنان کے حامی تھے مگر وہ کمزور تھا کیونکہ علی بن عجلان فوجی افسروں کی حمایت میں تھا۔ اس قسم کے اختلافات کی وجہ سے اہل مکہ نہایت خوف اور پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔

علی کی خود مختاری: ۹۱۴ھ میں سلطان مصر نے انہیں اپنے پاس بلوایا اور اسی سال یکم شعبان کو وہ وہاں پہنچے۔ سلطان نے ان دونوں کی تعظیم و تکریم کی اور ان دونوں کا منصب بلند رکھا تاہم علی کی نشست باقی افراد سے بلند تر تھی۔ عید الفطر کے بعد

سلطان نے علی بن عجلان کو مستقل اور خود مختار حاکم مقرر کیا اور اسے انواع و اقسام کے کپڑے، گھوڑے، غلام اور غلے انعام میں دیئے اور ان کے لئے بہت زادِ راہ اور چارہ بھی مہیا کیا۔ مگر ایک مہینہ کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت تمام سواریاں تیار تھیں تاکہ وہ مکہ معظمہ بھاگ جائے مگر اسے گرفتار کر کے قلعہ میں مقید کر دیا گیا۔

بدنظمی: پھر علی بن عجلان مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اشراف مکہ کو گرفتار کر لیا تاکہ اس کی حکومت کا انتظام درست رہے مگر کچھ عرصے کے بعد ان کے فریب میں آ کر اس نے انہیں رہا کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ بھاگ گئے اور پھر کبھی اس کی اطاعت قبول نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتظام سلطنت خراب ہوتا گیا اور (علاقے میں) بدنظمی قائم رہی اور ابھی تک (ابن خلدون کے آخری زمانے تک) یہی حالت رہی۔

تاتاریوں کے حالات

تاتاریوں کا تعلق بھی ترک اقوام سے ہے یہ مشرقی ممالک پر چین کی سرحد سے لے کر ماوراء النہر کے ممالک تک مسلط ہو گئے تھے۔ انہوں نے خوارزم، خراسان کے دونوں حصے، بھستان اور کرمان کے جنوبی علاقے تک قبضہ کر لیا تھا۔ شمال میں وہ قفقاز اور بلغار کے علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عراق، عجم، ایران، آذربائیجان، عراق عرب، الجزیرہ اور بلادِ روم پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہ دریائے فرات کی حدود تک پہنچ گئے تھے اور گاہے گاہے شام کے علاقوں پر بھی مسلط ہوتے رہے۔

سلطنت کی تقسیم: ان تاتاریوں میں سب سے پہلے ان کا بادشاہ چنگیز خاں (فتوحات کے لئے) نکلا اس کی فتوحات کا آغاز ۱۱۹۷ء سے ہوا۔ پھر تاتاری (مذکورہ بالا) ممالک کے خود مختار حاکم ہو گئے (چنگیز خاں کی وفات کے بعد) تاتاریوں کی سلطنت اس کے فرزندوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ دوشی خاں کے فرزندوں کے حصے میں قفقاز اور شمال کا پورا علاقہ آیا اور ہلاکو خاں بن تولی خاں کے فرزندوں کے پاس خراسان، عراق، فارس، آذربائیجان، الجزیرہ اور روم کا علاقہ آیا اور چغتائی خاندان کو خوارزم اور اس سے متعلقہ علاقہ ملا۔

یہ تینوں تاتاری سلطنتیں ایک سو اسی سال تک برقرار رہیں۔ ان میں سے ہلاکو کے خاندان کی سلطنت کا ۴۰۷ء میں خاتمہ ہو گیا۔ جب اس خاندان کا آخری بادشاہ ابو سعید فوت ہو گیا تو اس کا کوئی فرزند نہ تھا اس لئے اس کی سلطنت اس کے ارکانِ دولت کے درمیان تقسیم ہو گئی اور خراسان (اصفہان)، فارس، عراق عرب، آذربائیجان، توریز اور بلادِ روم کی (خود مختار اور جداگانہ) سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ چنانچہ خراسان پر شیخ ولی کی حکومت تھی۔ اصفہان، فارس اور بھستان پر مظفر ازدی اور اس کے فرزندوں کی حکومت رہی۔ خوارزم اور ترکستان کے علاقوں پر چغتائی خاندان کا تسلط ہو گیا اور بلادِ روم ارشاک کے فرزندوں کے قبضے میں چلا گیا جو مرداش بن جوہان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔

بغداد، آذربائیجان اور الجزیرہ کے حاکم شیخ حسن بن حسین بن ایباف بن ایکان اور اس کے فرزند رہے۔ ایکان ارغو بن ایباف بن ہلاکو کا بیٹا تھا۔ یوں خاندان اور نسب کے لحاظ سے وہ مغلوں کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

سلطان تیمور کا ظہور: تاتاریوں کی یہ تقسیم شدہ سلطنتیں کچھ عرصے تک قائم رہیں آخر کار ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بغداد میں موجودہ عہد میں شیخ حسن کا پوتا احمد بن ادریس حکمران تھا کہ اتنے میں یہ خبر آئی کہ ماوراء النہر کے علاقہ ترکستان و بخارا میں (ایک زبردست اور طاقتور) حاکم نمودار ہوا ہے جس کا نام تمر (تیمور) تھا اس کے پاس مغل اور تاتاریوں کا ایک لشکر جرات تھا۔ یہ بادشاہ اور اس کی قوم چغتائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ لوگ چنگیز خان کے فرزند چغتائی کی نسل سے تھے یا یہ چغتائی کوئی اور شخص تھا جس کا مغلوں کی دوسری قوم سے تعلق تھا۔

چغتائی قوم کی تعداد: تاہم پہلی بات زیادہ درست ہے کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ چنگیز خان کے چغتائی خاندان کی سلطنت ماوراء النہر کے علاقے میں قائم تھی۔ اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ تمر (تیمور) بادشاہ کے ہمراہ چغتائی خاندان کا کثیر لشکر جرات تھا اور اس مختصر مدت میں اس خاندان کی اس قدر کثیر تعداد نہیں ہو سکتی تھی۔ (اس کا جواب یہ ہے کہ) چغتائی کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کی مدت دو سو سال ہوتی ہے۔ کیونکہ چغتائی اپنے والد چنگیز خاں (کی فتوحات) کے زمانے میں چالیس سال کا تھا۔ لہذا اس مدت میں پانچ نسلیں تیار ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر نسل چالیس سال کی ہوتی ہے اور چالیس سال کے عرصے میں ہر مرد کے بس فرزند کم از کم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پانچ مرتبہ ضرب دینے سے (دو سو سال کے عرصے میں) ایک لاکھ افراد ہو جاتے ہیں۔

(علاوہ ازیں) اگر فی کس ۹ فرزند فرض کریں تو پانچ نسلوں کے بعد یہ تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ (اوسط گھٹا کر) فی کس آٹھ کر دی جائے تو یہ تعداد بیس ہزار تک پہنچتی ہے اور اگر (پھر گھٹا کر) فی کس سات کر دی جائے تو اس صورت میں بھی یہ تعداد سولہ ہزار ہوتی ہے۔ تاہم فی کس سات بچوں کی تعداد بدو انہ معاشرہ میں سب سے کم تعداد ہوتی ہے۔ بہر حال سولہ ہزار کی فوج بھی دوسری قوموں پر حکومت کرنے کے لئے بہت کافی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ فوجی تعداد آخری حد ہوتی ہے۔

سلطان تیمور کی فتوحات: بہر حال جب سلطان تمر (تیمور) ماوراء النہر کے علاقے میں نمودار ہوا تو وہ خراسان پہنچ گیا اور ۷۴۳ھ میں کئی جنگوں کے بعد اس کے حاکم شیخ ولی سے یہ علاقہ چھین لیا۔ شیخ ولی توریز کی طرف بھاگ گیا تھا لہذا سلطان تمر نے ۷۴۸ھ میں توریز پر فوج کشی کی اور توریز و آذربائیجان کو فتح کر کے انہیں ویران کر دیا۔ ان جنگوں میں شیخ ولی مارا گیا۔ اس کے بعد وہ شہر اصفہان کے پاس سے گزرا تو وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی۔

ترک فوجوں سے مقابلہ: توریز کی جنگ کے بعد وہ بغداد کے علاقے میں پہنچا تو وہ لوگ اس کے مقابلے سے گریز کرتے رہے۔ اس کے بعد آذربائیجان کے علاقے میں اس کی فوجوں کا الجزیرہ اور موصل کی ترک فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ ان کے ساتھ اس کی جنگ برابر ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ اصفہان کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں اسے یہ خبر معلوم ہوئی کہ اس کی قوم کے ایک شخص نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے جو قمر الدین قطمش کے نام سے موسوم ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے دوشی خاں بن چنگیز خان کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور سرائے کے پائے تخت پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اسے فوج اور مال و دولت کی امداد بھی دی گئی ہے۔

(یہ خبر سن کر) تیمور اپنے پائے تخت کی طرف لوٹ گیا۔ پھر ۹۵ھ تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ وہ باغی قمر الدین پر غالب آ گیا ہے اور اس کے فتنہ و فساد کا انسداد کر دیا ہے۔ نیز سرائے کے پائے تخت کو بھی فتح کر لیا ہے۔

فتح ایران: اس کے بعد سلطان تمر (تیمور) نے اصفہان، عراق، عجم، فارس اور کرمان کا قصد کیا اور مظفر بزدی کے فرزندوں کے ساتھ کئی دفعہ جنگ کی۔ ان جنگوں میں ان کے سلاطین مارے گئے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ آخر کار یہ تمام علاقے اس کے زیر نگیں آ گئے۔

فتح بغداد: اس اثناء میں حاکم بغداد احمد بن اولیس اس سے خط و کتابت کرتا رہا اور تحائف بھیج کر اس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ کیونکہ وہ خط و کتابت اور اظہار لطف و کرم کے ذریعے اسے فریب دیتا رہا۔ تا آنکہ احمد بن اولیس ہمت ہار گیا۔ کیونکہ اس کی فوجیں منتشر ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد (تاتاری سلطان) تیز رفتاری کے ساتھ دریائے دجلہ تک پہنچ گیا جب احمد بن اولیس کو اس خطرہ کی اطلاع ہوئی تو وہ راتوں رات حلقہ کے مقام پر دریائے دجلہ کے پل تک پہنچا اور اسے توڑ دیا۔ مگر سلطان تیمور اور اس کی فوجیں ۲۱ شوال ۹۵ھ کو اس مقام پر پہنچ گئیں۔ اور انہوں نے دریائے دجلہ کو تیر کر عبور کیا اور پھر وہ بغداد میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو گئیں۔

حاکم بغداد کا فرار: (احمد بغداد سے بھاگ گیا تھا) لہذا (تاتاری) فوجیں احمد بن اولیس کے تعاقب میں بھیجی گئیں۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے پل کے مقام پر دریا میں گھس کر بے پاریا کیا۔ پھر انہوں نے احمد کو مزار حضرت علیؑ (نجف اشرف) پر جا پکڑا۔ اس نے بھی پلٹ کر اپنی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور جو فوجی تاتاری افسر اس کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا وہ (اس جنگ میں) مارا گیا۔ احمد فتح نکلا اور وہ شام کی سرحد پر رجبہ کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔ تاہم تاتاری فوج نے اس کے تمام ساز و سامان سواری کے جانور اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور انہیں لوٹ کر واپس آ گئے۔

بغداد کی دوبارہ تباہی: احمد بن اولیس نے رجبہ کے مقام پر آرام کیا اور وہاں سلطان مصر کے نائب حاکم کو اپنے حالات سے مطلع کیا تو اس نے اپنے مخصوص افراد کے ذریعے اس کے لئے توشیحہ راہ اور ضروری ساز و سامان بھیجا۔ جنہیں لے کر وہ ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں حلب پہنچا۔ وہاں آ کر وہ اس قدر بیمار ہوا کہ مصر نہیں جاسکا مگر اسے یہ اطلاعات موصول ہوتی رہیں کہ سلطان تیمور نے اس کے علاقے میں بہت لوٹ مار چا رکھی ہے اور نہ صرف اس کے تمام ذخیروں پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ تمام اہل بغداد کے مال و دولت کو بھی ضبط کر لیا ہے اور کسی امیر و غریب کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں چھوڑا ہے یہاں تک کہ وہ اب وہ سب محتاج ہو گئے ہیں اور فتنہ و فساد کی وجہ سے بغداد کے تمام محلے ویران ہو گئے ہیں۔

مصری فوجوں کی تیاری: ۹۶ھ میں ماہ ربیع الاول کو احمد بن اولیس سلطان مصر کے پاس فریادی بن کر پہنچا اس نے اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کرنے اور دشمن سے انتقام لینے کے لئے اس سے امداد طلب کی۔ لہذا سلطان (مصر) نے اس کی فریادری کی اور اعلان کیا کہ اس کی فوجیں شام کی طرف کوچ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔

مکریت کی تباہی: اس اثناء میں سلطان تیمور نے بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد مکریت کی طرف فوج کشی کی وہاں اس نے مخالفوں سے جنگ کی اور راستے بند کر کے چالیس دن تک شہر کا محاصرہ کیا۔ آخر کار وہاں کے باشندے اس کے مطیع ہو گئے۔ اس نے جس کو چاہا قتل عام کیا اور باقی افراد کو گرفتار کر کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کی فوجیں دیار بکر میں رہا تک پھیل گئیں اور انہوں نے چند گھڑیوں میں اس پر قبضہ کر لیا اور اس کی دولت لوٹ لی۔ چنانچہ یہاں کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔

سلطان مصر کی فوج کشی: جب یہ خبریں سلطان مصر تک پہنچیں تو (اس نے لشکر تیار کیا) اور ایدانیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوا جہاں اس نے اپنے لشکر کی تمام خامیوں کو دور کیا اور اپنے غلاموں کو بخشش سے مالا مال کیا اور ہر قسم کی فوجوں میں سے بھرتی مکمل کی۔ اس نے قاہرہ میں نائب السلطنت مودود کو اپنا جانشین بنایا اور صف بندی کر کے شام کی طرف کوچ کیا۔ اس کے ہمراہ (سابق) حاکم بغداد احمد بن اولس بھی تھا۔ سلطان نے اس کی ضروریات پوری کر دی تھیں اور وہ اس کی فوج کے تمام اخراجات کا کفیل تھا۔

دمشق میں آمد: سلطان ماہ جمادى الاولى (۹۶۱ھ) کے آخر میں دمشق پہنچا اس نے حلب کے نائب حاکم حلبان کو ہدایت کی تھی کہ وہ دریائے فرات کی طرف فوج کشی کرے اور عرب و ترکمان کی فوج کو وہاں رہنے کے لئے جمع کرے تاکہ وہ دشمن کی گھات میں رہیں۔

چنانچہ جب سلطان دمشق پہنچا تو حلبان (حاکم حلب) اس کے پاس آیا اور اس نے اسے اپنی تمام کارگزاری بتائی اور دشمن کے بارے میں تمام معلومات فراہم کیں۔ پھر اس کے احکام کی تعمیل کرنے کے لئے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے کمشیقا تا تک امیر سلاح تلکمش اور احمد بن بیقا کی قیادت میں امدادی فوجیں بھیجیں۔

دشمن (سلطان تیمور) اس زمانے میں قلعہ مار دین کے محاصرہ میں مشغول تھا۔ وہ وہاں چند مہینے رہا۔ پھر اس نے وہاں کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کی فوجوں نے وہاں تباہی برپا کی (اور وہ لوٹ مار کرتے رہے) مگر اس کے قلعہ کو فتح نہیں کر سکے۔ لہذا اس (تاتاری بادشاہ نے) وہاں سے کوچ کر کے بلا دروم کا قصد کیا۔ وہ کردوں کے قلعوں (قلاع الاکرد) کے پاس سے بھی گزرا جہاں اس کی فوجوں نے لوٹ مار کی اور وہاں کے علاقوں کا صفایا کر دیا۔

آخری خبر: سلطان (برقوق) اب تک یعنی ماہ شعبان ۹۶۱ھ تک دمشق ہی میں مقیم تھا۔ وہ (دشمن کے حملہ کا) مقابلہ کرنے کے لئے بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا بشرطیکہ وہ اس سمت کا قصد کرے۔

ترکی سلطنت (ممالیک مصر) کا یہ آخری حال ہے جو تحریر کیا گیا۔

۱۔ ابن خلدون نے ممالیک مصر میں سے بحری خاندانوں میں سے صرف سلطان برقوق کا حال ۹۶۱ھ تک تحریر کیا ہے اس کے بعد وہ نویں ہجری سے آغاز میں ۸۰۸ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ (مترجم)

باب: ششم

یمن کی رسول شاہی سلطنت

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایوبی سلطنت نے یمن کو بھی فتح کر لیا تھا اور ان کی طرف سے یمن کے حکام مقرر ہو کر آتے تھے۔ مگر جب بنو مظفر میں سے شہنشاہ بن ایوب کا پوتا سلیمان بن سعد الدین شہنشاہ یمن کا حکام مقرر ہوا تو وہ سلطان عادل کے عہد حکومت میں خود مختار ہو گیا اور بغاوت کا اعلان کیا ایسے موقع پر سلطان عادل نے اپنے فرزند امیر کامل کو جو مصر کا حکام تھا پیغام بھیجا کہ وہ اپنے فرزند یوسف مسعود کو یمن بھیجے وہ صالح کا بھائی تھا اور اس کا ترکی میں لقب اطس یا افسنس تھا مسعود نے سلیمان پر فتح حاصل کی اور گرفتار کر کے اسے مصر بھیج دیا جہاں وہ فرنگیوں کے خلاف دمیاط کے جہاد میں شریک ہوا اور ۶۲۷ھ میں فوت ہو گیا۔

مسعود کی حکومت: سلطان عادل ۶۱۵ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند کامل بادشاہ مقرر ہوا۔ اس نے بھی یوسف مسعود کو یمن کی حکومت پر بحال رکھا۔ مسعود نے ۶۱۹ھ میں فریضہ حج ادا کیا۔ حج کے زمانے میں مسعود نے خلیفہ کے جھنڈوں کو اپنے جھنڈوں سے پیچھے رکھا تھا (اس کے بارے میں حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں) مسعود ۶۲۰ھ میں مکہ معظمہ اس وقت پہنچا جب کہ وہاں کا امیر (حاکم) حسن بن قتادہ تھا۔ جو خاندان بنو الحسن کی ایک شاخ مطاعن سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مسعود کے ساتھ آمادہ پر کار ہوا مگر مسعود نے اسے شکست دے کر مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے وہاں ایک حکام مقرر کر کے یمن لوٹ آیا۔

۶۲۶ھ میں وہ بیمار ہوا تو وہ مکہ معظمہ چلا گیا اور یمن پر اپنے استاذ دار (وزیر مال) علی بن رسول ترکمانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مسعود چودہ سال حکومت کرنے کے بعد مکہ معظمہ میں فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کی خبر اس کے والد کو اس وقت ملی جب کہ وہ دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھا (وفات کی خبر سنتے ہیں) ابن قتادہ (جو سابق حکام تھا) مکہ معظمہ لوٹ آیا اور (اس نے اپنی حکومت حاصل کر لی)۔

موسیٰ اشرف کا عہد حکومت: علی بن رسول نے (اس کے فرزند) موسیٰ بن المسعود کو یمن کا حکام مقرر کیا۔ اس کا لقب اشرف مقرر ہوا۔ مسعود کا ایک اور فرزند بھی تھا جس کا نام یوسف تھا مگر وہ فوت ہو گیا تھا اور اس نے ایک فرزند چھوڑا تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ جسے ترک (امراء) نے ایک کے بعد حکام مقرر کیا تھا مگر پھر اسے الگ کر دیا تھا۔

رسول شاہی سلطنت کا آغاز: بہر حال علی بن رسول نے موسیٰ اشرف بن مسعود کو حکام (برائے نام) مقرر کر کے خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ پھر اسے درخواست کر کے خود حکام بن گیا تھا۔ مگر وہ مصر کے حکام سلطان کامل کا داماد تھا اور

اطاعت کے ثبوت میں اپنے دونوں بھائیوں کو یرغمال بنا کر بھیج دیا تھا۔

۶۲۹ھ میں فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا فرزند منصور عمر بن علی بن رسول (یعنی کا) حاکم ہوا جب علی بن منصور ہلاک ہوا تو سلطان کامل نے اس کے فرزند عمر کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان کامل نے ۶۳۵ھ میں وفات پائی اور ابو بلی خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تو یمن میں عمر بن علی کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور اس نے منصور کا لقب اختیار کیا اور وہ خراج دینا بند کر دیا جو وہ مصر بھیجا کرتا تھا۔ لہذا حاکم مصر عادل بن الکامل نے اس کے چچاؤں کو رہا کر دیا، جنہیں اس کے والد نے اطاعت کے لئے یرغمال کے طور پر بھیجا تھا تاکہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لئے اس کا مقابلہ کریں مگر وہ ان پر غالب آ گیا اور اس نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔

فرقہ زیدیہ کی قیادت: اس زمانے میں صغد میں فرقہ زیدیہ (شیعہ) کی قیادت بنو الرسی کے ہاتھوں سے نکل کر سلیمان بن داؤد کے فرزندوں میں منتقل ہو گئی تھی اور انہوں نے بنو الرسی کے خاندان کو صغد سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے پہاڑی علاقے میں اپنا مرکز قائم کر لیا تھا۔ لہذا جب بنو الرسی کے خاندان میں احمد بن الحسین کے ہاتھ پر زیدیوں نے قلعہ ملا میں بیعت کی تو اس کا لقب الموطی رکھا گیا (ان کا یہ پیشوا) بنو البادی یحییٰ بن الحسن ابن القاسم الرسی کے خاندان سے متعلق تھا۔ وہ ملا کے قلعہ میں پناہ گزین تھا اور فرقہ زیدیہ میں بہتر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کی قیادت پھر خاندان بنو الرسی میں لوٹ جائے گی۔

زیدیہ کے قائد سے جنگ: (فرقہ زیدیہ کا پیشوا) زیدیہ فقہ کا بہت بڑا عالم اور ادیب تھا وہ بہت عبادت گزار بھی تھا۔ اس کے ہاتھ پر ۶۳۵ھ میں بیعت کی گئی تھی (حاکم یمن) عمر بن رسول کو اس کے اقتدار سے بہت تشویش پیدا ہوئی۔ لہذا وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور قلعہ ملا میں ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھر اس نے یہ محاصرہ ختم کر دیا اور قریبی قلعوں سے اس کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں تیار کیں۔

وہ ۶۳۸ھ تک حکومت کرتا رہا تا آنکہ اس کے بھتیجے حسن کی امداد سے اس کے غلاموں نے اس سال اسے

مار ڈالا۔

مظفر کی حکومت: جب منصور علی بن رسول فوت ہو گیا تو اس کا فرزند مظفر شمس الدین یوسف حاکم ہوا۔ وہ نیک اور انصاف پسند حاکم تھا۔ جب ترک مصر کے خود مختار حاکم ہوئے تو انہوں نے اس پر خراج مقرر کر دیا۔ وہ ان کا وفادار رہا اور یہ رقم انہیں ادا کرتا رہا۔

اس کے آغاز حکومت میں دلوۃ کے اہل قلعہ نے اطاعت قبول نہیں کی تھی لہذا وہ ان کے محاصرہ میں مشغول رہا۔ اتنے میں خاندان بنو الرسی کے زیدی امام نے حصن بلد میں بغاوت کا اعلان کیا اور احمد الموطی نے فرقہ زیدیہ کے بیس قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے صغد پر فوج کشی کی اور اسے سلیمانی خاندان کے قبضہ سے چھڑا لیا۔ لہذا ان کا امام احمد المتوکل اپنے عہدے سے دستبردار ہو گیا اور اس نے بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے پناہ حاصل کر لی۔ یوں ہر زمانے میں فرقہ زیدیہ کا ایک مستقل امام مقرر ہوتا رہا۔

اشرف کا عہد حکومت: مظفر یمن کا حاکم رہا یہاں تک کہ وہ اچانک ۶۹۴ھ میں فوت ہو گیا مظفر یوسف کے فوت ہونے

کے بعد اس کا فرزند اشرف مہمد الدین عمر یمن کا حاکم ہوا۔ اس وقت اس کا بھائی داؤد شمر کا حاکم تھا لہذا اس نے خود حاکم بننے کا دعویٰ کیا اور اس کی مخالفت کی۔ لہذا اشرف نے اس کے خلاف فوج کشی کی۔ اس کی فوج نے جنگ میں اسے شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا اور اسے قید خانے میں بند کر دیا۔ اس اثناء میں اس کی ایک لوٹھی نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا اور وہ ۶۹۶ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے صرف بیس مہینے حکومت کی۔

داؤد المؤمن اشرف کے مرنے کے بعد امرائے یمن نے اس کے بھائی مؤید الدین داؤد کو قید خانے سے نکال کر اسے حاکم یمن مقرر کیا اور اس کا (شاہی) لقب المؤمن رکھا۔ اس نے حاکم ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس لوٹھی کو قتل کر دیا جائے جس نے اس کے بھائی کو زہر دیا تھا۔

اس کے بعد داؤد ترک سلاطین مصر کو تحائف اور عمدہ اور نادر اشیاء بھیجتا رہا اور مقررہ خراج بھی ادا کرتا رہا۔ چنانچہ ۷۱۷ھ میں اس کے تحائف کی مقدار دو سو اونٹوں کے بوجھ پر مشتمل تھی جس میں (یمن کے بنے ہوئے) عمدہ کپڑے یمن کی نادر سوغاتیں اور دیگر اشیاء شامل تھیں اس کے علاوہ دو سو اونٹ اور گھوڑے بھی بھیجے گئے تھے۔ اس نے ۷۱۷ھ میں بھی اسی قدر تحائف بھیجے۔ اس کے باوجود اس کے تعلقات سلاطین مصر سے بگڑتے گئے۔ تا آنکہ جب ۷۱۸ھ میں اس نے اس قسم کے تحائف بھیجے تو انہوں نے وہ تحائف واپس کر دیئے پھر وہ ۷۲۱ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے یمن پر پچیس سال حکومت کی۔

داؤد المؤمنید نہایت عالم و فاضل حاکم تھا۔ وہ شافعی مسلک کا تھا۔ اس نے تمام شہروں سے کتابیں منگوا کر جمع کر رکھی تھیں۔ چنانچہ اس کے کتب خانے میں کتابوں کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ وہ علماء کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا اور مصر کے بہت بڑے شافعی عالم ابن دقیق العید کو انعامات بھیجتا تھا۔

اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الحجاب سیف علی جو بارہ سال کا لڑکا تھا۔ یمن کے تخت پر بیٹھا۔

جلال الدین بن عمر الاشرف کی بغاوت: حاکم ہونے کے بعد الحجاب علی عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور اس نے مذہبی عہدیداروں کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں ناحق معزول کرنے یا ان کا جادلہ کرنے لگا۔ ارکان سلطنت نے اس کے اس رویہ کو ناپسند کیا۔ لہذا اس کے چچا عمر اشرف نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے خلاف فوج کشی کی چنانچہ فریقین کے درمیان کئی جنگیں ہوتی رہیں جن میں مجاہد کو فتح حاصل ہوئی اور وہ جلال الدین پر غالب آ گیا اور اس نے اسے قید کر دیا۔

دو بارہ بغاوت: جلال الدین کو قید کرنے کے بعد بھی مجاہد بدستور عیش و عشرت اور لذت کوشی میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ اس کے ارکان سلطنت بھی اس سے تنگ آ گئے اور وہ اسے الگ کرنے میں جلال الدین کے ساتھ سازشیں کرنے لگے۔ ۷۲۲ھ میں جب وہ سفر پر روانہ ہوا تو جلال الدین نے قید خانے سے نکل کر اس پر کسی باغ میں حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے اس کے چچا منصور ایوب بن المظفر کے ہاتھ پر حکومت کے لئے بیعت کی اور مجاہد کو چند افراد کے ساتھ نظر بند کر دیا گیا اس سے پہلے جلال الدین رہا ہو گیا تھا۔

مجاہد کی سجالی: جب مجاہد قلعہ تعز میں نظر بند ہو گیا اور منصور یمن کا بادشاہ بنا تو مجاہد کے حامی اکٹھے ہو کر منصور کے گھر میں تعز

حصہ دوم
کے مقام پر حملہ آور ہوئے اور اسے مقید کر کے مجاہد کو نکال لائے اور اسے تخت سلطنت پر بحال کر دیا اور اہل یمن اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔

عبداللہ بن منصور کی مخالفت: اس وقت اسد الدین عبداللہ بن منصور ایوب دلموۃ میں تھا۔ اس نے اس کی مخالفت کی اور اطاعت سے انکار کیا۔ مجاہد نے اسے تحریر کیا کہ (اگر اس نے مخالفت کی تو) وہ اس کے باپ (منصور ایوب) کو قتل کر دے گا۔ اس کے باوجود وہ مخالفت پر قائم رہا اور اختلاف کی غلج و سبب ہوتی گئی بلکہ فتنہ و فساد بڑھتا گیا اور (یمن کے) عرب (دو گروہوں میں) تقسیم ہو گئے اور حالات خراب ہوتے گئے۔

منصور ایوب نے قید خانے سے اپنے فرزند کے نام یہ ہدایت نامہ بھیجا کہ وہ دلموۃ (اس کے) حوالے کر دے، اسے اپنے قتل ہونے کا اندیشہ تھا۔ مگر عبداللہ نے اس کی (ہدایت) ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ کو بھی سخت جواب تحریر کیا۔

زبید پر قبضہ: جب مجاہد (عبداللہ کے رویے) سے مایوس ہو گیا تو اس نے اس کے والد منصور ایوب کو اس کے قید خانے میں قتل کر دیا۔ اس وقت دلموۃ کے باشندے اپنے سردار شریف ابن حمزہ کی قیادت میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسد الدین عبداللہ بن منصور ایوب کے ہاتھ پر (حاکم کی حیثیت سے) بیعت کی۔ اس کے بعد اس نے شہاب صفوی کی سرکردگی میں زبید کے مقام کی طرف فوج بھیجی جس نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔

مجاہد کی ناکامی: اب مجاہد نے اپنے سپہ سالار علی بن دوادار کی نگرانی میں وہاں فوجیں بھیجیں جب وہ زبید کے قریب پہنچیں تو وہاں سیلاب آ گیا اور اہل زبید نے ان پر شب خوں مار کر (مجاہد کی) فوج کو نقصان پہنچایا اور ان کے اہم افراد کو قید کر لیا۔ (جب مجاہد کو یہ خبر پہنچی تو) اس نے اپنے سپہ سالار علی بن دوادار پر یہ الزام لگایا کہ وہ اس کے دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اس لئے اس نے اسے تحریر کیا کہ وہ امداد حاصل کرنے کے لئے عدن چلا جائے (اس کے ساتھ ساتھ) اس نے عدن کے حاکم کو تحریر کیا کہ وہ اسے گرفتار کر لے۔

عبداللہ ظاہر کی فتوحات: یہ تحریر ظاہر (بن منصور ایوب) کے ہاتھ لگی تو اس نے یہ خط دوادار کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ وہ عدن واپس آیا۔ اور اس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور ۲۳ ھ میں عدن کو فتح کر کے ظاہر کی حکومت کا خطبہ پڑھوایا۔ پھر اس نے صنعاء اور حوص کے حاکم کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے بھی ظاہر (ابن منصور) کو حاکم تسلیم کیا۔ مجاہد نے مدح اور کردوں کے قبائل سے اس وقت امداد طلب کی جب کہ وہ قلعہ معدیہ میں تھا۔ مگر انہوں نے اسے کوئی امداد فراہم نہیں کی۔

امیر ظاہر نے مکہ معظمہ کے شرفاء اور وہاں کے قاضی نجم الدین طبری کو تحریر کیا کہ وہ یمن کا حاکم ہو گیا ہے۔

مصر کی امدادی فوج: جب ظاہر بن منصور ایوب یمن کے قلعوں پر قابض ہو گیا اور انہیں مجاہد کے قبضے سے نکال لیا اور قلعہ معدیہ میں اس کا محاصرہ کیا تو مجاہد نے مصر کے ترک سلطان محمد بن قلاؤن الناصر کو ۲۵ ھ میں ایک فریاد نامہ بھیجا اور امداد کی درخواست کی۔ چنانچہ سلطان مصر نے بھروسہ حجاب اور انیال کی قیادت میں جو اس کے امراء سلطنت میں سے تھے، فوج بھیجی وہ لوگ (یمن) ۲۵ ھ میں اپنے لہذا ان کی ہمراہی میں مجاہد قلعہ معدیہ سے جو عدن کے گرد و نواح میں تھا تھوڑے

مقام پر پہنچا۔ جب وہاں کے باشندوں نے پناہ طلب کی تو اس نے انہیں پناہ دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے ظاہر بن منصور ایوب سے مصالحت کے لئے خط و کتابت کی مگر وہ دلوۃ کو اپنے قبضے میں رکھنے پر اصرار کرتا رہا، آخر کار انہوں نے باہم حلف اٹھایا۔

شہاب صفوی کا قتل: ترک امراء نے (جو امداد کے لئے وہاں پہنچے ہوئے تھے) شہاب صفوی کو طلب کیا جس نے مجاہد اور ظاہر کے درمیان مخالفت اور فتنہ و فساد پیدا کر رکھا تھا مگر اس نے قبیل حکم سے انکار کر دیا لہذا سمیرس (مصری سردار) سوار ہو کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے خیمے ہی میں اس پر حملہ کر کے سوق الخلیل (گھوڑوں کے بازار) میں جو تعمیر کے مقام پر واقع تھا اسے قتل کر دیا۔

پھر (ترک فوج نے) ہرست سے مجاہد کے مخالفوں کا قتل عام کیا تا آنکہ وہ سب اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ یوں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس کے بعد (ترکی) فوج ۲۶۷ھ میں مصر لوٹ گئی۔

ظاہر کا قتل: جب یمن میں مجاہد کی حکومت مستحکم ہو گئی اور دلوۃ کے علاقے پر ظاہر اس کا جانشین بنا تو مجاہد نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کئے۔ جب وہ یمن ہو گیا تو مجاہد نے ایسی تدابیر اختیار کیں کہ وہ دلوۃ کی حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ پھر مجاہد نے اسے اپنی طرف سے دلوۃ کا حاکم مقرر کیا۔ یوں وہ اس کے حامیوں میں شامل ہو گیا۔ پھر (اچانک) اسے نے اسے گرفتار کر کے تمعر کے قلعہ میں مقید کر دیا اور ۳۱۳ھ میں قید خانے ہی میں اسے قتل کر دیا۔

مجاہد کا حج: مجاہد نے ۵۷۷ھ میں حسن الناصر کے پہلے دور حکومت میں حج ادا کیا۔ یہ وہ سال تھا جب کہ مصر کی سلطنت کے نگران طاز نے بھی امیر حج کی حیثیت سے حج ادا کیا تھا۔ اس وقت سابق نگران سلطنت پیتقا اوس نے مقید ہو کر حج کیا تھا کیونکہ سلطان مصر نے طاز کو حکم دیا تھا کہ وہ راستے ہی میں اسے گرفتار کر لے۔ گرفتاری کے بعد بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فریضہ حج ادا کرے۔ لہذا اس نے اجازت دی کہ مقید ہو کر وہ حج کرے۔

مصری فوج سے جنگ: اس اثناء میں شاہ یمن مجاہد حج کرنے کے لئے پہنچ گیا۔ اس کے متعلق یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ غلاف کعبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پر امرائے مصر اور ان کی فوج اہل یمن سے ناراض ہو گئی اور ایک دن یمن کے قافلہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مجاہد کو شکست ہو گئی اور اس کی اکثر فوج جاتی رہی۔ اس موقع پر پیتقا اوس کو جنگ کرنے کے لئے رہا کر دیا گیا تھا اور اس نے اس جنگ میں بہادرانہ کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد اسے دوبارہ مقید کر دیا گیا۔

گرفتاری اور رہائی: (اس جنگ کے بعد) مجاہد کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے مصر لے جا کر مقید کر دیا گیا تھا۔ سلطان الصالح کے عہد حکومت میں ۵۹۲ھ میں اسے رہا کر دیا گیا تھا اور اس کے ہمراہ قشتر منصور کی بھیجا گیا تھا تا کہ وہ اسے اس کے ملک چھوڑ آئے۔ مگر جب وہ بیخ کے مقام پر پہنچا تو قشتر کو اندازہ ہوا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ کر رہا ہے لہذا وہ مجاہد کو لوٹا کر لے گیا اور کرک کے قلعہ میں اسے مقید کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسے رہا کیا اور اس کو اس کے ملک پہنچا دیا گیا۔

مجاہد کی وفات: یمن آ کر اس نے بادشاہ مصر سے مصالحتہ تعلقات قائم رکھے اور وہاں تحائف پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا تا آنکہ وہ ۶۶۷ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کی مدت حکومت بیالیس سال تھی۔

افضل بن مجاہد کی حکومت: جب ۶۶۷ھ میں مجاہد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا فرزند عباس حکمران ہوا (اس کا لقب افضل تھا۔ اس یمن پر) بارہ سال حکومت کی اور وہ ۶۷۸ھ میں فوت ہوا۔

دیگر حکام یمن: جب ۶۷۸ھ میں افضل عباس بن المجاہد فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا فرزند محمد المنصور حاکم ہوا اس کی حکومت مستحکم رہی البتہ ۶۸۲ھ میں اس کے غلاموں کی ایک جماعت اس کے خلاف باغی ہوئی اور اس نے اس کو قتل کرنے کی سازش کی مگر جب اسے ان کی سازش کا علم ہو گیا تو وہ غلام و ملوے کی طرف بھاگ گئے عربوں نے انہیں راستے میں پکڑ لیا اور انہیں (بادشاہ کے پاس) لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں معاف کیا۔ اس کے بعد بھی وہ حکومت کرتا رہتا آ نکہ وہ فوت ہو گیا۔

محمد المنصور بن الافضل کی وفات کے بعد اس کا بھائی اشرف اسماعیل بن الافضل (یمن کا) حاکم ہوا۔ اس کی سلطنت بھی مستحکم رہی اور ابھی تک موجودہ زمانے میں یعنی ۶۹۶ھ تک وہی یمن کا حاکم ہے۔

www.muhammadiLibrary.com

باب: ہفتم

تاتاری سلاطین کے حالات

ہم پہلے تاتاریوں کے حالات میں یہ بتا چکے ہیں کہ تاتاریوں کا تعلق ترک اقوام سے ہے اور صحیح روایت کے مطابق تمام ترک قومیں کو مر بن یافت کی اولاد سے ہیں جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔

ہم نے ترکوں کی مختلف اجناس و اقوام کا تذکرہ بھی کیا ہے اور غرقوم کو بھی جن سے سلجوقیوں کا تعلق ہے انہی میں شمار کیا ہے، نیز ہبا کلد بھی انہیں میں سے ہیں اور انہی میں سے قلیج قوم اور اہل بلاد صغد کا جو سمرقند کے قریب ہے انہی سے تعلق ہے اور وہ اس نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ ہم نے خطا اور طغرغ کو انہی میں شمار کیا ہے اور وہ بھی تاتاری ہیں۔

ان دونوں قوموں کا ٹھکانہ طمعاج کی سر زمین میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ترکستان کا شغرا اور اس سے متعلقہ ماوراء النہر (دریا پار) کا علاقہ ہے اور جب ان (تاتاریوں) کے سلاطین مسلمان ہو گئے تھے تو اس وقت بھی یہی ان کا علاقہ تھا۔ ہم نے خزلجیہ، غور، خزر اور خفشاخ کو بھی انہی میں شمار کیا ہے۔ یہی قپچاق، میک علان کے قبائل بھی ہیں اور اب چرکس اور ارکش بھی انہی میں شامل ہیں۔

ترک اقوام۔ جغرافیہ کی کتاب روجر کے مولف (ادریسی) نے مندرجہ ذیل (قبائل) کو بھی انہی (تاتاریوں) میں شمار کیا ہے:

(۱) العسہ (۲) تغزغزیہ (۳) خزیریہ (۴) کیا کیہ (۵) خزلجیہ (۶) خزر (۷) خلخ (۸) بلغار (۹) یحاک (۱۰) برطاس (۱۱) سخرت (۱۲) خر جان (۱۳) انکر۔ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ انکر قوم کے ٹھکانے رومی علاقے وینس میں ہیں۔ ترکوں کی یہ تمام قومیں دریا کے پار (ماوراء النہر) مشرق سے بحر اوقیانوس تک اقلیم اول سے لے کر ساتویں اقلیم تک جنوب و شمال کے درمیان میں آباد ہیں اور چین ان کے ممالک کے وسط میں ہے۔

چین۔ چین کا ملک ابتداء میں ہنوسینی کے ماتحت تھا جو یافت کی اولاد میں ان کے بھائی تھے۔ پھر یہ ملک بھی ان کے ماتحت ہو گیا اور انہوں نے چین کا اکثر علاقہ فتح کر لیا۔ البتہ سمندر کا کچھ ساحلی علاقہ چینیوں کے قبضہ میں ہے۔

تاتاری خانہ بدوش ہیں جیسا کہ ہم آغاز کتاب میں اور سلجوقیوں کے حالات میں بیان کر چکے ہیں ان کی اکثر آبادی ان جنگلوں اور بیابانوں میں آباد ہے جو چین اور ترکستان کے درمیان ہیں اسلام سے پہلے بھی ان کی ایک سلطنت تھی جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں ان کے حکام ہنوفر اسیان تھے۔

اسلام کا آغاز: تاریخوں اور عربوں کے درمیان بھی (اسلامی) فتوحات کے آغاز میں جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ مسلمانوں نے ان کا قتل عام کیا اور وہ ان کے ممالک کے چاروں طرف غالب آ گئے۔ پھر ان کے سلاطین مسلمان ہو گئے اور ان کے علاقے ان کے قبضے میں باقی رہے یہ صورت حال پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوئی۔ اس وقت کے اسلامی عہد میں بھی ترکستان اور کاشغر میں ان کی سلطنتیں تھیں مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سلاطین کس نسل سے تھے۔

خاقان: کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ فراسیان کی اولاد سے ہیں مگر فراسیان کے نام کی کوئی قوم ان میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ترکوں کے سلاطین کو خاقان کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسری اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔

بنو سامان: جب یہ ترک سلاطین کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے تو وہ اپنی سلطنت و ملک پر بحال رکھے گئے۔ اور وہیں رہنے لگے۔ اس زمانے کے عہد عباسی میں ماوراء النہر میں بنو سامان کے سلاطین کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سلطنت کے ساتھ ان (ترک) سلاطین کی جنگیں بھی ہوتی تھیں اور پھر مصالحت بھی ہو جاتی تھی۔ تا آنکہ ان ترک سلاطین اور بنو سامان دونوں کی سلطنتیں فنا ہو گئیں اور بنو سامان کے زاد کردہ غلام محمود بن بکینگین کی (وسیع) سلطنت ماوراء النہر اور خراسان میں قائم ہو گئی۔

عہد سلجوقی: اس زمانے میں سلجوقی امراء نمودار ہو گئے تھے اور وہ ترک سلاطین کے مقبوضہ علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ یوں وہ ان کے ماتحت حکام بن گئے تھے اور غیر متمدن قوم، مہذب قوم پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بکینگین کے فرزندوں سے مقابلہ کیا اور چوتھی صدی ہجری کے بعد ان کے ممالک کو فتح کر لیا۔ یوں سلجوقی سلاطین نے تمام اسلامی ممالک کو فتح کر لیا اور ہندوستان کے درمیانی علاقے سے لے کر انتہائی شمالی علاقے ان کے زیر نگین ہو گئے۔ مغرب میں چین کے درمیانی علاقے سے لے کر خلیج قسطنطنیہ کے علاقے ان کے ماتحت ہو گئے ان کا بچہ حجاز اور شام کے ممالک پر بھی قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بلاد روم کے اکثر علاقے بھی فتح کر لئے اور ان کی سلطنت اس قدر وسیع ہو گئی تھی کہ عربوں اور خلفاء کے بعد کوئی اور سلطنت اس قدر وسیع اور مستحکم نہیں ہوئی تھی پھر قانون فطرت کے مطابق دو سو سال کے بعد ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

خطا اور تاریخ: جب سلجوقی سلاطین خراسان کی طرف چلے گئے تو ترکستان اور کاشغر کے علاقوں میں ترکی اقوام میں سے قوم خطا ان کی جائشیں ہوئی اور ان کے پیچھے کے علاقہ ترکستان و حدود چین میں تاریخ قوم مسلط تھی۔ ترکستان کے ترک خوانین (سلاطین) ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ان کے ساتھ (جنگ کرنے میں) عاجز رہے۔ چنانچہ ارسلان خان بن محمد بن سلیمان نے اپنی اور چین کی درمیانی سرحدوں کی چھاؤنیاں میں انہیں آباد کر رکھا تھا۔ اور وہ انہیں قند و فساد پر آمادہ رکھتا تھا۔

کو خان کی سلطنت: ۵۲۲ھ میں ترکوں کے شہنشاہ کو خان کے چین کے علاقے سے فوج کسی کی۔ اس کے ساتھ خطا کی فوجیں بھی شامل تھیں ترکستان اور ماوراء النہر کے حاکم محمود بن محمد بن سلیمان نے جو سلاطین خانیہ سے تعلق رکھتا تھا اور سلطان سنجر سلجوقی کا بھانجا تھا۔ ان کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ لہذا اس نے اپنے ماموں سلطان سنجر سے فریاد کیا۔ اس نے خراسان کے سلاطین اور

مسلمان فوجوں کی امداد حاصل کی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے دریائے جیوں کو عبور کیا۔ لہذا تاری اور خطا کی قومیں سب سے جنگ کرنے کے لئے وہاں پہنچیں اور ۵۳۶ھ کے ماہ صفر میں فریقین میں جنگ ہوئی آخر کار سلطان سبخر کو شکست ہوئی اور اس کی بیوی گرفتار ہوئی جسے بعد میں ترکوں کے بادشاہ کوخان نے رہا کر دیا مگر ماوراء النہر کے علاقے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔

سلطان کوخان ۵۳۵ھ میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی ملکہ بنی۔ پھر وہ بھی فوت ہو گئی اس کے بعد اس کی والدہ جو کوخان کی بیوی تھی اور اس کا فرزند محمد مشترکہ طور پر حکمران ہوا۔ اس کے بعد اس خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور قوم خطا ماوراء النہر کے علاقے پر مسلط ہو گئی۔

خوارزم شاہی سلطنت: اس کے بعد خوارزم کے علاقے کو علاء الدین محمد بن تگش نے فتح کر لیا۔ چنانچہ وہ اور اس کے والد خوارزم شاہ کے لقب سے موسوم ہوئے۔ اس زمانے میں علاقہ ماوراء النہر میں خانہ سلاطین کی حکومت تھی انہوں نے قوم خطا کے مقابلے کے لئے خوارزم شاہ سے فوجی امداد طلب کی تو اس نے انہیں فوجی امداد دی اور خود دریا کو عبور کر کے ۶۰۶ھ میں وہاں پہنچا۔ اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ عمر رسیدہ تھا اور فنون جنگ میں ماہر تھا۔ لہذا اس نے ان کا مقابلہ کیا مگر انہوں نے اسے شکست دی خوارزم شاہ نے ان کے بادشاہ طانیوہ کو گرفتار کر کے خوارزم میں مقید رکھا۔ پھر اس نے خطا کے تمام علاقے اور کنڈاتیک فتح کر لئے اور وہاں اپنے ماتحت حکام مقرر کئے اس نے اپنی ہمیشہ کا نکاح سمرقند کے حاکم سے کر دیا جو خانہ سلاطین سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وہاں مسلح فوج بھی رکھی جیسا کہ پہلے وہاں خطا کی فوج تھی اس کے بعد وہ اپنے ملک واپس آ گیا۔

جب وہ واپس چلا گیا تو سمرقند کے خاں (سلطان) نے ایک سال کے بعد اس کی مسلح فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور انہیں قتل کر دیا۔ اس نے خوارزم شاہ کی بہن کو جو اس کی بیوی تھی قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا مگر اس اثناء میں اس نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا اور بزرگ شمشیر شہر میں داخل ہو کر اسے (شاہ سمرقند) اور اس کے رشتہ داروں کو مار ڈالا اور ماوراء النہر میں سلاطین خانہ کی حکومت کے نام و نشان مٹا ڈالے اور ان کے علاقوں کو فتح کر لیا اور جگہ اپنے ماتحت حکام مقرر کر دیئے۔

کشلی خاں: قوم خطا کے پیچھے کے علاقوں میں تاری قوم آباد تھی۔ وہ چین اور ترکستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں آباد تھی اور ان کے بادشاہ کا نام کشلی خاں تھا۔ پڑوسی قومیں ہونے کی وجہ سے ان کے اور قوم خطا کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں۔ جب انہیں یہ علم ہوا کہ خوارزم شاہ نے انہیں شکست دی ہے تو انہوں نے ان سے انتقام لینے کا قصد کیا اور سلطان کشلی خاں تاریوں کا لشکر جرار لے کر خطا کے علاقے میں پہنچا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر اہل خطا نے خوارزم شاہ کو ایک پیغام بھیجا جس میں نرمی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دشمن کے مقابلے میں فوری امداد کی درخواست کی گئی تھی تاکہ دشمن اپنی طاقت مستحکم نہ کر سکے اور قبل از وقت اس کا قلع قمع ہو سکے۔

قوم خطا کا خاتمہ: سلطان کشلی خاں (تاری بادشاہ) نے بھی خوارزم شاہ کے پاس اس قسم (کی امداد حاصل کرنے) کا پیغام بھیجا لہذا وہ جنگی تیاریاں کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین میں سے ہر ایک کو یہ تصور دلاتا رہا کہ وہ ان کی مدد کے لئے پہنچ رہا ہے مگر وہ ان دونوں سے الگ تھلگ رہا یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی اور قوم خطا کو شکست ہو گئی۔ اس وقت وہ

تاریخوں کی حمایت میں خطا قوم کے برخلاف ہو گیا، یوں ہر طرف سے ان کا صفایا ہو گیا۔ چنانچہ ان کے معدودے چند افراد بچ سکے جو ترکستان کے پہاڑوں کے درمیان قلعہ بند ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک قلیل تعداد خوارزم شاہ کے ساتھ مل گئی تھی اور اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔

کشلی خان سے مخالفت: اب خوارزم شاہ نے کشلی خاں کو جو تاریخوں کا بادشاہ تھا قوم خطا کی شکست پر مبارک باد دی اور یہ پیغام دیا کہ (یہ فتح) اس کی امداد کی بدولت میسر ہوئی۔ تا تاری بادشاہ نے (اس کی امداد کا) اعتراف کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ مگر (کچھ عرصہ کے بعد) علاقے کی ملکیت کے بارے میں اس سے جھگڑنے لگا۔ لہذا خوارزم شاہ نے اعلان جنگ کیا مگر اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا وہ جنگ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ جب کشلی خاں اسے اس بارے میں ملامت کرتا تو وہ اسے مغالطہ دیتا رہا۔ اس اثناء میں کشلی خاں نے کاشغر، ترکستان اور سانغون کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔

شہروں کی تباہی: (اب خوارزم شاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ شاش، فرغانہ، اسپجباب، قاشان اور ان کے چاروں طرف کے شہروں کو جو دنیا کے نہایت ہی صاف ستھرے اور خوب صورت شہر تھے وہاں کے باشندوں سے خالی کرائے۔ چنانچہ وہاں کے باشندوں کو دیگر اسلامی شہروں میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام شہروں کو ویران اور تباہ کر دیا تاکہ وہ تاریخوں کے قبضہ میں نہ پہنچ جائیں۔

چنگیز خاں کا ظہور: اس اثناء میں کشلی خاں کے مقابلے کے لئے مغل قوم نمودار ہوئی جن کا بادشاہ چنگیز خاں تھا۔ لہذا کشلی خاں خوارزم شاہ سے جنگ ترک کر کے مغلوں سے جنگ کرنے لگا۔ وہ دریا کو عبور کر کے خراسان پہنچا اور خوارزم شاہ کا وہ حشر ہوا جو آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

خوارزم شاہ کی فتوحات

جب سلطان (خوارزم شاہ) نے خراسان کی طرف کوچ کیا تو اس نے خراسان اور بغداد کے درمیان تمام ممالک فتح کر لئے، ان میں خراسان، مازندران، بامیان اور غزنی سے ہندوستان کی سرحد تک کے شہر شامل تھے، البتہ غوری خاندان کے سلاطین اپنے علاقوں پر قابض رہے اس کے بعد اس نے رے، اصفہان اور (ایران کے) کوہستانی تمام شہر فتح کر لئے اس کے بعد وہ عراق کی طرف روانہ ہوا اور (عباسی) خلیفہ کو پیغام بھجوایا کہ خطبہ میں اس کا نام اسی طرح شامل کیا جائے جس طرح سلجوقی سلاطین کا نام لیا جاتا تھا۔ مگر خلیفہ نے اس پر عمل نہیں کیا جیسا کہ ہم خلفاء کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

پھر وہ عراق سے ۱۱۱۷ھ میں لوٹ آیا اور اس نے نیشاپور میں قیام کیا۔ وہاں اس کے پاس چنگیز خاں کے اپنی معدنی چاندی، نافعہ، منگ، سگریشم اور اونٹوں کی سفید اون سے بنے ہوئے ملک خطا کی پوشاکیں تخائف کے طور پر لے کر آئے۔ چنگیز خاں نے یہ پیغام بھجوایا کہ اس نے چین اور اس کے درمیان کے ترکستانی علاقے فتح کر لئے ہیں لہذا مصالحت کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جائبین سے تاجروں کو اپنا سامان تجارت لانے اور لے جانے کی اجازت دی جائے۔

چنگیز خاں نے اپنے خط میں سلطان خوارزم شاہ کی بے حد تعریف کی تھی اور یہ تحریر کیا تھا کہ وہ اسے اپنی عزیز ترین اولاد کے برابر سمجھتا ہے۔

چنگیز خاں کا اپیلچی: سلطان (خوارزم شاہ) کو اس کی یہ تحریر ناگوار معلوم ہوئی اور ناراض ہو کر اس نے عداوت رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا تاہم اس نے چنگیز خاں کے ایک اپیلچی محمود خوارزمی کو بلوا کر اس سے نرم رویہ اختیار کیا تاکہ وہ اس کے لئے اپنے بادشاہ کے خلاف جاسوسی کرے اور اس سے یہ تصدیق کرانی چاہی کہ آیا چنگیز خاں نے چین فتح کر کے شہر طوغان پر قبضہ کر لیا ہے یا نہیں؟ محمود خوارزمی نے اس بات کی تصدیق کی۔ مگر جب اس نے اس کی فوجی طاقت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اس کی فوج کی تعداد کم کر کے بتائی اور اس بارے میں اسے دھوکا دیا (اور غلط بیانی سے کام لیا)۔ سلطان کو یہ بات ناگوار گزری کہ چنگیز خاں نے اسے بیٹا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تاہم اس نے صلح کا پیغام منظور کر کے اور تاجروں کو (تجارت کی) اجازت دے کر اپیلچیوں کو رخصت کیا۔

تاجروں کا قتل: اس کے بعد ان کے ملک کے کچھ سوداگر گھردار پہنچے جہاں سلطان خوارزم شاہ کا ماموں زاد بھائی انیال خاں موجود تھا۔ اس نے اسے ان کے مال و دولت سے مطلع کیا اور سلطان کو یہ اطلاع پہنچائی کہ وہ درحقیقت سوداگر نہیں ہیں بلکہ ملک میں جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ لہذا سلطان نے اسے احتیاطی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ان کا مال چھین کر انہیں پوشیدہ طور پر قتل کر دیا۔

احتجاجی خط: چنگیز خاں کو جب یہ خبر ملی تو اس نے سلطان کو احتجاجی خط بھیجا اور تحریر کیا کہ اگر یہ انیال خاں کا فعل ہے تو اسے میرے پاس بھیج دو۔ اس نے اپنے خط میں سلطان کو سخت دھمکی دی جس سے برا فروختہ ہو کر سلطان نے اپیلچیوں کو قتل کر دیا۔

چنگیز خاں سے مقابلہ: جب چنگیز خاں کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے اس کے ملک پر فوج کشی کی۔ ایسے موقع پر خوارزم شاہ نے اہل سمرقند سے دو سالوں کا خراج وصول کیا اور اس کے ذریعے شہر سمرقند کی فیصلوں کو مستحکم کر کے اسے قلعہ بند کر دیا۔ پھر اس نے مزید ایک سال کا خراج وصول کر کے اس کی حفاظت اور مدافعت کے لئے گھوڑ سواروں کا دستہ متعین کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خاں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔

چنگیز خاں کے ساتھ اس کی گھسان کی جنگ ہوئی۔ اس میں فریقین کے بہت سے افراد مارے گئے۔ اس نے انہیں شکست دی جب کہ وہ ان سے غائب تھا۔

پھر خوارزم شاہ دریائے جیحون کی طرف لوٹ گیا اور وہاں مقیم ہو گیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو ماوراء النہر کے تینوں صوبوں بخارا، سمرقند اور ترمذ میں منتشر کر دیا اور اپنے سب سے بڑے حاکم آبنان کو بخارا میں مقرر کیا اور انہیں اس کی زیر نگرانی رکھا۔

بخارا اور سمرقند کی تباہی: پھر چنگیز خاں اس کے مقابلہ کے لئے پہنچا تو وہ دریا کو عبور کر کے بھاگ گیا۔ اب چنگیز خاں نے اطرار کے علاقے کا قصد کیا اور اس کا محاصرہ کر کے بزور شمشیر اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے حاکم انیال خاں کو گرفتار کر لیا۔ جس نے اس کے تاجروں کو قتل کرایا تھا۔ چنگیز خاں نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں چاندی پگھلوا کر ڈلوائی۔ پھر اس نے

بخارا کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے پناہ طلب کی چنانچہ انہیں پناہ دے کر اس نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر اہل بخارا قلعہ کی تسخیر میں اس کے ساتھ مل کر لڑے۔ یہاں تک کہ اس نے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ مگر چنگیز خاں نے اہل بخارا کے خلاف عہد شکنی کر کے ان کا قتل کرایا اور انہیں مقید کر لیا۔ اس نے اہل سمرقند کے ساتھ بھی ۱۱۹ھ میں یہی سلوک کیا (کہ ان کا قتل عام کیا اور انہیں مقید کر لیا)

خطوط کا تبادلہ: پھر اس نے خوارزم شاہ کی والدہ کے رشتہ دار امرائے خوارزم شاہ کو خطوط لکھے جو ان خطوط کے جوابات تھے۔ اس نے خوارزم شاہ کی والدہ کی نافرمانی کرنے پر مذمت کی اور اپنے خطوط میں ان سے بہت توقعات وابستہ کیں اور خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاں سے جو خوارزم میں تھی، خراسان میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ ایسا شخص بھیجے جسے وہ جانشین مقرر کر سکے۔

پھر اس نے یہ خطوط سلطان کو بھی بھجوا دیئے۔ جب اس نے یہ خطوط پڑھے تو وہ اپنی والدہ اور اس کے رشتہ داروں سے بدگمان ہو گیا۔ یوں جانبین میں نفرت اور بیزاری کے جذبات پیدا ہو گئے۔

خوارزم شاہ کا فرار: جب چنگیز خاں نے ماوراء النہر کا علاقہ فتح کر لیا تو بخارا کا نائب حاکم اپنی بچی کچی شکست خوردہ فوج کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے بھی بھاگ کر دریا نئے جیوں کو عبور کر لیا۔ اس کے ہمراہ قوم خطا کی جو فوجیں تھیں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ چنگیز خاں نے اس کے عقب میں بیس ہزار کالشکر بھیجا جو مغربی تاتاری فوج کے نام سے موسوم تھا۔ کیونکہ وہ خراسان کی سمت سے قچاق کے علاقے تک تازج کشی کرتی رہی تھی۔ خوارزم شاہ نیشاپور پہنچا مگر تھوڑے عرصہ کے بعد وہ مازندران کی طرف کوچ کر گیا۔ اس وقت بھی تاتاری فوج اس کے تعاقب میں تھی۔

تاتاری فوج کا تعاقب: جب خوارزم شاہ ہمدان پہنچا تو تاتاری فوجوں نے اسے شکست دے کر اس کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ لہذا خوارزم شاہ نے کوہستان طبرستان میں پناہ لی اور اپنی شکست خوردہ فوج کے ساتھ ساحل بحر کے ایک گاؤں میں مقیم ہو گیا مگر تاتاریوں نے اسے وہاں بھی شکست دی تو وہ بحر سے بحیرہ طبرستان کے ایک جزیرہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ تاتاری فوج بھی تعاقب میں پانی میں گھس گئی۔ مگر پانی کے زور کی وجہ سے انہیں لوٹنا پڑا۔

خوارزم شاہ کی وفات: خوارزم شاہ اس جزیرہ میں مقیم رہا مگر بیمار ہو کر وہیں ۱۲۱۰ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنا ولی عہد جلال الدین سکری کو مقرر کیا تھا۔

ترکان خاتون کی گرفتاری: جب خوارزم شاہ کے فرار کی خبر اس کی والدہ ترکان خاتون کو موصول ہوئی تو وہ بھی وہاں سے نکل کر مازندران کے قلعہ ایلاز میں پناہ گزین ہو گئی۔ جب تاتاری فوج خوارزم شاہ کے تعاقب سے واپس آئی تو انہوں نے مازندران کے قلعوں کو فتح کر لیا اور ان پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے قلعہ ایلاز کو مصالحت کے بعد فتح کیا اور وہاں انہوں نے خوارزم شاہ کی والدہ اور اس کی بیٹیوں کو گرفتار کر لیا۔ جن کے ساتھ تاتاریوں نے نکاح کر لیا۔ چنانچہ دوشی خاں بن چنگیز خاں نے بھی اس کی ایک بیٹی سے نکاح کیا اور ترکان خاتون (اس کی والدہ) نہایت ذلت اور گنہامی کے ساتھ تاتاریوں کی قید میں رہی۔

مغربی تاتاریوں کی فتوحات

جب ۱۱۶ھ میں مغربی علاقے کے تاتاری خوارزم شاہ کا تعاقب کرنے کے بعد ہمدان کی طرف لوٹے تو اہل ہمدان نے ان کا مطالبہ پورا کر کے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اہل سجستان نے بھی ان کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا، مگر جب وہ قوس پہنچے تو وہاں کے باشندوں نے ان کا مقابلہ کیا تاتاریوں نے ان کا محاصرہ کر کے اس شہر پر غالب آ کر قبضہ کر لیا اور (ان کے) چالیس ہزار سے زائد افراد کا قتل عام کیا۔

اسلامی شہروں کی تباہی: پھر انہوں نے آذربائیجان کی طرف کوچ کیا تو تہریر کے حاکم نے ان کے ساتھ صلح کر لی لہذا وہ موقان کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ گر جستان کے علاقے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے لوٹ لیا۔ اور جب وہاں کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا تو وہ شکست کھا گئے اور تاتاریوں نے ان کا قتل عام کیا۔ یہ واقعہ ۱۱۶ھ کے آخر میں ہوا۔ پھر وہ (تاتاری فوج) مراغہ کی طرف لوٹی اور ماہ صفر ۶۱۸ھ میں اس پر قابض ہو گئی۔ انہوں نے اس شہر کا صفایا کر کے وہاں سے اہل کی طرف کوچ کیا۔ وہاں کا حاکم مظفر الدین کو کبری تھا۔ اس نے حاکم موصل سے فوجی امداد طلب کی تو اس نے امدادی فوج بھیج دی۔

پھر خلیفہ عباسی الناصر نے درخواست کی کہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر عراق کی مدافعت کے لئے دقتاً پہنچیں۔ اس نے ان کا سپہ سالار حاکم اہل مظفر الدین کو مقرر کر دیا مگر اس نے ان کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور تاتاری بھی ان کا مقابلہ کرنے سے ہچکچاتے رہے۔

فتح ہمدان و آذربائیجان: پھر تاتاری ہمدان آئے۔ وہاں فوجی چوکی تھی جس نے ان سے مصالحت کرنے سے انکار کیا اور جنگ کی لہذا وہ ان پر بزور شمشیر غالب آئے اور ان کا صفایا کر کے باشندوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد وہ آذربائیجان کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے اردبیل کو فتح کر کے قتل عام کیا اور اسے تباہ و ویران کر دیا۔ پھر وہ تہریر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت ازبک بھی بھلوان فوجیوں کی طرف جا چکا تھا۔ لہذا وہاں کے باشندوں نے پناہ حاصل کر کے صلح کر لی۔

بیلقان کی تباہی: اب یہ تاتاری قوم بیلقان پہنچی اور اسے بزور شمشیر فتح کر لیا۔ انہوں نے وہاں خوب خونریزی کی اور تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا پھر وہ وہاں سے ازان کے مرکزی مقام کچھ پہنچے تو وہاں کے باشندوں نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی۔ اس لئے اب وہ گر جستان پہنچے اور انہیں شکست دے کر وہاں کے لوگوں کو ان کے صدر مقام تغلیس میں محصور کر دیا، مگر چونکہ وہ دشوار گزار علاقہ تھا اس لئے وہ اس کے اندر نہیں گس سکے اور وہاں چلے گئے۔

در بند شروان کی طرف پیش قدمی: پھر انہوں نے در بند شروان کا قصد کیا اور شہر سماجی کا محاصرہ کیا، پھر بزور شمشیر اس میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا اور پھر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ در بند (ورہ) کی وجہ سے وہ آگے نہیں جاسکے۔ اس لئے انہوں نے شروان کو مصالحت کے لئے لکھا تو اس نے اپنے چند ساتھیوں کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان میں سے کچھ افراد کو قتل کر دیا اور جو باقی بچ رہے انہیں ذلیل کر کے قتل کر دیا۔

پھر وہ در بند سے اجمہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے وہاں قچاق، لازغز اور ترک مسلمانوں کے دیگر قبائل تھے اور کافر قومیں تو بے شمار تھیں۔ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے (یہ تاتاری قوم) ان پر غالب نہیں آسکی اس لئے اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تا آنکہ (اس طریقے سے) وہ ان کے علاقے پر غالب آگئے پھر انہوں نے اس علاقہ کو تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کا قتل عام کیا اور جو بچ رہے انہیں قیدی بنا لیا۔ ان کی اکثریت ان کے پیچھے کے ملک روس کی طرف بھاگ گئی اور جو باقی بچ رہے انہوں نے پہاڑوں اور دلدلی علاقوں میں پناہ لی۔

فتح سرداق: آخر یہ تاتاری قوم ان کے سب سے بڑے شہر سرداق پہنچی جو خلیج قسطنطنیہ کے قریب بحر نیطش کے کنارے واقع تھا یہ ان کی بندرگاہ تھی اور یہیں سے ان کی تجارت ہوتی تھی لہذا تاتاریوں نے اسے فتح کر لیا۔ یہاں کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور کچھ لوگ بحری سفر سے بلادِ روم چلے گئے جو قچاق ارسلان کے ماتحت تھا۔

روسی علاقے پر حملہ: تاتاری ۶۲۰ھ میں پھر قچاق کے علاقے سے اس کے قریب روسی علاقوں میں گھس گئے۔ یہ بہت وسیع ملک ہے۔ اس کے باشندے عیسائی مذہب کے ہیں۔ وہ اپنے ہی سرحدوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے ان کے ساتھ قچاق کے لوگ بھی شامل تھے اہل روس چند دنوں تک مقابلہ کرتے رہے۔ پھر انہیں شکست ہو گئی تو تاتاریوں نے ان کا قتل عام کیا اور لوٹ مار کے بعد انہیں قیدی بنا لیا۔ یہاں کے باشندے (قتل عام سے بچنے کے لئے) کشتیوں میں سوار ہو کر اسلامی ممالک میں پناہ گزین ہوئے اور اپنے ہم چھوڑ کر چلے گئے جنہیں تاتاریوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔

پھر تاتاری وہاں سے لوٹ آئے اور سال کے آخر میں انہوں نے بلغار کے علاقے کی طرف کوچ کیا، وہاں کے باشندوں نے کچھ لوگوں کو کمین گاہوں میں چھپا کر ان کا مقابلہ کیا جب مقابلہ ہوا تو کمین گاہوں سے (پوشیدہ افراد) پیچھے سے نکلے مگر ان میں سے صرف ایک قلیل تعداد ہی زندہ بچ سکی۔

اس کے بعد تاتاری لوٹ آئے اور طالقان کی سرزمین میں چنگیز خاں کے پاس پہنچے۔ اس وقت قچاق کے باشندے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔

چنگیز خاں کی فتوحات

جب خوارزم شاہ دریائے جیحون کو پار کر کے بھاگ گیا تھا تو مغربی علاقے کے تاتاری اس کے تعاقب میں گئے تھے اس وقت چنگیز خاں نے سمرقند فتح کر لیا تھا۔ اس وقت (تین علاقوں کی طرف فوجیں بھیجی تھیں) فوج کا ایک حصہ اس نے ترمذ کی طرف بھیجا تھا۔ دوسرا حصہ خوارزم کی طرف روانہ کیا تھا اور تیسری فوج اس نے خراسان کی طرف روانہ کی تھی۔ ان میں سے جو فوج خوارزم کی طرف روانہ کی گئی تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ کیونکہ (خوارزم) ملک کا پائے تخت اور سب سے بڑی فوج چھاؤنی تھی۔ اس نے ان فوجوں کے ساتھ اپنے فرزند چغتائی اور ارکطائی کو بھی روانہ کیا تھا۔

تاتاریوں نے اس کا پانچ مہینے تک محاصرہ کیا مگر وہ فتح نہ کر سکے۔ لہذا چنگیز خاں نے مزید فوجی امداد بھیجی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک علاقہ فتح کر کے تمام ملک کو فتح کر لیا۔ پھر انہوں نے دریائے اس بند کو توڑ دیا جو دریائے جیحون کے

پانی کو شہر سے روکے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا نے چیچوں کا پانی سیلاب کی شکل میں شہر میں آ گیا اور اسے غرق کر دیا اور وہاں کے باشندے عراق اور سندھ کے علاقوں میں منقسم ہو گئے۔

نسائی کا بیان: (ابن الاثیر کا بیان ہے) جلال الدین کے کاتب نسائی کا یہ بیان ہے کہ دوشی خاں نے انہیں پناہ دی اور جب وہ (پناہ کے وعدے کے مطابق) اس کے پاس نکل کر آئے تو اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم ۶۱۷ھ میں ہوا۔ اس کے بعد دوشی خاں اور اس کا لشکر چنگیز خاں کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے اسے طالقان میں پایا۔

فتح ترند و فرغانہ: وہ فوج (تاتاری) جو ترند کی طرف روانہ کی گئی تھی۔ اس نے اسے فتح کر لیا۔ پھر آگے بڑھ کر دریائے چیچوں کے قریب قلعہ کلابہ کو فتح کر کے اسے تباہ کر دیا۔ فرغانہ کی طرف جو فوج گئی تھی اس نے بھی ایسا کیا۔

فتح بلخ: خوارزم کے لئے جو فوج روانہ ہوئی تھی وہ دریا عبور کر کے بلخ پہنچی اور ۶۱۷ھ میں وہاں کے لوگوں کو پناہ دے کر اسے فتح کر لیا اور وہاں مسلح چوکی قائم کی پھر یہ فوج زوزان، اید حور اور مازندران پہنچی اور ان (شہروں) کو فتح کر کے وہاں حاکم مقرر کیا۔

قلعہ کی تسخیر: پھر یہ فوج طالقان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے قلعہ صہار کوہ کا محاصرہ کیا جو بہت مستحکم تھا۔ جب اس قلعہ کے محاصرہ کو چھ مہینے گزر گئے تو سلطان چنگیز خاں بنفس نفیس ان کی امداد کے لئے پہنچا اور مزید چار مہینے تک وہ محاصرہ کرتے رہے۔ پھر چنگیز خاں نے حکم دیا کہ لکڑیاں اور مٹی لاکر ایک ایسا اونچا ٹیلہ بنایا جائے جو شہر سے بھی اونچا ہو۔ لہذا جب اہل قلعہ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو انہوں نے قلعہ کا پھانک کھول دیا اور نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ان کے گھوڑ سوار تو بچ نکلے اور وہ مختلف شہروں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر ہو گئے مگر پیدل فوج ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ تاتاری (فوج) نے قلعہ میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا۔

قتل عام: چنگیز خاں نے اپنے ایک رشتہ دار قباچقون کے ہمراہ ایک لشکر یا کی طرف روانہ کیا۔ وہ اس کے محاصرہ کے دوران مارا گیا اس کے بعد جب تاتاریوں نے اسے فتح کیا تو وہاں قتل عام کیا اور اس مقام کو ویران کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر ستر ہزار سے زائد افراد مارے گئے۔

سات لاکھ کا قتل عام: پھر چنگیز خاں نے شہر مرو کی طرف فوجیں روانہ کیں جہاں مختلف جنگوں سے بچ نکلنے والے افراد پناہ گزین تھے۔ چنانچہ (مقابلہ کے لئے) شہر سے باہر دو لاکھ سے زائد (جنگجو سپاہی) اکٹھے ہو گئے تھے۔ جو اپنی فتح مندی کے بارے میں شک و شبہ نہیں رکھتے تھے۔ مگر جب تاتاریوں نے ان کے خلاف حملہ کیا تو وہ ٹکست کھا کر بھاگ گئے۔ دشمن نے ان کا قتل عام کیا۔ پھر تاتاری فوج پانچ مہینے تک شہر کا محاصرہ کرتی رہی۔ آخر کار اس کا حاکم پناہ طلب کرنے پر مجبور ہوا (مگر پناہ دینے کے باوجود) تاتاریوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ان کے قتل عام کے موقع پر خود چنگیز خاں موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر سات لاکھ افراد مارے گئے۔

فتح نیشاپور: پھر تاتاری فوج نیشاپور پہنچی اور وہاں بزور شمشیر گھس کر قتل عام کیا اور علاقہ کو تباہ کر دیا (تباہ کاری کا) یہی

طریقہ انہوں نے طرابلس (?) کے مقام پر اختیار کیا۔ پھر یہ لوگ ہرات کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو پناہ دے کر شہر فتح کر لیا۔ وہاں انہوں نے اپنی فوجی چوکی قائم کی۔ پھر وہ سلطان چنگیز خاں کے پاس طالقان کے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے چنگیز خاں خراسان کے مختلف علاقوں کی طرف فوجی دستے روانہ کرتا تھا۔ آخر کار ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا گیا۔ یہ تمام فتوحات ۶۱۷ھ میں ہوئیں۔

جلال الدین خوارزم شاہ کے کارنامے

چنگیز خاں نے اس کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں فوجیں روانہ کیں جلال الدین اپنے والد کی ہلاکت اور خوارزم سے ترکمان خاتون کے نکلنے کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا اور وہاں کا حاکم ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔

اس اثناء میں جلال الدین کو یہ اطلاع ملی کہ ترکمان خاتون (ملکہ) کے رشتہ دار جو بیارونہ کہلاتے تھے۔ اس کے بھائی بولغ شاہ کے جوان کا بھانجا تھا طرف دار ہو گئے ہیں اور اب وہ جلال الدین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جلال الدین بھاگ کر نیشاپور پہنچ گیا۔ اس کے بعد جب تاتاری فوجیں خوارزم کے شہر کی طرف پہنچیں تو بولغ شاہ اور اس کے دونوں بھائی بھاگ گئے تاکہ وہ بھی اس کے پاس نیشاپور پہنچ جائیں۔ تاتاریوں نے انہیں اس وقت پکڑا جب کہ وہ قندھار کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اس نے ان کا صفایا کیا۔ پھر وہ غزہ (غزنی) کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس شہر کو باغیوں کے قبضہ سے نکال لیا جو اس فتنہ و فساد کے زمانے میں اس پر قابض ہو گئے یہ واقعہ ۱۱۸ھ میں رونما ہوا۔

تاتاریوں کو شکست اب اس کے پاس اس کے والد کے عہد کے وہ امراء بھی آ کر شامل ہو گئے جو اس خانہ جنگی کے زمانے میں خراسان کے مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے تھے مگر تاتاریوں نے انہیں تنگ کر رکھا تھا۔ اس لئے وہ جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قلعہ قندھار کی اس جنگ میں شریک ہوئے جس میں تاتاریوں کو شکست دی گئی تھی اور ان کی شکست خوردہ فوج بھاگ کر چنگیز خاں کے پاس پہنچ گئی۔

نولی خاں کا قتل: چنگیز خاں نے جلال الدین خوارزم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے فرزند طولی خاں (تولی خاں) کو بھیجا مگر جلال الدین نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ جب اس کی شکست خوردہ فوج چنگیز خاں کے پاس پہنچی تو وہ تاتاری فوجوں کو لے کر خود روانہ ہوا اور اس نے جلال الدین سے مقابلہ کیا مگر اسے شکست ہوئی اور بہت کم تاتاری فوج بچ سکی۔

سندھ کے علاقے میں پناہ: اب جلال الدین خوارزم شاہ لوٹ کر دریائے سندھ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے امراء کی ایک جماعت پہلی جنگ میں مال غنیمت کے جھگڑے کی وجہ سے اس سے الگ ہو گئی تھی اس لئے وہ انہیں مانوس کرنے میں مشغول ہوا۔ اتنے میں چنگیز خاں بھی (فوج لے کر) وہاں جلد آ پہنچا اور تین دن تک اس سے جنگ کرتا رہا۔ پھر اس نے اسے شکست دے دی۔ راستے میں دریائے سندھ حائل تھا لہذا وہ دریا پار کر کے سندھ کے علاقے میں چلا گیا۔ یہ واقعہ ۶۱۸ھ میں ہوا۔

خوارزم شاہی سلطنت کی تقسیم

خوارزم شاہ نے اپنا ملک اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے عراق کا حاکم غورن شاہ کو مقرر کیا اور کرمان کا حاکم غیاث الدین تمشک کو مقرر کیا۔ جب خوارزم شاہ بھاگ کر رے کے علاقے میں پہنچا تو اس کا فرزند غورن شاہ نے جو عراق کا حاکم تھا اس سے ملاقات کی پھر تاتاریوں سے جنگ ہوئی تو خوارزم شاہ جزیرہ طبرستان چلا گیا اور غورن شاہ کرمان آ گیا۔ اس کے بھائی غیاث الدین بھی کرمان میں تھا اور اس کا ملک اس کے اور اس کے اتابک (نائب) بقا طرابلسی کے درمیان (تقسیم شدہ) تھا اور وہ آذربائیجان کی طرف بھاگ گیا تھا۔

غورن شاہ اصفہان اور رے کے علاقے پر قابض ہو گیا تھا۔ مگر تاتاریوں نے اس کے خلاف حملہ کر کے اسے قلعہ اوند میں محصور کر دیا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا تھا۔

غیاث الدین کی فتوحات: غیاث الدین نے عراق، مازندران اور خوزستان کو فتح کر لیا تھا۔ اس نے بقا طرابلسی کو ہمدان کا علاقہ دے دیا تھا۔ پھر غیاث الدین نے آذربائیجان کی طرف فوج کشی کی۔ مگر وہاں کے حاکم ازبک بھلوان نے اس سے مصالحت کر لی۔ غیاث الدین کے والد خیرامراخراسان کے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔

طوائف المملوکی: بخارا کا نائب حاکم ابن خاں اس جنگ کے بعد نساء، جرجان، شیروان اور خراسان کے تمام علاقوں پر قابض ہو گیا۔ تکین بھلوان مرو کے علاقے پر قابض تھا۔ لہذا اس نے ۶۱۱ھ میں دریائے جیحون کو پار کر کے تاتاری فوج کو شکست دی۔ پھر انہوں نے اس کا شیروان تک تعاقب کیا اور جرجان کے مقام پر انہوں نے ابن خاں سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔ اس کی شکست خوردہ باقی ماندہ فوج غیاث الدین کے پاس چلی گئی جو عراق رے اور جنوبی علاقہ لوکان اور آذربائیجان کا حاکم تھا۔ یوں سلطنت خوارزم مختلف گروہوں میں منقسم تھی اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی زبردستی کا حاکم بنا ہوا تھا۔ اس وقت تاتاری فوجیں عراق کے شہروں کو روند رہی تھیں، مگر ایسی حالت میں غیاث الدین عیش و عشرت میں مشغول تھا۔

جلال الدین خوارزم شاہ کی واپسی

جلال الدین خوارزم شاہ ۶۲۱ھ میں ہندوستان سے واپس آ گیا اور اپنے بھائی غیاث الدین کے جو مقبوضہ علاقے عراق اور کرمان کے تھے ان پر قابض ہو گیا۔ اس نے (عباسی) خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ اس کا نام خطبہ میں شامل کیا جائے۔ مگر اس نے (یہ مطالبہ) منظور نہیں کیا۔ لہذا وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔

ایرانی شہروں کی تباہی: رے کے شہر کو مغربی تاتاریوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تاہم (ان کے جانے کے بعد) وہاں کے کچھ باشندے واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اسے آباد کر لیا تھا۔ مگر چنگیز خاں نے تاتاریوں کو لشکر بھیج کر اسے دوبارہ تباہ

و برباد کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ سلوہ، قم اور قاشان کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خوارزم شاہ کا لشکر ہمدان سے انہیں دیکھ کر بھاگ گیا تھا تو انہوں نے ہمدان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان کا تعاقب کر کے آذربائیجان کی سرحد میں انہیں شکست دی۔ شکست خوردہ فوج کا کچھ حصہ تبریز کی طرف بھاگ گیا تو تاتاریوں نے ان کا بھی تعاقب کیا مگر وہاں کے حاکم ازبک بن بھلوان نے تاتاریوں کے ساتھ مصالحت کر لی اور (شکست خوردہ فوج کی) ایک جماعت کو قتل کر کے باقی ماندہ افراد کو تاتاریوں کے پاس واپس بھیج دیا اور مقتولوں کے سروں اور مال و دولت کو مصالحت کے طور پر ان کے پاس بھجوا دیا۔ لہذا تاتاری اس کے ملک سے واپس چلے گئے۔

جلال الدین کی فتوحات: اب جلال الدین خوارزم شاہ نے ۶۲۳ھ میں آذربائیجان پر فوج کشی کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اس سلسلے کے حالات ہم اس کے عہد حکومت کے واقعات میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر جلال الدین کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے اپنے ملک سے دریا کے پیچھے سے عراق کی طرف فوج کشی کی ہے لہذا وہ ماہ رمضان ۶۲۵ھ میں تبریز سے ان کے مقابلے کے لئے روانہ ہوا اور اصفہان کے مقام پر ان سے جنگ کی۔ اس موقع پر اس کا بھائی غیاث الدین اپنی فوج کو لے کر اس سے الگ ہو گیا۔

تاتاریوں کی شکست: تاہم تاتاریوں کے دائیں بازو (میسرہ) کو شکست ہوئی تو سلطان ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ وہ کیمین گاہ میں چھپ گئے تھے۔ پھر انہوں نے محاصرہ کر کے اس کی ایک جماعت کو شہید کر دیا۔ آخر کار سلطان نے شدید حملہ کیا تو انہوں نے محاصرہ کھول دیا اور وہ اپنے راستہ پر چلا گیا اور فوجیں شکست کھا کر فارس و کرمان اور آذربائیجان تک پہنچ گئیں۔ تاتاریوں کے پیچھے آنے والی فوجیں جب قاشان سے گزریں تو انہیں معلوم ہوا کہ اسے شکست ہو گئی ہے لہذا وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئیں۔

سلطان (جلال الدین) آٹھ دن کے بعد اصفہان پہنچا تو معلوم ہوا کہ تاتاری اصفہان کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں لہذا سلطان اپنی فوجیں لے کر ان کے مقابلے کے لئے نکلا اور انہیں شکست دی۔ اس نے خود درے تک ان کا تعاقب کیا۔ پھر اس نے ان کے تعاقب کے لئے خراسان تک فوجیں بھیجیں اور خود آذربائیجان چلا آیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں کے حالات اس کے دور حکومت کے حالات میں مذکور ہیں۔

جلال الدین خوارزم شاہ کا آخری دور

جب تاتاری ماوراء النہر (ترکستان) میں رہنے لگے تو انہوں نے وہاں کے شہروں کو آباد کیا اور خوارزم کے قریب ایک بڑا شہر آباد کیا جو اس کا قائم مقام تھا، مگر خراسان کا علاقہ ویران رہا اور وہاں کے امراء بادشاہوں کی طرح خود مختار ہو گئے۔ البتہ جب سلطان جلال الدین ہندوستان سے واپس آیا تو وہ اس کی اطاعت کا اظہار کرنے لگے تھے۔

سلطان جلال الدین عراق و فارس، کرمان، آذربائیجان اور اران کے علاقوں کا واحد حکمران تھا۔ تاہم خراسانج تاتاری فوجوں کا میدان جنگ بنا رہا۔ چنانچہ ۶۲۵ھ میں وہاں سے ان کی ایک فوج اصفہان پہنچی اور اس نے سلطان جلال الدین سے جنگ کی تھی، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

فتح خلاط: اس کے بعد جلال الدین نے خلاط کے علاقے پر فوج کشی کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ اس کے مقابلے کے لئے وہاں کے حاکم اشرف بن العادل نے شام سے اور علاء الدین کی قیادت میں ہلا دروم نے فوجیں بھیجی تھیں۔ یہ واقعہ ۶۲۷ھ میں ہوا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جلال الدین کی فوجی طاقت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے نظام سلطنت میں خلل آ گیا تھا۔

تاتاریوں کی فوج کشی: قلعہ الموت میں اسماعیلیوں کا سردار علاء الدین، جلال الدین کا دشمن تھا۔ کیونکہ جلال الدین نے اس کے علاقے میں قتل عام کیا تھا اور اس پر خراج مقرر کر دیا تھا۔ لہذا اس نے تاتاریوں کو اطلاع دی کہ اس شکست کی وجہ سے اس کی فوجی طاقت کمزور ہو گئی ہے لہذا وہ اس پر حملہ کر دیں چنانچہ تاتاری ۶۲۳ھ کے آغاز میں آذربائیجان کی طرف روانہ ہو گئے۔

جلال الدین کی شکست: جب سلطان (جلال الدین) کو ان کی فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ تبریز سے موخان کی طرف روانہ ہوا اور وہاں خراسان اور مازندران کی امدادی فوج کا انتظام کرتا رہا اور سیر و شکار میں مشغول ہو گیا کہ (اچانک تاتاریوں نے حملہ کر کے) اسے شکست دے دی اور اس کے خیموں کو لوٹ لیا۔ سلطان بچ کر اران کے دریائے راس کی طرف چلا گیا اور وہاں سے آذربائیجان کی طرف لوٹ گیا۔ پھر جب اسے اطلاع ملی کہ تاتاری وہاں بھی پہنچ رہے ہیں تو وہ اران کے مقام پر آ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔

اہل تبریز کی بغاوت: اہل تبریز کو پہلی جنگ کی اطلاع ملی تو انہوں نے خوارزمی فوج کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں قتل کر دیا۔ ان کے حاکم ظفریانی نے انہیں تاتاریوں کی اطاعت کرنے سے روکا مگر جب وہ ہلاک ہو گیا تو انہوں نے اپنا علاقہ تاتاریوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اہل کچہ اور اہل سلغار نے یہی طریقہ اختیار کیا (اپنے علاقے تاتاریوں کے حوالے کر دیئے)

پھر سلطان نے کچھ کے مقام کی طرف فوج کشی کی اور اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ اور بغاوت کے سرغنوں کو قتل کر دیا۔

خلاط کی طرف پیش قدمی: اس کے بعد وہ خلاط کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اشرف بن عادل نے حاکم شام سے فوجی امداد طلب کی مگر وہ اسے وعدوں کے ذریعے بہلاتا رہا۔ پھر وہ مصر کی طرف بھی روانہ ہوا مگر وہاں سے بھی امداد سے مایوس ہو گیا۔ پھر اس نے پڑوس کے حاکموں یعنی حاکم حلب اور حاکم آمد و مار دین سے بھی امداد طلب کی۔ اس نے فوجیں بلا دروم کے علاقے خرت، برت، مصلیہ اور آذربائیجان کی طرف بھیجیں کیونکہ اس کے حاکم کی قباد اور اشرف کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ اس واقعہ سے تمام حکام پریشان ہو گئے اور انہوں نے اسے فوجی امداد نہیں بھیجی۔

جب جلال الدین خلاط میں تھا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے اس کے برخلاف فوج کشی کی ہے۔ اس اطلاع سے وہ بہت پریشان ہوا۔ لہذا اس نے اپنے اتابک (نائب) کو خبر رسائی کے لئے چار ہزار سواروں کے ساتھ بھیجا۔ جب اس کا اتابک اوترا خاں واپس آیا تو اس نے یہ اطلاع بہم پہنچائی کہ تاتاری بلا دروم کی سرحدوں سے واپس چلے گئے ہیں لہذا اس کی قوم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اصفہان واپس چلا جائے۔ مگر آمد کے حاکم نے اسے بلا دروم پر فوج کشی کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اسے یہ توقع دلائی تھی کہ وہ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد قوم تچاق سے رابطہ قائم کر سکے گا اور ان کے ذریعے تاتاریوں پر غالب آسکے گا۔ حاکم آمد نے بذات خود بھی اس کی امداد کرنے کا وعدہ کیا۔ کیونکہ اس طرح وہ حاکم بلا دروم سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ جس نے اس کے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔

غلط مشورہ: سلطان جلال الدین نے حاکم آمد کی رائے پر عمل کیا اور اصفہان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آمد میں مقیم ہو گیا۔ ترکمان قوم نے اسے خطرہ سے آگاہ کیا اور یہ اطلاع دی کہ انہوں نے تاتاریوں کو (بستیوں میں) آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے مگر اس نے ان کی خبر کو غلط سمجھا۔

اچانک حملہ: آخر کار تاتاری فوج ماہ شوال ۶۲۸ھ کی پندرہویں تاریخ کو اچانک آمد پہنچ گئی اور اس نے اس کے خیمے کا محاصرہ کر لیا تاہم اس کے اتابک اوترا خاں نے ان پر حملہ کر کے انہیں اس کے خیمے سے دور بھگا دیا۔

اس وقت سلطان سوار ہو کر چلا گیا اور اوترا خاں نے فوجوں کو لوٹا دیا۔ اس وقت وہ ایک طرف چلا گیا تا کہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ پھر اوترا خاں اصفہان چلا گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ یہاں تک کہ تاتاریوں نے ۶۳۹ھ میں اس سے یہ شہر چھین لیا۔

سلطان جلال الدین کا قتل: سلطان جلال الدین اس وقت بھاگتا پھرا، کیونکہ تمام راستے (در بند) اور درے مفسدوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جو لوٹ مار کر رہے تھے اس لئے اوترا خاں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ واپس آ جائے چنانچہ سلطان میا قارقین کے ایک دیہات میں آ کر مقیم ہو گیا۔ اس وقت اوترا خاں اسے چھوڑ کر حلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر تاتاریوں نے سلطان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ سلطان بھاگ کر جبل الاکراڈ پر چڑھ گیا جہاں کے کردنی افراد ہزنی کی تیاریاں کر رہے تھے لہذا انہوں نے سلطان کا مال و متاع چھین لیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے

میں کسی کو معلوم ہوا کہ یہ سلطان ہے لہذا وہ اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ وہ اسے رہا کر کے کسی علاقہ کی طرف بھیج دے (چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے گیا) مگر جب وہ گھر میں موجود نہیں تھا تو ان کا کوئی رزائل شخص اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ خوارزمیوں سے اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لینا چاہتا تھا جو خلاط میں مارا گیا تھا۔ لہذا اس نے سلطان کو قتل کر دیا اور گھر کے لوگ اسے نہیں بچا سکے۔

تاتاریوں کی تباہ کاریاں: سلطان کے قتل کے واقعہ کے بعد تاتاری فوج آمد آرنزن، میافارقین اور دیاربکر کے تمام علاقوں میں پہنچ گئی انہوں نے ان علاقوں کا صفایا کر کے انہیں تباہ اور ویران کر دیا۔ نیز اسعد کے شہر پر بزد و شمشیر قبضہ کیا اور پانچ دن اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس کا صفایا کر دیا۔

وہ میافارقین کے علاقے سے بھی گزرے مگر وہ ناقابل تیسیر ثابت ہوا پھر وہ نصیبین پہنچے اور اس کے تمام علاقے کا صفایا کر دیا پھر وہ سنجار اور اس کے کوہستانوں کی طرف پہنچے اور خابور بھی گئے پھر وہ ایس پہنچے اور اسے نذر آتش کر دیا۔ پھر وہ خلاط کے علاقوں کی طرف پہنچے اور وہاں ہا کر می اور ارجمیش کا صفایا کر دیا۔

آذربائیجان سے تاتاریوں کا ایک دوسرا فوجی دستہ ارمل کے علاقے کی طرف پہنچا۔ راستے میں وہ ترکمان ایوبیہ اور اکراد الجوزقان کے علاقوں میں سے گزرا تو وہاں انہوں نے لوٹ مار کی۔ جب ارمل کا حاکم اور موصل کا لشکر وہاں گئے باشندوں کی امداد کے لئے پہنچا تو تاتاری فوج آگے جا چکی تھی۔ اس لئے وہ لشکر لوٹ آیا۔ تاہم وہ علاقہ چٹیل میدان بنا رہا۔

چنگیز خان کے حالات

چنگیز خان تاتاریوں اور مغلوں کا عظیم سلطان تھا۔ شہاب الدین بن فضل اللہ کی کتاب میں یوں مذکور ہے:

”چنگیز خان مغلوں کے سب سے مشہور اور عظیم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز میں زائے (مجمہ) کا تلفظ صا دا اور زاء کی درمیانی آواز میں بولا جاتا ہے۔ اس کا اصلی نام ترمچین تھا بعد میں اسے چنگیز کہنے لگے۔ اس کے بعد میں خاں کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ جو ان کے ہاں بادشاہ کے مفہوم میں ہے۔“

چنگیز خان کا نسب نامہ گیارہ ناموں کے بعد مودنچہ تک پہنچتا ہے۔ شہاب الدین ابن فضل اللہ کی کتاب میں مشرق میں معقولات کے امام شمس الدین اصفہانی سے نصیر الدین طوسی کے حوالہ سے منقول ہے۔

”مودنچہ ایک خاتون کا نام ہے جو باپ کے سلسلے سے الگ (نھیال کے رشتہ میں) ان کی بزرگ

تھیں۔“

مودنچہ کی کہانی: کہا جاتا ہے کہ مودنچہ شادی شدہ تھی۔ اس کے دو فرزند ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام بکتوت اور دوسرے کا نام بکتوت تھا اس کی ان اولاد کو بنو العطو کہہ جاتا تھا۔ پھر اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی بیوگی کی حالت میں اسے حمل ہو گیا تو اس کے رشتہ داروں کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ مگر اس نے یہ بیان کیا: ”ایک نور اس کے اندر تین مرتبہ داخل ہوا۔ اس کے بعد اسے حمل ٹھہر گیا۔ لہذا اس کے پیٹ میں تین فرزند زرنیہ ہیں لہذا وضع حمل کے موقع پر اگر اس کی بات سچ نہ نکلے تو جو وہ چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔“

وضع حمل کے موقع پر اس کے تین جڑواں لڑکے پیدا ہوئے۔ اس طرح اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام برقد تھا دوسرے کا نام قونا اور تیسرے کا نام نجو تھا جو چنگیز خاں کے نسب نامہ میں اس کا جدِ اعلیٰ تھا۔ یہ لوگ نورانی بھی کہلاتے تھے کیونکہ موذنِ بچ کے دعوے کے مطابق وہ نور کی اولاد میں سے تھے۔ اسی (روایت) کی بنا پر چنگیز خاں کو آفتاب کا فرزند بھی کہا جاتا تھا۔

نسائی کا بیان: سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سیکرٹری، یحییٰ بن احمد بن علی النسائی اس کی سلطنت کی تاریخ میں یوں تحریر کرتا ہے:

”چین کی سلطنت بہت وسیع ہے اس کی آبادی نو مہینے کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے قدیم زمانے سے اس کے نو صوبے مقرر کئے گئے تھے اور ہر صوبہ ایک مہینے کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر صوبہ کا ایک بادشاہ ہے جسے ان کی زبان میں خان کہا جاتا ہے وہ خانِ اعظم کا نمائندہ اور نائب ہوتا ہے۔“

چین کا بادشاہ: مورخ مذکور مزید رقم طراز ہے ”چین کا سب سے بڑا بادشاہ جو خوارزم شاہ علاء الدین محمد بن کنش کے زمانے میں تھا۔ اسے طرخان کہا جاتا تھا۔ اس نے یہ سلطنت اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی تھی۔ وہ طوغاج میں مقیم تھا جو چین کے وسط کا شہر ہے۔ چنگیز خاں بانی چھ خوانین (بادشاہوں) میں سے تھا۔ وہ صحرائِ نشین قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جو بہت شریف اور بہادر ہوتے تھے۔ اس کا موسم سرما مانا جائے تحت چین کے ایک مقام فارغون تھا۔“

چنگیز خاں کی بادشاہت: وہاں کا ایک اور خان (بادشاہ) تھا جس کا نام دوشی خاں تھا۔ اس نے چنگیز خاں کی بیوی (؟) سے شادی کر رکھی تھی۔ اتفاق سے وہ فوت ہو گیا اور چنگیز خاں اس کی وفات کے دن موجود تھا۔ لہذا اس کی بیوی نے اس کے بجائے چنگیز خاں کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی قوم کو آمادہ کیا کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔

شہنشاہ چین: جب خانِ اعظم طرخان کو یہ اطلاع پہنچی تو اسے یہ ناگوار مسدود ہوا اور وہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ جنگ میں اسے شکست ہوئی اور چنگیز خاں کا ان علاقوں پر بدستور قبضہ رہا اور وہ زبردستی حکومت کرتا رہا۔ پھر باقی ماندہ چھ خوانین (بادشاہ) بھی فوت ہو گئے۔ لہذا چنگیز خاں (چین کا) واحد حکمران ہو گیا اور وہی ان کا شہنشاہ مقرر ہوا۔ وہ خوارزم شاہ سے برس پیکار رہا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

علاء الدین عطاء کا بیان: شہاب الدین ابن فضل اللہ کی کتاب میں صاحب علاء الدین عطاء کی روایت کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”ساتھ تاریخوں کے ایک عظیم قبیلہ کا ایک بادشاہ تھا جو ازبک خاں کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی قوم بہت فرمانبردار تھی۔ چنگیز خاں نے اس سے ملاقات کی تو اس بادشاہ نے اسے اپنا مقرب پارگاہ بنا لیا۔ اس قریبی تعلق کی وجہ سے لوگوں نے بادشاہ سے اس کے خلاف چغٹل خوری کی اور اس قدر شکایتیں کیں کہ وہ چنگیز خاں کے خلاف ہو گیا مگر اس نے مخالفت کو پوشیدہ رکھا اور موقع کا انتظار کرتا رہا۔“

ازبک خاں کی شکست: ایک دفعہ ازبک خاں اپنے دو غلاموں پر سخت ناراض ہوا تو ان دونوں نے چنگیز خاں سے پناہ

طلب کی اس نے ان دونوں کو پناہ دے کر انہیں سلامتی کی ضمانت دی۔ اس کے بعد ان دونوں نے اسے بادشاہ کے (مخالفانہ) رویے سے مطلع کیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے بادشاہ (ازبک خان) کے سخت حملہ کا اندیشہ تھا۔ اس لئے وہ (اپنی فوج کو لے کر) بھاگ گیا۔ مگر ازبک خان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچ گیا تو چنگیز خان نے پلٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے کر اس کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔

فوجی طاقت میں اضافہ (اس جنگ کے بعد) دونوں بادشاہوں کے درمیان عداوت قائم ہو گئی اور چنگیز خان ازبک خان سے الگ ہو گیا۔ اب اس نے اپنے لشکر کو محبت اور الفت سے نوازا اور اس پر انعام و احسان کی بارش برسادی یوں اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا اور مغلوں کے دو بڑے قبیلے اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ ان کے نام یہ تھے (۱) اورات (۲) منفورات۔ ان کی وجہ سے ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔

چنگیز خان نے ان دونوں غلاموں پر بھی بہت احسانات کئے۔ جنہوں نے اسے سلطان ازبک خان کے خطرہ سے آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کا منصب بلند کیا اور جیسا کہ وہ چاہتے تھے اس کے مطابق اس نے ان کے لئے یہ تحریر معاہدہ لکھا کہ ان کی نوپشت تک (نسل در نسل) ان کا منصب برقرار رہے۔

تاتاری شہنشاہ اس کے بعد اس نے سلطان ازبک خان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے لشکر تیار کیا اور اس کی مدد سے اس نے اسے شکست دے کر اسے قتل کر دیا اور تاتاریوں کی پوری سلطنت پر قابض ہو گیا اور مکمل تسلط کے بعد وہ چنگیز خان کے لقب سے موسوم ہو گیا۔ ورنہ اس کا نام ترمچین تھا۔

چنگیزی مجموعہ قوانین چنگیز خان نے اپنی قوم کے لئے اصول سیاست میں ایک کتاب تحریر کرائی جس کا نام سیاست کبیرہ ہے۔ اس میں انتظام سلطنت اور حکمرانی کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ اس میں شرعی احکام کی طرح عام احکام و قوانین بھی مذکور ہیں۔

چنگیز خان نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ کتاب اس کے خزانہ میں محفوظ رکھی جائے اور وہ اس کے (مخصوص) رشتہ داروں کے پاس محفوظ رہے۔ یہ کتاب اس کی جمعی قوم اور اس کے آباء و اجداد کے دین و مذہب کے مطابق تھی۔

وسیع سلطنت اب چنگیز خان اور اس کی اولاد روئے زمین کی مالک بن گئی تھی اور اب اس کی سلطنت عراق، شمالی علاقہ اور ماوراء النہر کے ممالک میں مستحکم ہو گئی تھی بعد ازاں ان سلاطین میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سلاطین مسلمان ہو گئے اور وہ اسلام کے زمرہ میں شامل ہو گئے تا آنکہ ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

چنگیز خان کے جانشین

چنگیز خان کی اولاد بہت تھی جیسا کہ اس کے بدوانہ معاشرہ کا تقاضا تھا۔ مگر ان میں سے مشہور یہ چار ہیں: (۱) دوشی خاں، اسے جرجی بھی کہا جاتا ہے (۲) چغتائی اسے کدائی بھی کہا جاتا ہے (۳) اوکدای یہ اوکتائی کے نام سے بھی موسوم ہے (۴) تولی اسے طولی بھی کہا جاتا ہے۔

ان میں سے پہلے تین فرزند ایک ماں سے ہیں (گئے بھائی ہیں) ان کی والدہ کا نام ابو بوی بنت یحییٰ ہے۔ اس کا والد مغلوں کے امراء کبار میں سے تھا۔ شمس الدین اصفہانی نے ان چاروں فرزندوں کو اس طرح بیان کیا ہے۔

(۱) جرجی (۲) کدائی (۳) طولی (۴) اودکائی۔

سلطان ابوسعید کے سیکرٹری نظام الدین یحییٰ ابن الحلیم نور الدین عبدالرحمن العبادی کی روایت سے شہاب الدین بن فضل اللہ نے یوں بیان کیا ہے:

”کدائی چغتائی ہے اور جرجی طوشی ہے۔“

سلطنت کی تقسیم: جب چنگیز خان نے یہ ممالک فتح کئے تو اس نے یہ ممالک (اپنے فرزندوں میں) تقسیم کر دیئے۔ اس کے فرزند طوشی کو فیلاق سے لے کر بلخار تک کا علاقہ دیا گیا جسے دشت قفچاق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مملکت میں اران، ہمدان، تبریز، مراغہ اور عمیرلان کے علاقوں کا اضافہ کیا گیا۔ کتائی (دوسرے فرزند) کو آمد اور قاباق (؟) کا علاقہ دیا گیا جس کی تشریح ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ اس نے اپنے اس فرزند کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔

چغتائی (حفظائی) کو ایلیوں سے لے کر سمرقند و بخارا اور ماوراء النہر کے ممالک دیئے۔ تولی (طولی) کے لئے کوئی علاقہ متعین نہیں کیا گیا۔ اس کے بھائی اڈنگین نوئی کو اجت کے علاقے دیئے گئے مگر مجھے اس کا مفہوم (حدود) نہیں معلوم ہو سکا۔

جب چنگیز خان کی سلطنت وسیع اور مستحکم ہو گئی تو وہ تخت نشین ہوا اور اپنے قدیم وطن کی طرف جو خطا اور ایقور کے درمیان تھا منتقل ہو گیا۔ اس کا وطن ترکستان اور کاشغر تھا۔ یہاں قراقوم کا شہر ہے جو اس کا پائے تخت تھا۔ اس کا یہ صدر مقام اس کی اولاد کے ممالک کے درمیان ایسا ہی تھا جیسا کہ ایک دائرہ دار مرکز ہوتا ہے۔

اس کا سب سے بڑا فرزند طوشی تھا جسے دوشی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چنگیز خان کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے یہ فرزند چھوڑے تھے۔

(۱) ناخوا (۲) برکتہ (۲) دادردہ (۳) طفول۔ یہ ابن الحکیم کا بیان ہے شمس الدین نے یہ تحریر کیا ہے کہ (اس کی اولاد میں سے) صرف ناخوا اور برکتہ تھے۔

(اس کا دوسرا فرزند) طولی بھی اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ غزنی کے گرد و نواح میں جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا۔ اس نے یہ فرزند چھوڑے تھے۔

(۱) منگو جلائی (۲) ازبیک (۳) ہلاکو۔

پائے تخت قراقوم کے سلاطین

ابن فضل اللہ نے بیان کیا ہے: ”جب چنگیز خان ہلاک ہو گیا تو اس کا فرزند اودکائی تخت نشین ہوا اور دشت قفچاق اور اس سے متعلقہ علاقہ پر قابض ہوا۔ وہ اس کا سب سے چھوٹا فرزند تھا وہ قراقوم کے علاقے کی طرف منتقل ہو گیا جو ان کا اصلی مرکز تھا۔ اس نے اپنا مقبوضہ علاقہ دفرایاق اپنے فرزند کفود کو عطا کیا مگر کدائی جسے چغتائی بھی کہتے ہیں ماوراء النہر کی

سلطنت حاصل نہیں کر سکا۔

اس نے ناظوبن دوشی خان سے اران ہمدان، تبریز اور مراغہ کا مطالبہ کیا اور اپنی طرف سے ایک حاکم کو بھیجا تاکہ وہ ان علاقوں سے ٹیکس وصول کرے اور وہاں کے حکام کو گرفتار کرے (اس سے پیشتر) ناظون نے انہیں تحریر کیا تھا کہ وہ اس کے حاکم کو گرفتار کر لیں چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر کے ناظو کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب کفو کو اس بات کا علم ہوا تو وہ چھ لاکھ کی فوج لے کر روانہ ہوا۔ مگر ابھی منزل مقصود کی طرف پہنچنے میں دس منزلیں باقی تھیں کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

اب قوم نے ناظو سے یہ درخواست کی کہ وہ تخت و تاج کا وارث بنے مگر اس نے انکار کیا اور اس مقصد کے لئے اس نے منگو خان بن تولی کو نامزد کیا اور اس کے پاس اور اس کے دونوں بھائیوں کے پاس جو اس کے ساتھ تھے۔ قبلائی اور ہلاکو کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے بھائی برکتہ کی قیادت میں ایک لاکھ فوج بھیجی تاکہ وہ اسے تخت نشین کرانے میں مدد دے سکے۔

قبول اسلام: جب وہ (برکتہ) بخارا سے لوٹا تو اس کی ملاقات صوفیائے کرائے کے شیخ کبیر نجم الدین کے ایک ساتھی شیخ شمس الدین باخوری سے ہوئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ اس کے (عقیدت مندانہ) تعلقات قائم ہو گئے۔ شیخ موصوف نے اسے خلیفہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ کیا اور اسے ترغیب دی کہ وہ خط و کتابت کر کے خلافت کی بیعت کر لے اور خلیفہ کو تحائف بھجوائے۔

چنانچہ (مغل سردار برکتہ) اور خلیفہ کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہونے لگا اور دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔

منگو خان کی تخت نشینی: اب منگو خان تخت نشین ہو گیا تھا اس نے اپنے چچا چغتائی کی اولاد کو ماوراء النہر کا حاکم مقرر کیا۔ تاکہ چنگیز خان کی اس وصیت پر عمل ہو سکے کہ چغتائی کو اس علاقہ کا حاکم مقرر کیا جائے۔ مگر چغتائی حاکم بننے سے پہلے فوت ہو گیا۔

پھر اس کے پاس قزدین اور بلا دجیل کے باشندوں کا ایک وفد پہنچا۔ اس نے یہ شکایت کی کہ اسماعیلی فرقہ وہاں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے۔ لہذا اس نے اپنے بھائی ہلاکو کو ان کے خلاف جنگ کرنے اور ان کے قلعوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے خلیفہ کے علاقوں پر اچھی طرح قبضہ کر لیا اور اس کے بھائی (منگو خان) نے اسے قابض رہنے کی اجازت دے دی۔

جب برکتہ کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے بھائی ناظو پر ناراض ہوا جس نے منگو خان کو بادشاہ مقرر کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برکتہ اور خلیفہ مستصمم کے درمیان شیخ باخوری کی ہدایت کے مطابق دوستانہ تعلقات قائم تھے لہذا ناظو نے اپنے بھائی ہلاکو کو ہدایت کی کہ وہ اس اقدام سے باز آئے اور پیش قدمی نہ کرے۔

محدوں کی سرکوبی: ہلاکو کے پاس ناظو کے ایلچی اس وقت پہنچے جب کہ وہ ماوراء النہر کے علاقے میں تھا اور لشکر لے کر روانہ نہیں ہوا تھا لہذا کئی سالوں تک اس نے لشکر کشی نہیں کی کہ تا آنکہ ناظون فوت ہو گیا اور اس کے بجائے برکتہ حاکم ہوا۔ اس

وقت ہلاکو نے منگو خان سے دوبارہ (حملہ کرنے کی) اجازت طلب کی اور اس مقصد کے لئے وہ ملحدوں کی سرکوبی کے لئے خلیفہ کے علاقوں میں گھس گیا۔ اس نے ان ملحدوں کو شکست دے کر ان کے قلعوں کو فتح کر لیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ اس نے اہل ہمدان پر بھی حملہ کیا اور انہیں تباہ کیا کیونکہ وہ برکت اور اس کے بھائی ناظو کے حامی تھے۔

ہلاکو کی شکست: پھر ہلاکو نے دشت قفقاز کی طرف پیش قدمی کی تو برکت بے شمار فوج لے کر اس کے مقابلے کے لئے آیا۔ جب فریقین میں جنگ ہوئی تو ہلاکو کے بے شمار سپاہی مارے گئے اور اس نے شکست کھائی۔ بعد ازاں دریائے کرین فریقین کے درمیان حائل ہو گیا اور ہلاکو اپنی مملکت کی طرف واپس چلا گیا۔ مگردونوں کے درمیان عداوت مستحکم ہو گئی۔

سقوط بغداد: اس کے بعد ہلاکو بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ آخر کار وہ مشہور حادثہ (بغداد کی تباہی کا) رونما ہوا جس کا تذکرہ اس کے عہد حکومت کے حالات میں بیان ہوگا۔

اصفہانی کی روایت: ابن فضل اللہ نے شمس الدین اصفہانی کی روایت سے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ ”ہلاکو خود مختار (بادشاہ) نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے نائب حاکم تھا۔ نہ تو اس کے نام کا کوئی سکہ ڈھالا گیا تھا اور نہ کسی سکہ پر اس کے فرزند ابغا کا نام تھا۔ بلکہ جب ارغونو خود مختار حاکم ہو گیا تو اس نے صاحب تخت و تاج (مغل بادشاہ) کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی کندہ کر لیا تھا۔“

وہ مزید رقم طراز ہے: ”مغل تخت نشین (بادشاہ) کا فوجی افسر (کو تو ال) اس وقت سے بغداد میں رہنے لگا تھا مگر جب قازان بادشاہ ہوا تو اس نے اس کو تو ال کو نکال دیا تھا اور مکہ میں صرف اپنا نام ہی باقی رکھا۔ اس کا قول تھا: ”میں نے ہی یہ ملک بزور شمشیر فتح کیا ہے۔“

باغی جماعت: چنگیز خان کے افراد خاندان کی یہ رائے ہے کہ ہلاکو کی والد باغی جماعت ہے کیونکہ چنگیز خان نے (ان کے جد امجد) طولی (تولی) کو کسی علاقہ کا حاکم مقرر نہیں کیا تھا۔ اس نے منگو خان کو بھی جو بعد میں حاکم مقرر ہوا، نائب حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ بعد میں منگو خان کو ناظو ابن دوشی نے تخت نشین کر لیا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔

مجهول النسب: وہ مزید رقم طراز ہے: ”قابل اعتماد حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ہلاکو نے کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑا جو اس کے حسب نسب کی تحقیق کر سکے۔ کیونکہ اس نے اپنی سلطنت کے تحفظ کے لئے ایسے افراد قتل کر دیئے تھے اور جو زندہ بچ نکلے تو وہ اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے نسب کا حال پوشیدہ رہا۔“

مغل سلاطین کی ترتیب: شمس الدین اصفہانی نے مغلوں کے ایک بڑے امیر کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے: ”سب سے پہلے چنگیز خان تخت نشین ہوا۔ پھر اس کا فرزند اوکدائی تخت پر بیٹھا۔ پھر اس کا فرزند کفود بن اوکدائی تخت نشین ہوا۔ پھر منگو خان بن طولی بادشاہ ہوا، پھر اس کا بھائی اریکان تخت نشین ہوا، پھر ان دونوں کا بھائی قبلائی بادشاہ ہوا، پھر دمرفائی تخت نشین ہوا۔ اسے دمرفائی بھی کہتے ہیں۔ پھر تولی کیزی (مغلوں کا) بادشاہ ہوا۔ پھر کیزقان ہوا۔ (آخر میں) سند مردقان طر مالا بن بکمر بن قبلای بن طولی تخت نشین ہوا۔“ یہاں پر ابن فضل اللہ کی تحریر ختم ہوئی ہے۔

تاریخ ابن خلدون: دوسری روایت یہ ہے کہ ”جب منگو خان تخت نشین ہوا تو اس نے بلا دروم پر حملہ کرنے کے لئے ایک مثل سردار میکو کی قیادت میں تاتاری لشکر بھیجا اس نے کلچ ارسلان کی اولاد کے قبضہ سے بلا دروم کو نکال لیا۔ جیسا کہ اس خاندان کے حالات میں مذکور ہے یوں یہ علاقہ مغلوں کے تسلط میں آ گیا تا آنکہ مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

منگو خان کی وفات: اس کے بعد منگو خان نے اپنے بھائی قبلائی خان کو خان کا عہدہ دے کر اس کی قیادت میں ایک لشکر مملکت خطا کی طرف بھیجا پھر خود بھی (لشکر لے کر) اس کے پیچھے روانہ ہو گیا اور قراقوم کے تخت پر اپنے دوسرے بھائی ازبک کو جانشین بنایا۔ مگر راستے ہی میں مملکت غور میں دریائے طائی کے قریب ۶۵۲ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ازبک تخت نشین ہوا اور جب قبلائی خان مملکت خطا سے واپس آیا تو ازبک نے لشکر کشی کر کے شکست دے کر اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد اس نے مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا اور اپنے بھائیوں اور قوم کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں دیا۔ اس لئے وہ قبلائی خان کے حامی ہو گئے انہوں نے اس کو بلوایا تو اس نے آ کر اپنے بھائی ازبک سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اسے قید کر دیا۔ اس کے بعد غانیہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔

قبلائی خان کی حکومت: جب بلا دروم کو فتح کر چکا تو اسے یہ اطلاع ملی تو وہ وہاں سے لوٹ گیا کیونکہ اسے غانیہ کی حکومت کی توقع تھی جب وہ دریائے جیحون کے خرب پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا بھائی قبلائی خان غانیہ میں مستحکم حکومت قائم کر چکا ہے اور وہ اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا اس نے مصالحت کر لی اور اپنے مقبوضہ علاقے پر قانع ہو کر عراق لوٹ آیا۔

قید و کی فتح: قبلائی خان کے آخری عہد حکومت میں ۱۵۷ھ میں سابق بادشاہ اوکدائی کے کسی فرزند نے اس کے خلاف بغاوت کی وہ قید و بن قاشی بن کفود بن اوکدائی تھا۔ اس کے ساتھ قبلائی خان کے کچھ سردار بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے اسے اس مقصد کے لئے ورغلا یا تو وہ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ قبلائی خان نے اپنے فرزند تمقاق کی قیادت میں فوج مقابلہ کے لئے بھیجی، مگر قید و نے اسے شکست دے دی۔ تمقان بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچا تو وہ اس پر سخت ناراض ہوا اور اسے نکال کر مملکت خطا کی طرف بھگا دیا جہاں وہ فوت ہو گیا۔

قبلائی خان کی وفات: اس کے بعد قبلائی قید و پر غالب آ گیا۔ اس زمانے میں سلاطین ماوراء النہر چغتائی خاندان کے ایک فرد براق بن سنغ نے چنگیز خان کی وصیت کے مطابق ماوراء النہر کے علاقے کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ صاحب تخت و تاج قبلائی خان ۶۸۸ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند سرتوق بادشاہ ہوا۔

چنگیز خان کی اولاد میں سے قراقوم کے تخت پر جو سلاطین جاگزیں ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہمیں اسی قدر حالات معلوم ہوئے ہیں۔

چغتائی خاندان کی سلطنت

ترکستان، کاشغر اور ماوراء النہر کا علاقہ اسلام سے پہلے کے عہد میں ترکوں کی پہلی سلطنت تھی، جب ترکستان اور کاشغر کے ترک سلاطین مسلمان ہوئے تو وہ وہیں رہنے لگے تھے اور نوسامان بخارا اور سمرقند کے خود مختار حاکم ہو گئے تھے۔

ان کے بعد سلجوقی اور تاتاری حکام بھی وہیں سے نمودار ہوئے۔

جب چنگیز خان نے ان علاقوں کو فتح کیا تو اس نے وصیت کی کہ یہ مملکت اس کے فرزند چغتائی کو دی جائے۔ مگر اس کی زندگی میں اس کی تکمیل نہیں ہو سکی اور چغتائی یہاں کا حاکم بننے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔

جب منگو خان بن طولی (تولی) تخت نشین ہوا تو چنگیز خان کی وصیت کی تکمیل کے لئے اس نے اپنے چچا چغتائی کی اولاد کو ماوراء النہر کا حاکم مقرر کیا اور منگو خان حاکم ہوا۔ جب منگو خان فوت ہو گیا تو اس کے بھائی ہلاکونے اس کے فرزند مبارک شاہ کو حاکم مقرر کیا۔ پھر قیدو بن قاشی نے ان کے قبضے سے ماوراء النہر کی سلطنت کو چھین لیا۔ اس کا دادا کفوک (?) صاحب تخت و تاج بادشاہ تھا۔ وہ اولکدائی بن چنگیز خان کا فرزند تھا اور منگو خان اس کے بعد بادشاہ ہوا تھا۔

قیدو کی حکومت: جب قیدو اس علاقہ کا حاکم ہو گیا تو اس نے صاحب تخت و تاج بادشاہ قبلائی کے خلاف جنگ کی۔ چنانچہ فریقین میں جنگ ہوتی رہی۔ اس اثناء میں قبلائی نے چغتائی کے فرزندوں کو اپنا ملک واپس لینے میں امداد دی اور اسی خاندان میں سے براق بن سنغ کو حاکم مقرر کر کے اسے فوجی اور مالی امداد دی۔ چنانچہ وہ قیدو بن قاشی پر غالب آ گیا اور اپنے آباؤ اجداد کی سلطنت کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔

چغتائی حکام: اس کے فوت ہونے کے بعد وہاں بادشاہ مقرر ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کے چاروں فرزند یکے بعد دیگرے حاکم ہوئے۔ ان کے نام (بہ ترتیب حوالہ سے) یہ ہیں (۱) کبک (۲) اسعاد (۳) کبک (۴) انجکدائی۔

ان چاروں کے بعد دو اتر بادشاہ ہوا۔ پھر زہا شین بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد تو زون بن ارماکان (ماوراء النہر کا) بادشاہ مقرر ہوا جو منگو خان بن چغتائی (چغتائی) کا پوتا تھا۔ اس اثناء میں کچھ افراد نے زبردستی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا مگر وہ حکومت برقرار نہیں رکھ سکے۔ ان میں سے ایک کا نام سیمار بن ارکم بن بغا ترمین براق تھا۔

بہر حال ترمایشین کے بعد چغتائی خاندان کی سلطنت ڈانواں ڈول، ہی تا آنکہ ان میں سے جنقو بن دو اتر بن حلوا بن براق بن سنغ بادشاہ مقرر ہوا۔

مجوسی خاندان: یہ سارا خاندان مجوسی مذہب کا پابند تھا اور آفتاب کی پرستش کرتا تھا۔ بالخصوص وہ چنگیز خان کے دین و مذہب پر عمل پیرا تھا جسے مجوسیہ مذہب کہا جاتا تھا۔ چغتائی خاندان اس مسلک پر سختی سے عمل کرتا تھا اور اس کی سیاسی پالیسی وہی تھی جو صاحب تخت و تاج منغل بادشاہوں کی تھی۔

ترماشین کا قبول اسلام: چغتائی خاندان میں سے جب ترمایشین بادشاہ ہوا تو وہ ۴۵ھ کے عہد میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے جہاد بھی کیا اور جو (مسلمان) سودا گروہاں آمدورفت رکھتے تھے وہ ان کی تعظیم کرتا تھا (اس سے پہلے) اس ملک میں مصری تاجروں کا داخلہ ممنوع تھا مگر جب انہیں یہ اطلاع ملی تو وہ اس کے ملک پہنچنے لگے (جب وہ واپس جاتے تھے تو) تو وہ وہاں اس کی تعریف کرتے تھے۔

امیر تیمور کا ظہور: جب تمام علاقوں میں چنگیز خان کی اولاد کی سلطنتیں ختم ہو گئیں تو اسی چغتائی خاندان میں سے سمرقند اور ماوراء النہر کے علاقے میں ایک بادشاہ نمودار ہوا۔ جس کا نام ترم (تیمور) تھا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا سلسلہ نسب وہاں

تک کیسے پہنچتا ہے کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ چغتائی خاندان سے نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے سلاطین کی نسل میں سے ایک بچے پر قبضہ کر رکھا تھا جس کا نام طغتمش یا محمود تھا۔ اس کے والد کی موت کے بعد اس کا نام (سلطان کی فہرست میں) شامل کر لیا گیا تھا اور وہ اس پر غالب آ گیا تھا اور اس نے (اپنے آپ کو) ان کے امراء میں مشہور کر دیا تھا۔

نا معلوم نسب: مجھ سے ایک چینی باشندے نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا باپ بھی خود مختار امیر اسی کی طرح تھا تاہم مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا وہ چغتائی خاندان کا خالص النسب فرد تھا یا وہ ان کے حامیوں اور حلیفوں میں سے تھا۔

تیور کی فتوحات: فقیہ برہان الدین خوارزمی نے جو خوارزم کا بڑا عالم اور معزز سردار تھا مجھے یہ بتایا: ”جب ابتداء میں یہ بادشاہ (تیور) نمودار ہوا تو بخارا میں ایک مغل سردار تھا جو حسن کے نام سے موسوم تھا اور خوارزم میں بھی سرانے کے صاحب تخت و تاج سلاطین میں سے ایک شخص تھا جو حاجی حسن صوفی کے نام سے مشہور تھا۔ لہذا سب سے پہلے اس نے بخارا پر لشکر کشی کی اور حسن کو شکست دے کر بخارا کو فتح کر لیا۔ پھر وہ خوارزم پر حملہ آور ہوا اور حاجی حسن صوفی کے ساتھ اس کی طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ اس نے کئی مرتبہ وہاں کا محاصرہ کیا۔

فتح خراسان: جنگ کے دوران حسن صوفی فوت ہو گیا اور اس کا بھائی یوسف اس کا جانشین ہوا تو تر نے اسے شکست دے کر خوارزم فتح کر لیا اور طویل محاصرہ کر کے اسے تباہ و برباد اور ویران کر دیا۔ بعد ازاں اس نے تباہ شدہ حصہ کو تعمیر کرایا۔ اس طرح ماوراء النہر کی مملکت اس کے زیر نگیں ہو گئی تو ان نے بخارا کو پائے تخت مقرر کیا۔ پھر اس نے خراسان کی طرف لشکر کشی کی اور ہرات کے حاکم کو شکست دے کر اسے فتح کر لیا۔ ہماہمے خیال میں ہرات کا حاکم غوری خاندان کی یادگار تھا۔

فتح مازندران و توریز: (تیور) اس کے بعد مازندران کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا وہاں وہ اس کے حاکم شیخ ولی کے ساتھ طویل جنگیں لڑتا رہا آخر کار ۵۸۴ھ میں اس نے فتح حاصل کی اور شیخ ولی توریز کی طرف بھاگ گیا۔ تر نے ۵۸۸ھ میں توریز بھی فتح کر لیا اور شیخ ولی یہاں کی جنگ میں مارا گیا۔

اس کے بعد اس نے شہر اصفہان پر حملہ کیا۔ اہل اصفہان نے مجبوراً (بادلِ خواستہ) اطاعت کی تاہم اس کی قوم اور خاندان کے ایک بڑے سردار نے جس کا نام مہرالدین تھا۔ اس کی مخالفت کی اور سرانے کے تخت نشین طغتمش (مغل بادشاہ) نے اسے امداد فراہم کی اس لئے اس نے پلٹ کر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جنگ کرتا رہا تا آنکہ اس نے اسے شکست دے کر اس کے نام و نشان مٹا دیے اور طغتمش (تخت نشین بادشاہ) نے اس کے مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔

فتح بغداد: تیور نے ۵۹۵ھ میں بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کا بادشاہ احمد بن اویس بن شیخ حسن جو خاندان ہلاکو کے بعد وہاں کا زبردستی بادشاہ بن گیا تھا۔ بغداد سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد بن اویس شام ۵۹۶ھ میں پہنچ گیا۔ یوں تر (تیور) نے بغداد اور الجزیرہ کو دریائے فرات تک فتح کر لیا۔

تاتاری بادشاہ کو شکست: اب مصر کا بادشاہ اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوا اور دریائے فرات کے قریب پہنچ گیا۔ مگر تیور نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ پیچھے ہٹ کر وہ کردوں کے قلعوں اور بلاوروم کی طرف چلا گیا اور آذر بائیجان اور الالباب

کے درمیان قرابانغ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس اثنا میں تخت نشین بادشاہ طغتمش اپنے ملک کی طرف واپس چلا گیا۔ لہذا تیمور نے ۷۹۷ھ میں اس کے ملک پر حملہ آور ہوا اور اسے شکست دے کر اسے تمام ممالک سے نکال باہر کیا۔ اس سال کے آخر میں یہ اطلاع آئی کہ اس نے طغتمش کو مکمل شکست دے کر اسے قتل کر دیا ہے اور اس کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور موجودہ زمانے تک وہ اسی حال میں ہے۔

اہل نجم کی روایت ہے کہ تیمور کے ظہور کی تاریخ لفظ عذب سے نکلتی ہے یعنی جمل کے حساب سے اس لفظ سے ۷۷۲ھ تاریخ نکلتی ہے۔

خاندان دوشی خان کے سلاطین

چنگیز خان نے اپنے فرزند دوشی خان کو خوارزم اور دشت قچاق کا حاکم مقرر کیا تھا یہ شمالی علاقے کی وسیع مملکت ہے جو خوارزم سے شروع ہو کر نازکند، صغد اور صرائی سے گزرتی ہوگی شرما جری، اران، سراق، بلخار، باشقر و اور بدلمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی مملکت کے حدود میں شہر ان کے علاقے کا شہر بلو بھی ہے جہاں لوہے کا پھانک ہے جو درقو کے نام سے موسوم ہے اس مملکت کا جنوبی علاقہ قسطنطنیہ کے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں شہر بہت کم ہیں مگر آبادی اور عمارتیں بہت ہیں۔

دوشی اور ناٹو خان اس مملکت کا جو سب سے پہلا تاریخی بادشاہ مقرر ہوا وہ دوشی خان تھا۔ جب دوشی خان فوت ہوا تو اس کا جانشین اس کا فرزند ناٹو خان ہوا۔ اسے صامر خان کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم حملہ آور بادشاہ ہے۔ وہ اس مملکت کا ۶۵۰ھ تک بادشاہ رہا اور اسی سن میں وہ فوت ہو گیا۔

جب ناٹو فوت ہوا تو اس کا بھائی طرطو بادشاہ ہوا۔ وہ صرف دو سال تک بادشاہ رہا اور ۶۵۲ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی برکتہ بادشاہ مقرر ہوا۔ ابن فضل اللہ نے ابن الکیم کی روایت کے مطابق ان کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔

ابوالفداء کا بیان حاکم حماة (ابوالفداء) المؤید نے اپنی تاریخ میں یوں بیان کیا ہے: ”جب طرطو فوت ہوا تو اس کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ البتہ اس کے بھائی ناٹو خان کے دو لڑکے تھے ان میں سے ایک کا نام تدان اور دوسرے کا برکتہ تھا۔ تدان سلطنت کا امیدوار تھا مگر ارکان سلطنت نے اس کے بجائے برکتہ کو سلطان مقرر کیا۔ جب ہلاکو نے عراق فتح کیا تو تدان کی والدہ ہلاکو کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ وہ اسے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ (ہلاکو) اس کی قوم کا بادشاہ بن جائے، مگر راستے ہی میں اسے روک لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یوں برکتہ ہی اپنی مملکت کا سلطان برقرار رہا۔“

برکتہ کی حکومت: اس روایت میں المؤید (ابوالفداء) نے برکتہ کو ناٹو خان بن دوشی خان کی طرف منسوب کیا ہے اور ابن الکیم نے جیسا کہ ابن فضل اللہ نے بیان کیا ہے اسے براہ راست دوشی خان کا فرزند بتایا ہے۔

اسلام کے لانے کا واقعہ (ابوالفداء) المؤید نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ برکتہ شیخ نجم الدین کے ساتھی شیخ شمس الدین باخوری کے دست مبارک پر مسلمان ہوا۔ اس زمانے میں شیخ باخوری بخارا میں مقیم تھے۔ لہذا انہوں نے اسے دعوت اسلام

دی تو وہ مسلمان ہوا۔

پھر برکت نے شیخ موصوف سے ملاقات کے لئے سفر کیا تو شیخ موصوف نے اسے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ جب ان کے ساتھیوں نے بہت اصرار کر کے اجازت حاصل کی تو وہ ملاقات کے لئے داخل ہوا اور اسلام کے لئے تجدید بیعت کی۔

مذاہرے و مساجد کی تعمیر شیخ موصوف نے برکت سے یہ عہد لیا کہ وہ نہ صرف کھلم کھلا اظہار اسلام کرے گا بلکہ اپنی قوم کو بھی اسلام لانے کی ترغیب دے گا چنانچہ اس نے اپنی قوم کو بھی مسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ اس لئے اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں مساجد اور مذاہرے تعمیر کرائے اور علماء و فقہاء کو مقرب بارگاہ بنایا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازنے لگا۔

(ابوالفداء) المہوید کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برکت اپنی بادشاہت کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ مگر ابن الجکیم کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ناطو کے عہد حکومت میں مسلمان ہوا تھا۔ چونکہ ہمیں مغلوں کی سلطنت کی کوئی (مستند) تاریخ نہیں ملی جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لئے یہ صرف ہماری رائے اور اجتہاد ہے۔

برکت کے دیگر حالات بعد کے واقعات حاکم حماة المہوید (ابوالفداء) کی تاریخ سے ماخوذ ہیں جو مظفر بن شہنشاہ بن ایوب کی اولاد سے تھا۔ وہ رقم طراز ہے۔

”پھر برکت نے اپنے عہد حکومت میں اپنے بھائی ناطو کو جہاد کے لئے مغربی علاقے کی طرف بھیجا اس نے اللان (جرمنی؟) کے فرنگی بادشاہ سے جنگ کی جس میں اسے شکست ہوئی اور وہ لوٹ آیا۔ پھر وہ اسی رنج و افسوس میں مر گیا۔“

ہلا کو کی سازش: اس کے بعد برکت اور صاحب تخت و تاج قبلانی کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور برکت نے قبلانی کی عملداری میں سے خاقانیہ کے علاقہ چچین لیا اور اس کا حاکم اپنے بھائی ناطو کے بیٹے سرنا کو مقرر کیا۔ وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا۔ ہلا کو نے اس کے ساتھ یہ سازش کی کہ وہ اپنے چچا برکت کے خلاف باغی ہو کر صاحب تخت قبلانی کی حمایت کرے۔ اس کے بدلے میں وہ خاقانیہ کے علاوہ جو علاقہ وہ چاہے گا اسے جاگیر میں مل جائے گا۔

برکت کو اس سازش کا علم ہو گیا، اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سرخادا سے زہردے کر قتل کرنا چاہتا ہے لہذا اس نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے بجائے اپنے بھائی کو خاقانیہ کا حاکم مقرر کیا۔

ابغا کی شکست: ہلا کو نے سرخادا کا انتقام لینا چاہا۔ چنانچہ ۶۱۰ھ میں دریائے آند کے قریب ہلا کو اور برکت کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر ہلا کو ۶۱۳ھ میں مر گیا اور اس کا فرزند ابغا (ابا قاتا) اس کا جانشین ہوا تو وہ بھی برکت کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ برکت نے سنٹائی بن بانیقان بن ہطائی اور نوغیہ ابن تہر بن مغل بن دوشی خان کی قیادت میں (فوجیں) اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجیں۔ جب فریقین میں مقابلہ ہوا تو سنٹائی پسا ہوا اور شکست کھا کر لوٹ آیا مگر نوغیہ نے ابغا کو شکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔

یوں برکت پر نوغیہ کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ سنٹائی پر سخت ناراض ہوا اور اس کی قدر و منزلت جانی رہی۔ آخر کار برکت

منگوتر بن طغان بن ناٹوخان

جب برکتہ فوت ہوا تو اس کے بجائے شمالی سلطنت کے تخت پر منگوتر بن طغان بیٹھا اس کا عہد حکومت طویل رہا۔ اس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اشکر کے ساتھ کسی رنجش کی وجہ سے اس کے ملک پر ۶۶۷ھ میں لشکر کشی کی، مگر بادشاہ نے اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا اس لئے وہ واپس آ گیا۔

اس نے ۶۸۰ھ میں ابغان بن ہلاکو کو امداد دینے کے لئے شام پر فوج کشی کی۔ وہ خود بلا دروم کے علاقہ ابلستین اور قیساریہ کے درمیان مقیم ہوا۔ پھر وہ در بند سے گزر کر ابغان کے پاس پہنچا جو رجبہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ پھر اس نے اس کے بھائی منگوتر بن ہلاکو کے ساتھ (شام کے علاقہ) حماة کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ مصر و شام کا بادشاہ منصور قلاؤن بھی دمشق سے ان کے مقابلے کے لئے فوج لے کر روانہ ہوا اور حمص کے باہر نبرد آزما ہوا اس کا نتیجہ تاری بادشاہوں کے برخلاف برآمد ہوا۔ ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور (جو باقی بچے وہ) گرفتار کر لئے گئے۔ ابغارجہ کے محاذ سے بھاگ نکلا اور تاری فوجیں شکست کھا کر اپنے وطن واپس چلی گئیں۔

تدان کی حکومت اس جنگ کے بعد شمالی سلطنت کا بادشاہ منگوتر فوت ہو گیا اور منگوتر بن ہلاکو بھی ۶۸۱ھ میں فوت ہو گیا۔ منگوتر کے بعد اس کا فرزند تدان بادشاہ ہوا اور وہ سرزمین (صرامی) کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے پانچ سال حکومت کی، پھر وہ راہب بن گیا اور تخت و سلطنت سے دست بردار ہو کر مشائخ اور درویشوں کی صحبت میں رہنے لگا۔

قلاؤن کا عہد حکومت جب تدان بن منگوتر راہب بن گیا اور اپنے ملک سے نکل گیا تو اس کا بھائی قلاؤن اس کا جانشین ہوا۔ اس نے الکرک کے علاقے پر حملہ کرنے کا مقصد ارادہ کیا۔ اس نے نوغیہ بن تتر سے بھی تعاون کی درخواست کی جو شمالی سلطنت کے ایک حصہ کا خود مختار حاکم تھا لہذا وہ بھی اپنی فوج لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ یوں ایک لشکر جبار روانہ ہوا اور وہ سب الکرک کے علاقے میں گھس گئے انہوں نے حملہ کر کے فتنہ و فساد برپا کیا، مگر چونکہ موسم سرما آ گیا تھا اس لئے انہیں وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ چونکہ تاری سلطان نے ایسے علاقے پر قبضہ کیا تھا جو جنگل و بیابان پر مشتمل تھا اس لئے وہاں اس کی فوجوں کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو گیا جس کا باعث سخت سردی اور بھوک تھی اور وہ اپنے مویشی اور (سواری کے) جانور کھانے پر مجبور ہوئے۔

نو غیہ سے بدگمانی چونکہ نوغیہ قریبی راستہ سے روانہ ہوا تھا اس لئے وہ اپنی عملداری میں صحیح و سالم اور بخیر و عافیت واپس آ گیا اور وہ ان مصائب کا شکار نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے اس کے معاملے میں سستی اور غفلت اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ظلم و استبداد کی وجہ سے ناراض تھا کیونکہ اس نے کجک کی بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا جو اس کے باپ اور بھائی کے عہد میں بھی صاحب اقتدار تھی۔ اس نے نوغیہ سے شکایت کی تو اس نے حکم دیا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا جائے۔ اس نے اس سردار کو بھی قتل کر دیا جو اس عورت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا نام بیطر تھا۔ ان واقعات کی وجہ

سے قلابغا اس کا مخالف ہو گیا اور اس نے عزم مصمم کر لیا کہ وہ اسے اچانک قتل کر دے گا۔

قلا بغا کا قتل: چنانچہ جب اس نے یہ منصوبہ تیار کر لیا تو اس نے نوغیہ کو بلوایا۔ نوغیہ کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی تھی۔ اس لئے اس نے سلطان کی خیر خواہی اور ہمدردی کا بے حد اظہار کیا۔ اس نے اس کی والدہ کو لکھا کہ وہ سلطان سے تہائی میں خیر خواہی کی باتیں کہنا چاہتا ہے۔

لہذا اس کی

والدہ نے سلطان کو اس منصوبہ سے باز رکھا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ اسے بلوا کر نصیحت کی باتیں سنے۔

چنانچہ نوغیہ کو بلوایا گیا۔ اس نے سلطان قلابغا کے بھائیوں کو (اپنے ہمراہ چلنے کے لئے) جو اس کے حامی تھے ان میں طغٹائی، بولک، صرائی اور تمان شامل تھے جو منگوتمر بن طغان کے فرزند تھے وہ اس کے ساتھ گئے مگر جب سلطان قلابغا اپنے فوجی دستے کے ساتھ نوغیہ سے ملاقات کرنے کے لئے اچانک پہنچا تو وہ (اس کے بھائی) دور ٹھہر گئے۔ نوغیہ نے اپنے سپاہیوں کو کمین گاہ میں چھپا دیا تھا۔ جب دونوں میں ملاقات ہو گئی تو وہ دونوں تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اس کے بعد (نوغیہ کے) پوشیدہ سپاہی کمین گاہوں سے نکل آئے اور انہوں نے سلطان کو محاصرہ میں لے کر مارڈالا۔ قتل کا یہ واقعہ ۶۹۰ھ میں ہوا۔

طغٹائی کی حکومت: سلطان قلابغا کو قتل کرتے ہی اس کے بجائے طغٹائی کو سلطان بنایا گیا اور نوغیہ اپنے علاقے کی طرف واپس چلا گیا۔ اس نے طغٹائی کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ان تمام امراء کو قتل کر دے جنہوں نے قلابغا کے ساتھ مل کر اس کے قتل کی سازش کی تھی۔ چنانچہ طغٹائی نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ پھر وہ بھی نوغیہ سے بدگمان ہو گیا، کیونکہ وہ ظلم و استبداد کے طریقہ پر بدستور قائم رہا۔ اس لئے طغٹائی اس سے متنفر ہو گیا اور اس دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔

طغٹائی کی شکست: جب ارکان سلطنت بھی نوغیہ کے پاس پہنچنے لگے تو وہ انہیں طغٹائی کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ ان امراء میں سے طاز بن منجک کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ آخر کار (سلطان طغٹائی) اس سے (جنگ کرنے کے لئے) روانہ ہوا۔ جب نوغیہ سے اس کا مقابلہ ہوا تو اس نے سلطان کو شکست دی۔ راستے میں دریائے مل حائل تھا لہذا اس کے بہت سے سپاہی دریا میں غرق ہو گئے۔ نوغیہ اس کے تعاقب سے باز رہا اور شمالی علاقوں پر قابض ہونے کے لئے اس نے اپنے بنیرہ قراجا ابن طشتر کو ۶۶۶ھ میں قرم کے شہر کی حکومت دے دی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے مالیانہ وصول کرنے کے لئے پہنچا تو لوگوں نے اس کی ضیافت کی، مگر رات کے وقت سازش کر کے اسے مار ڈالا۔ لہذا نوغیہ نے قرم کے علاقے کی طرف اپنی فوجیں روانہ کیں۔ انہوں نے وہاں جا کر تباہی مچا دی اور اس علاقے کے آس پاس کے تمام گاؤں اور جاگیریں لوٹ لیں اور سارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔

نوغیہ کا قتل: نوغیہ پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ایثار اور رواداری سے کام لیتا تھا، مگر جب وہ خود مختار ہو گیا تو اس نے اپنے فرزند کا مرتبہ اپنے ساتھی امراء سے بڑھ کر مقرر کیا۔ اس کے ہمراہ مغل شہزادوں میں سے ایما جی بن قرمش اور اس کا بھائی قراجا تھے۔ لہذا جب اس نے اپنے فرزند کو ان پر ترجیح دی تو وہ دونوں اپنی قوم کو لے کر طغٹائی کے پاس چلے گئے۔

نوغیہ کے فرزند نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے کچھ واپس آگئے مگر باقی وہیں رہ گئے۔ لہذا نوغیہ کے فرزند نے ایاجی اور قراجا کے ان ساتھیوں کو قتل کر دیا جو واپس آگئے تھے اس پر وہ مغل امراء بہت ناراض ہوئے جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی طغٹائی کے پاس پہنچ گئے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ نوغیہ سے جنگ کرے۔ چنانچہ اس نے فوج اکٹھی کی اور ۶۹۹ھ میں فوج لے کر کواکان بک کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں نوغیہ اور اس کے فرزند کے لشکر کو شکست ہوئی اور نوغیہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ جب اس کا سر طغٹائی کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کے قاتل کو یہ کہہ کر قتل کر دیا۔ ”رعایا خود سلطان کو قتل نہیں کرتی“۔ اس کے بعد نوغیہ کا جنگی خیمہ لوٹا گیا اور ان کے جنگی اسیروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں فروخت کر دیا گیا۔ چنانچہ مصر میں بھی ان غلاموں کی ایک جماعت فروخت کی گئی جو وہاں فوج میں بھرتی کی گئی۔

نوغیہ کے جانشین: جب نوغیہ ہلاک ہوا تو اس کا فرزند جکاء اس کا جانشین ہوا اس کے بھائی نے اس کی مخالفت کی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ لہذا اس کے ساتھی اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے اچانک قتل کرنے کا عزم مصمم کیا۔ اس کام کے لئے اس کا نائب طغرلجای اور اس کا بہنوئی جو اس کی بہن طاز بن محک کا شوہر تھا۔ مقرر ہوا۔ جب اس کی اطلاع اسے موصول ہوئی تو اس وقت وہ لاز اور رہس کے علاقے میں جہاد کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ (یہ خبر سنتے ہی) نہایت تیزی کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آ گیا۔ پھر اس کی فوجیں بھی اس کے پاس پہنچ گئیں تو اس نے ان دونوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں شکست دے دی۔

مستحکم سلطنت: پھر طغٹائی نے جکاء بن نوغیہ کے برعکس ان دونوں کو فوجی امداد بہم پہنچائی تو اسے شکست ہو گئی اور وہ اولاق کے شہروں کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ بلاد عراق کے کسی قلعہ میں محصور ہو جائے وہاں اس کا بہنوئی بھی تھا قلعہ کے حاکم نے اسے گرفتار کر کے طغٹائی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا بھائی طرائی اور اس کا فرزند قراکک بچ نکلے تھے اور وہ دونوں کہیں بھاگ گئے تھے لہذا اب طغٹائی کے لئے میدان جنگوں اور باغیوں سے خالی ہو چکا تھا اور اس کی سلطنت مستحکم ہو گئی تھی۔ اس لئے اس نے اپنی امداد کو اپنے بھائی صرائی بگا اور اپنے دونوں فرزندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس نے منکلی بگا کو باب الحدید کے قریب دریائے الفرات کے علاقے کا حاکم مقرر کیا۔

سازش کا انداز: اس عرصے میں صرائی بن نوغیہ اپنے (پوشیدہ) مقام سے نکل کر طغٹائی کے بھائی صرائی بگا کے پاس پہنچا اور اس سے پناہ طلب کی۔ چنانچہ اس نے اسے پناہ دے کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ بے تکلف ہوا تو اس نے اپنے دل کا راز کھولا اور اسے اپنے بھائی طغٹائی کے برخلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا۔ اس زمانے میں ان دونوں کا بڑا بھائی ازبک زندہ تھا اور وہ طغٹائی کے پاس رہتا تھا۔ لہذا صرائی بگا سوار ہو کر اس کے پاس گیا تاکہ وہ اس (بغاوت) کے معاملے میں اس سے گفت و شنید کرے۔ اس نے اس منصوبہ کی مخالفت کی اور اپنے بھائی طغٹائی کو اس سے مطلع کر دیا تو اس نے فوراً اپنے بھائی صرائی بگا اور صرائی بن نوغیہ دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور ان دونوں کو قتل کر دیا اور اپنے بھائی صرائی بگا کی حکومت بھی اپنے فرزند اہل بہادر کے سپرد کر دی۔

پھر اس نے قراکک بن نوغیہ کی تلاش میں فوج بھیجی مگر وہ شمالی ممالک کی طرف دور دراز علاقے میں چلا گیا اور

وہاں کے کسی بادشاہ کے پاس پناہ گزین ہو گیا تھا۔

۶۰۹ھ میں اس کا بھائی بذالک اور اس کا فرزند اہل بہادر بھی فوت ہو گیا اور ۱۳۷ھ میں طغٹائی بھی فوت ہو گیا۔

ازبک بن طغرلجائی بن منکوتمر

جب طغٹائی فوت ہو گیا تو اس کے نائب السلطنت قطلتمر نے ازبک کو جو اس کے بھائی طغرلجائی کا فرزند تھا۔ اس کے والد طغرلجائی کی بیگم خاتون تو خالون کے مشورہ سے بادشاہ مقرر کیا۔ اس نے اسے اسلام لانے کی ترغیب دی چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور نماز پڑھنے کے لئے اس نے مسجد بھی تعمیر کرائی۔ اس کے ایک امیر نے اس کی مخالفت کی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔

سلطان مصر سے تعلقات۔ سلطان طغٹائی اور سلاطین مصر کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تھے۔ چنانچہ جب طغٹائی فوت ہوا تو اس کے ایلچی ناصر محمد بن قلاؤن کے پاس گئے ہوئے تھے۔ جب وہ ازبک کے عہد حکومت میں وہاں واپس آئے تو ازبک نے ان کا عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا اور ازبک نے (سلطان مصر کے ساتھ) دوستانہ تعلقات کی تجدید کی۔ قطلتمر نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کا اس سے رشتہ کر دے۔ اس نے اس مقصد کے لئے طغٹائی کے بھائی بذالک کی دختر کا نام تجویز کیا۔ لہذا اس تجویز کے مطابق سلطان مصر سے خط و کتابت ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے منگیتلڑکی کو مصر بھیج دیا اور سلطان ناصر نے عقد نکاح کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے۔

اس کے بعد سلطان ازبک اور سلطان ابوسعید کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی جو ہلاکو خان کے فرزندوں کی طرف سے عراق کا تاریخی بادشاہ تھا۔ لہذا ازبک نے اپنی فوجیں آذربائیجان کی طرف بھیج دیں۔

علاقہ پر جھگڑا: روشی خان کے فرزند یہ دعویٰ کرتے تھے کہ توریز اور مراغہ کے علاقہ ان کے ہیں۔ جب قان (بادشاہ) نے ہلاکو کو بلاد اسامعیلیہ اور بغداد کے علاقوں کو فتح کرنے کو بھیجا تھا تو اس نے فوج کی تعداد بڑھائی تھی اور اس کے ساتھ شمالی علاقے کی اس سلطنت کی فوجیں بھی روانہ ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کے لئے توریز کا چارہ (ان کے گھوڑوں وغیرہ کے لئے) مقرر ہوا تھا۔

جب ہلاکو مر گیا تو برکت نے اس کے فرزند ابغا سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کی اجازت دے کہ وہ تبریز میں ایک جامع مسجد اور ایک کپڑا بننے اور کاڑھنے کا کارخانہ تعمیر کرائے۔ چنانچہ جب اس نے اس بات کی اجازت دے دی تو سلطان برکت نے یہ دونوں عمارتیں وہاں تعمیر کرائیں۔

موقان پر حملہ: جب ان میں مصالحت ہو گئی تو یہ علاقہ لوٹایا گیا مگر روشی خان کے سلاطین یہ دعویٰ کرتے رہے کہ توریز اور مراغہ ان کی عملداری میں ہے وہ برابر یہ دعویٰ کرتے رہے تا آنکہ جب سلطان ازبک اور سلطان ابوسعید کے درمیان خانہ جنگی ہوئی تو اس نے اپنی جنگ کا آغاز موقان پر حملہ کر کے کیا اور ۱۹۷ھ میں اس نے اپنی فوج وہاں روانہ کیں۔ ان فوجوں

نے وہاں کا صفایا کیا اور پھر وہ واپس آ گئیں۔

سیول کی فتح خراسان: اس عرصے میں جو بان (جو سلطان ابوسعید کا نائب تھا) اس کی سلطنت پر غالب آ گیا تھا اور وہ چنگیز خان کی اولاد پر بھی حکم چلاتا تھا وہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ براق بن سنفت جو چغتائی کا پرپوتا تھا خوارزم کا بادشاہ مقرر ہوا۔ اس لئے ازبک نے اس سے جنگ کی اور خراسان فتح کر لیا۔ اس نے فوج کی مدد کے لئے اپنے نائب قطلمتر کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور پھر سیول بھی اس مقصد کے لئے روانہ ہوا۔ لہذا سلطان ابوسعید نے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے نائب جو بان کو بھیجا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور سیول خراسان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد جو بان نے اس کے ساتھ مصالحت کر لی۔

سیول ۷۲۰ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان ازبک نے اپنے نائب قطلمتر کو ۷۲۰ھ میں معزول کر دیا اور اس کے بجائے عیسیٰ کو نائب مقرر کیا مگر ۷۲۴ھ کو اس نے قطلمتر کو دوبارہ اس کے عہدہ نیابت پر بحال کر دیا۔

جانی بیگ کی حکومت: سلطان ازبک اور سلطان ابوسعید کے درمیان جنگ اس پورے عرصے میں جاری رہی یہاں تک کہ سلطان ابوسعید ۷۳۶ھ میں فوت ہو گیا۔ اسی سال قان بھی فوت ہو گیا۔ جب سلطان ازبک بن طغر لجائی فوت ہوا اس کا فرزند جانی بک اس کا جانشین ہوا۔

جانی بیگ کی فتوحات: اس سے پیشتر سلطان ابوسعید فوت ہو گیا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی چنانچہ عراق میں اس کا جانشین شیخ حسن ہوا جو ابنا بن ہلاک کے بیروں میں سے تھا باقی علاقوں میں طوائف الملوکی برپا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانی بک نے خراسان کی طرف فوجیں بھیج کر ۷۵۸ھ میں اسے فتح کر لیا پھر اس نے آذربائیجان اور توریز کی طرف لشکر کشی کی۔ ان علاقوں پر الشیخ الصطیر ابن و مرداش بن جو بان حکمران تھا اور اس کے بچے اسراف حاکم بنا تھا۔ لہذا جانی بک نے اس مطالبہ کے ساتھ آذربائیجان پر حملہ کیا جس مطالبہ کا اظہار اس کے بزرگان سلف کرتے تھے۔ آخر کار (وہاں کا حاکم) اسراف مارا گیا اور وہ توریز اور آذربائیجان پر قابض ہو گیا۔ اس نے توریز پر اپنے فرزند برد بیگ کو مقرر کیا تھا اس کے بعد خوزستان کی طرف لوٹا مگر راستے میں جانی بک بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔

برد بیگ بن جانی کا دور: جب توریز سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے جانی بک بیمار ہوا تھا تو ارکان دولت نے اس کے فرزند برد بیگ کو یہ خبر سرعت کے ساتھ پہنچائی اس وقت وہ توریز کا حاکم تھا لہذا اس نے اپنی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر کیا پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم و خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ صرعی (سرائی) پہنچا تو اس کا باپ جانی فوت ہو چکا تھا۔ لہذا لوگوں نے اسے بادشاہ مقرر کیا اور وہ خود مختار بادشاہ بن گیا مگر وہ صرف تین سال حکومت کرنے پایا تھا کہ فوت ہو گیا۔

تاتاری حکام کی خانہ جنگی

جب برد بیگ فوت ہو گیا تو اس کا فرزند طغتمش نہایت نوعمر لڑکا تھا۔ اس کی ہمشیرہ جو برد بیگ کی بیٹی تھی۔ ایک مغل

تاریخ ابن خلدون —————
 سردار کے عقد میں تھی جس کا نام ماما تھی۔ وہ خود مختار حاکم تھا قرم کا شہر اس کی عملداری میں شامل تھا مگر وہ اس زمانے میں وہاں سے غائب تھا اور صرای (سرای) کے گرد و نواح کے علاقوں میں حکام منتشر اور پراگندہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک الگ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ہو گئے تھے۔ چنانچہ حاجی شرکس منج طرحان کے علاقے پر قابض ہو گیا اور اہل خانہ بھی اپنے علاقے کا خود مختار حاکم بن گیا۔ یہی طریقہ ایک خان نے اختیار کیا اور یہ اپنے علاقے کے حکام کہلاتے تھے۔

ماما کی کا عہد حکومت: جب بردیگ فوت ہو گیا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو مذکورہ بالا (حکام) اپنے علاقوں میں خود مختار ہو گئے تو ماما قرم کے شہر پہنچا اور اس نے ازبک القان کی اولاد میں سے ایک لڑکے کو بادشاہ مقرر کیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اسے اپنے ہمراہ لے کر اس نے صرای کی طرف فوج کشی کی لہذا (وہاں کا نام نہاد حاکم) طغتمش بھاگ گیا اور وہ چغتائی بن چینگیز خان کی سلطنت سر قند و ماوراء النہر کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہاں ایک مغل سردار جس کا نام تیور تھا۔ اس سلطنت پر قابض تھا۔ اس نے بھی ایک بچے کو جس کا نام محمود اور طغتمش تھا (برائے نام) بادشاہ مقرر کر رکھا تھا۔ وہ اس کی والدہ سے نکاح کر کے اس پر غالب آ گیا تھا۔ چنانچہ (سرای کا بادشاہ) طغتمش وہاں مقیم ہو گیا۔

سرای پر قبضہ: اس کے بعد وہ حکام جو سلطنت صرای کے مختلف علاقوں پر قابض تھے آپس میں لڑنے لگے چنانچہ منج طرحان کے حاکم حاجی شرکس نے ماما کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے قبضے سے سلطنت صرای کو چھین کر خود اس پر قابض ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماما شہر قرم کی طرف چلا گیا اور وہاں کا خود مختار حاکم ہو گیا۔

جب حاجی شرکس اپنی عملداری سے روانہ ہوا تھا تو اس وقت خوارزم کے علاقے سے ارض خان نے (اس کے خلاف فوجیں بھیجیں) چنانچہ انہوں نے منج طرحان کا محاصرہ کر لیا۔ حاجی شرکس نے اپنے ایک سردار کی قیادت میں فوجیں مقابلہ کے لئے بھیجیں۔ اس سردار نے ایسی تدابیر اختیار کی کہ (دشمن کی فوجیں) شکست کھا کر منج طرحان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس نے ان فوجوں اور ان کے سردار پر اچانک حملہ کیا۔

ایک خان کا حملہ: جب حاجی شرکس اس خانہ جنگی میں مشغول تھا کہ اچانک (دوسرے حاکم) ایک خان نے صرای پر حملہ کر دیا اور اس کے قبضے سے صرای کو چھین لیا اور چند دنوں تک وہ وہاں کا خود مختار حاکم بنا رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا فرزند قاری خان بادشاہ مقرر ہوا۔

ارض خان کا اقتدار: اس زمانے میں خوارزم کے کوہستان سے ارض خان حملہ آور ہوا تو اس نے صرای کو فتح کر لیا اور وہاں سے قاری خان بن ایک خان بھاگ گیا اور اپنی پہلی عملداری پر قابض رہا اور ارض خان صرای کا حاکم بن گیا۔ یہ واقعات ۶۷۶ھ میں رونما ہوئے۔ اس وقت ماما ارض خان کی اصل سلطنت اور صرای کی سلطنت کے درمیان قرم کے علاقے کا حاکم تھا (سابق شاہ صرای) طغتمش اس عرصے میں سلطان تیور کے پاس ماوراء النہر کے علاقے میں مقیم تھا۔

طغتمش کی شکست: اس کے بعد طغتمش نے صرای کی اپنی آبائی سلطنت حاصل کرنے کا عزم مصمم کیا۔ لہذا سلطان تیور نے اس کے ہمراہ فوجیں روانہ کیں چنانچہ جب وہ فوج لے کر خوارزم کے کوہستان میں پہنچا تو ارض خان کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ شکست کھا کر تیور کے پاس واپس آ گیا۔

طغتمش کی فتوحات: جب اسی سال کے درمیان عرصے میں ارض خان فوت ہو گیا تو سلطان تتر فوجیں لے کر طغتمش کے ساتھ ارض خان عملداری کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان تتر واپس آ گیا مگر طغتمش نے (شکست دے کر) کوہستان خوارزم کے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جو ارض خان کی عملداری میں تھے۔

اس کے بعد صرائی کی طرف حملہ آور ہوا۔ وہاں ارض خان کے حکام موجود تھے اس نے انہیں شکست دے کر وہ علاقہ فتح کر لیا اور مامای جن علاقوں پر قابض تھا وہ سب اس نے واپس لے لئے نیز منج طرح خان کے اس علاقے کو بھی فتح کر لیا جو حاجی شرکس کی عملداری میں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے (خودے خست) خود مختار حکام کے تمام علاقے چھین لئے اور ان کے اثر و اقتدار کا نام و نشان مٹا دیا۔

مامائی کی ہلاکت: اس کے بعد وہ قرم کی طرف روانہ ہوا جہاں مامای تھا۔ وہ اس کے مقابلے سے بھاگ گیا۔ پھر اس کی کوئی اطلاع نہیں مل سکی بعد میں یہ خبر ملی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یوں صرائی اور اس کے علاقوں پر طغتمش بن بردیگ کی سلطنت پہلے کی طرح مستحکم ہو گئی۔

سلطان تیمور کی یلغار

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان تیمور (تتر) چغتائی خاندان کی مملکت میں نمودار ہوا تھا۔ وہ ۸۴۷ھ میں بخارا اور سمرقند کو روندنا ہوا خراسان پہنچا تھا۔ اس کے بعد دہرات پہنچا وہاں غوری خاندان کا ایک بادشاہ حکمران تھا۔ اس نے اسے شکست دے کر دہرات فتح کر لیا پھر اس نے مازندران کی طرف فوج کشی کی وہاں ہلاکو خان کی نسل کے بعد شیخ ولی حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ سلطان تیمور طویل عرصے تک جنگ کرتا رہا آخر کار اسے فتح حاصل ہوئی اور شیخ ولی اپنے شکست خوردہ ارکان سلطنت کے ساتھ توریز بھاگ گیا۔

فتح اصفہان: اس کے بعد سلطان تیمور کئی ممالک کو روندنا ہوا اصفہان پر حملہ آور ہوا (وہاں کا حاکم) ابن المنظر نے اطاعت قبول کی تو اس نے توریز پر ۸۷۷ھ میں حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے پیشتر اس نے صرائی کے دشت قفقاز پر حملہ کر کے طغتمش کو شکست دے دی تھی اور اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ طغتمش گردونواح کی طرف بھاگ گیا تھا چنانچہ جب سلطان تیمور اصفہان کی طرف روانہ ہوا تو طغتمش اپنے پائے تخت واپس آ گیا۔

قمر الدین کی سرکوبی: سلطان تیمور کی قوم کا ایک سردار تھا جو قمر الدین کے نام سے مشہور تھا۔ طغتمش نے اس سے خط و کتابت کر کے اسے تیمور کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا اور اس مقصد کے لئے اسے مالی اور فوجی امداد بھیجی۔ چنانچہ اس نے اس علاقے میں تباہی پھیلا دی۔ تیمور کو یہ اطلاع اس وقت ملی جب وہ اصفہان کو فتح کر کے واپس جا رہا تھا لہذا اس نے پلٹ کر حملہ کیا اور قمر الدین کے ساتھ اس کی گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کار تیمور اس پر غالب آ گیا اور اس کی سرکوبی کر کے

۱۔ سلطان تتر سے مراد مشہور سلطان تیمور لنگ ہے جو چنگیز خان کی طرح اکثر اسلامی ممالک پر فاتحانہ انداز سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حالات آگے بیان کئے گئے ہیں۔ (مترجم)

اسے درست کر دیا۔

طغتمش کی جنگیں: اب اس نے طغتمش کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ طغتمش اپنے ایک عزیز اعلان بلاط کو لے کر تیمور کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ تیمور نے اس کے اور اس کے ساتھی امراء کے ساتھ ساز باز کی۔ طغتمش کو ان کے بارے میں شک و شبہ ہوا مگر اس وقت جنگ کا آغاز ہو گیا تھا لہذا اس نے تیمور کے ایک حصہ پر حملہ کیا اور جو مقابلہ پر آیا اسے بھگا دیا۔ اس وقت وہ امراء جنہوں نے تیمور کے ساتھ ساز باز کی تھی بھاگ گئے اور سرحدوں کی طرف پہنچ کر ان پر قابض ہو گئے۔

(یہ حالت دیکھ کر) طغتمش صرایی پہنچا اور اس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اعلان بلاط (شہر) قرم کی طرف بھاگ گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ طغتمش وہاں بھی فوج لے کر پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا (موقع غنیمت سمجھ کر) ارض خان نے (اس کی غیر حاضری میں) صرایی پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ (یہ خبر سن کر) طغتمش (فوج لے کر) صرایی واپس آیا اور اسے اس کے قبضہ سے چھڑایا۔

اس کے بعد اس کی فوجیں قرم پہنچتی رہیں اور اس کا محاصرہ کرتی رہیں تا آنکہ اس کو فتح کر لیا اور اعلان بلاط کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔

بنوالمظفر کا خاتمہ: ادھر سلطان تیمور طغتمش سے جنگ کر کے اصفہان پہنچا اور اسے فتح کر کے خاندان بنوالمظفر کے بادشاہوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی گردن اڑادی۔ یوں ان کے تمام علاقے اس کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔

فتح بغداد: اس کے بعد تیمور نے بغداد پر حملہ کیا اور ۹۵ھ میں وہاں کے حاکم احمد بن اولیس کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ احمد بن اولیس مصر کے بادشاہ سلطان طاہر کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو سلطان مصر فوج لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا اور دریائے فرات تک پہنچ گیا۔

فتح ماردین: ادھر سلطان تیمور بغداد کو فتح کر کے ماردین کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا البتہ اس کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو اس نے وہاں سے حصوں الا کراد (کردوں کے قلعوں) کا قصد کیا۔ اس کے بعد ارمینہ سے گزرتا ہوا بلا دروم پہنچا۔

احمد کا قبضہ بغداد: سلطان طاہر نے احمد بن اولیس کی امداد کے لئے جو فوجیں بھیجی تھیں انہیں لے کر احمد بن اولیس بغداد روانہ ہوا۔ وہاں سلطان تیمور کی مختصر فوج تھی اس لئے احمد بن اولیس نے انہیں شکست دے کر بغداد پر قبضہ کر لیا لہذا سلطان طاہر مصر واپس آ گیا۔

طغتمش کا قتل: اب موسم سرما شروع ہو گیا تھا اس لئے تیمور اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور آذربائیجان اور ہمدان کے درمیان قریب ابق کے علاقے میں اقامت اختیار کی۔ اس کے بعد تیمور کو کچھ اطلاع ملی تو وہ طغتمش سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ ۹۷ھ کے آخر میں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ تیمور نے فتح حاصل کر کے طغتمش کو قتل کر دیا ہے اور اس

غزنی اور بامیان کے سلاطین

غزنی اور بامیان کا علاقہ بھی دوشی خان کی اولاد کے قبضے میں تھا۔ یہ جنوبی حصے میں ماوراء النہر کا علاقہ ہے اس کی سرحدیں بجمتان اور ہندوستان کے متصل ہیں۔ اس سے پہلے یہ علاقہ خوارزم شاہی سلاطین کی سلطنت میں شامل تھا۔ مگر جب تاتاری قوم حملہ آور ہوئی تو ابتدائی زمانے ہی میں اس نے اسے فتح کر لیا تھا۔ چنگیز خان نے اسے اپنے فرزند دوشی خان کو عطا کیا تھا۔ پھر یہ اس کے فرزند اردنو کے پاس آ گیا۔ پھر یہ اس کے فرزند انجی بن اردنو کے قبضے میں آیا۔ وہ ساتویں صدی (ہجری) کے آغاز میں فوت ہو گیا۔ اس کے تین فرزند تھے (۱) بیان (۲) بکب (۳) منغطائی۔ لہذا یہ علاقہ ان تینوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔

بیان کی فتح: بیان جو بڑا فرزند تھا وہ غزنی میں تھا لہذا انجی کے فوت ہونے کے بعد اس کا فرزند بکب بادشاہ بنا تو اس کے (بڑے) بھائی بیان نے اس کی مخالفت کی اور اس نے صراہی کے بادشاہ طغٹائی سے فوجی امداد طلب کی تو اس نے اپنے بھائی کو اس کی امداد کے لئے بھیجا۔ بکب نے قندوز سے امداد طلب کی تو اس نے فوجی امداد ارسال کی مگر وہ مفید ثابت نہیں ہوئی اور اسے شکست ہو گئی وہ ۹۷۹ء میں فوت ہو گیا۔ لہذا بیان تمام علاقے پر قابض ہو گیا، مگر وہ غزنی میں مقیم رہا۔

قوشناہی کا دور: اس کے بعد بکب کا فرزند اور اس کا بھیا قوشناہی اس کے خلاف فوج لے کر حملہ آور ہوا اور اس نے بھی قندوز سے کمک حاصل کی اس مرتبہ اس نے اپنے چچا (بیان) پر فتح حاصل کی اور غزنی کے تخت پر قابض ہو گیا اور وہ وہیں رہنے لگا۔ بیان بھاگ کر طغٹائی کے پاس پناہ گیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ جس نے بیان پر فتح حاصل کی تھی وہ اس کا بھائی طغٹائی تھا اس کے بعد کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے۔

باب: ہشتاد

خاندان ہلاکو کے سلاطین

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ چنگیز خان نے قراقوم میں اپنا پایہ تخت اپنے فرزند اوکدای کو عطا کیا تھا۔ اس کے بعد اس تخت و تاج کا کفود بن اوکدای وارث ہوا۔ بعد ازاں اس کے اور شمالی علاقے کے بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی ہوئی۔ یہ بادشاہ ناظور بن دوشی خان تھا جو صراہی کے تخت کا مالک تھا چنانچہ کفود مغل اور تاتاریوں کی فوج لے کر اس کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ مگر راستے ہی میں فوت ہو گیا۔

اس مغل فوج نے جو اس کے ساتھ تھی اس کا تخت و تاج ناٹو کے حوالے کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی ذات کے لئے یہ تخت قبول نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی منگو خان کو اس مقصد کے لئے بلا بھیجا۔ ان فوجوں کے ساتھ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں قبلائی اور ہلاکو کو بھی بھیجا۔ ان دونوں کے ہمراہ ایک اور بھائی برکتہ بھی گیا تاکہ وہ اسے تخت نشین کرائے۔ چنانچہ وہ ۶۵۰ھ میں تخت نشین ہو گیا۔ جب برکتہ وہاں سے واپس گیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا جس کا سبب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب منگو خان مستقل طور پر تخت نشین ہو گیا تھا۔ اس نے چنگیز خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چغتائی بن چنگیز خان کی اولاد کو ماوراء النہر کے علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔ اور اپنے بھائی ہلاکو کو عراق عجم فتح کرنے اور فرقہ اسماعیلیہ کے قلعوں کو جو ملاحظہ بھی کہلاتے تھے تباہ کرنے کے لئے بھیجا تاکہ وہ خلیفہ المسلمین کے علاقوں کو فتح کر لے۔

ہلاکو بن طولی کے حالات

جب منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو کو عراق کی طرف بھیجا تو وہ ۶۵۲ھ کو اس مقصد کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے فرقہ اسماعیلیہ کے بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا۔ اور ان کا شدید محاصرہ کیا۔ اس اثناء میں اس کی برکتہ بن ناٹو کے ساتھ خانہ جنگی ہو گئی جو شمالی علاقے میں صراہی کا بادشاہ تھا۔ جب برکتہ لوغان بن ططر کے ہمراہ جنگ کے لئے روانہ ہوا تو فریقین کا نہر نول کے قریب مقابلہ ہوا۔ اس وقت سخت سردی کی وجہ سے اس نہر کا پانی منجمد ہو گیا تھا لہذا ہلاکو کو شکست ہوئی اور اس کی تمام فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

ابن العلقمی کا خط: (اس شکست کے بعد) ہلاکو اسماعیلیوں کے علاقے کی طرف لوٹ گیا۔ اس نے قلعہ الموت کا قصد کیا تھا وہاں کا حاکم علاء الدین تھا۔ راستے میں اسے خلیفہ المصمم کے وزیر ابن العلقمی کا خط ملا جو اربل کے حاکم ابن الصلایا نے اسے پہنچایا تھا جس میں اسے اس بات پر آمادہ کیا گیا تھا کہ وہ بغداد پر حملہ کرے۔ اس سلسلے میں وہ اسے سہولتیں فراہم

کرے گا۔

حملہ بغداد کا سبب: (اس خط کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ) ابن العتقی رافضی تھا۔ اس کے حملہ کرخ کے باشندے بھی شیعہ تھے۔ اہل سنت والجماعت کے افراد ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خلیفہ اور دوا داران کی حمایت کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اہل کرخ پر حملہ کر دیا تھا۔ ابن العتقی اس پر بہت برا فروختہ ہوا۔ اس نے پوشیدہ طور پر اہل کے حاکم ابن الصلا یا کو یہ پیغام بھجوایا (کیونکہ وہ اس کا دوست تھا) کہ وہ تاریخوں کو بغداد فتح کرنے پر آمادہ کرے۔ ادھر اس نے عام فوجیوں کو یہ فریب دیا کہ وہ تاریخوں کو عطیات دے کر ان سے مصالحت کر رہا ہے۔

(اس کی سازش سے) ہلاکوانا تاری لشکر لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بلا دروم میں تاری سردار سے بھی امداد طلب کی تاکہ وہ اپنی فوجیں لے کر اس کی امداد کے لئے آئے۔ اس نے پہلے تو انکار کیا پھر وہ فوج لے کر روانہ ہو گیا۔

بغداد پر فوج کشی: جب ہلاکوانا اپنی فوج لے کر بغداد کے قریب پہنچا تو ایک دوا دار مسلمانوں کی فوجوں کو لے کر اس کے مقابلے کے لئے پہنچا اور انہوں نے تاری لشکر کو شکست دی۔ تاریوں نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کی فوجوں کو شکست دی جب یہ فوج بغداد واپس جا رہی تھی تو اس رات دریائے دجلہ میں مختلف مقامات پر شگاف پڑ گئے جو ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام فوج ماری گئی اور ایک دوا دار (جو سپہ سالار تھا) ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ جو فوجی افسر تھے وہ گرفتار ہو گئے۔

سقوط بغداد: اب ہلاکوانا فوجیں شہر بغداد کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے شہر کا ایک عرصہ تک محاصرہ کیا پھر ابن العتقی نے خلیفہ مستعصم اور اپنی ذات کے لئے پناہ طلب کی اس کا خیال یہ تھا کہ ہلاکوانا اس کی جاں بخشی کرے گا۔ لہذا وہ شہر کے معزز افراد کے وفد کو لے کر ماہ محرم ۶۵۲ھ میں ہلاکوانا کے پاس پہنچا (اور تھیاری ڈال دیئے)

قتل عام: اب خلیفہ مستعصم کو گرفتار کر کے مار ڈالا گیا (پھر قتل عام کا حکم دے دیا گیا) کہا جاتا ہے کہ جب مقتولوں کا شمار کیا گیا تو وہ تیرہ لاکھ نفوس تھے اس کے علاوہ جن شاہی محلات اور ان کے خزانوں کو لوٹا گیا تھا ان کی مال و دولت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔

کتب خانوں کی تباہی: وہ علمی کتب جو وہاں کے کتب خانوں میں محفوظ تھیں انہیں دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں سے اس بات کا بدلہ لیا کہ مسلمانوں نے جب مدائن کو فتح کیا تھا تو انہوں نے ایرانیوں کی کتابوں کو تباہ کیا تھا۔

ابن العتقی کا قتل: ہلاکوانے تمام گھروں کو نذر آتش کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس کے ارکان سلطنت نے اس کی حمایت نہیں کی۔ ہلاکوانے ابن العتقی کو وزارت کے اولیٰ عہدے پر برقرار رکھا۔ کیونکہ سلطنت کے آمد و خرچ کا حساب کسی دوسرے شخص کے سپرد تھا جو ہلاکوانا کا زیادہ مقرب بارگاہ تھا ابن العتقی کو صرف آمد و خرچ کے بارے میں ایک حد تک مشورہ دینے کا حق

حاصل تھا۔ اس عہدہ پر بھی وہ کچھ عرصہ تک برقرار رہا کیونکہ بعد میں ہلاکو نے اسے مرواڈالا۔

میا قارقین کی تباہی: ہلاکو نے بغداد کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوجیں میا قارقین کی طرف بھیجیں۔ وہاں کا حاکم اکامل محمد بن غازی ابن العادل تھا۔ انہوں نے کئی سالوں تک اس شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار شہر والے اس محاصرہ سے تنگ آ گئے تو تاتاری لشکر زبردستی شہر میں گھس گیا اور وہاں کی محافظ فوجوں کا صفایا کر دیا۔

حاکم موصل کی مصالحت: اس کے بعد موصل کے حاکم بدر الدین لؤلؤ نے اپنے فرزند رکن الدین اسماعیل کو تحائف دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا اور اپنی اطاعت کا اقرار کیا۔ اس نے یہ تحفے قبول کر لئے اور اسے خان اعظم منگو خان کے پاس قرا قوم بھیجا مگر جب لؤلؤ کو اس کی اطلاع ملنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے اپنے دوسرے دو بیٹوں شمس الدین اسحاق اور علاؤ الدین کو دوبارہ تحفے دے کر بھیجا چنانچہ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے پہلے فرزند کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ جلد واپس آ رہا ہے لہذا اب لؤلؤ (حاکم موصل) بہ نفس نفیس ہلاکو کے پاس پہنچا اور آذربائیجان میں اس سے ملاقات کی۔ وہ میا قارقین کے محاصرہ میں بھی شریک رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزند رکن الدین منگو خان کے پاس سے موصل اور اس کے علاقے کی حکومت کی تقرری کے احکام لے کر واپس آیا۔

(لؤلؤ) ۶۵۷ھ میں فوت ہو گیا اور اس کا فرزند رکن الدین اسماعیل صلاح کا لقب حاصل کر کے اس کا جانشین ہو گیا۔

اربل کا محاصرہ: ہلاکو نے اربل کی طرف بھی فوج بھیجی جس نے اس شہر کا چھ مہینے تک محاصرہ کیا مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی اس لئے فوج وہاں سے واپس آ گئی۔ ایسی صورت میں ابن الصلایا (حاکم اربل) نے موقع غنیمت سمجھا اور شرف الدین کردی کو اپنا جانشین بنا کر وہ ہلاکو کے پاس پہنچا، مگر ہلاکو نے اسے قتل کر دیا۔

حاکم شام کی مصالحت: اس زمانے میں شام کا حاکم ناصر بن العزیز محمد بن الظاہر غازی بن صلاح الدین تھا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ ہلاکو نے بغداد فتح کر لیا ہے تو اس نے اپنے فرزند کو تحائف بھیج کر مصالحت چاہی۔ اس نے یہ معذرت بھی پیش کی کہ شام کے ساحلوں پر فرنگی (حملہ آور) ہیں۔ اس لئے وہ بذات خود ملاقات کے لئے حاضر نہیں ہو سکتا ہے ہلاکو نے اس کے تحائف اور معذرت نامہ قبول کیا۔ اس کا فرزند مختلف وعدے حاصل کر کے واپس آیا۔

فتح البلیحہ: تاہم ہلاکو جزیرہ دیار بکر اور دیار ریحہ کے علاقے نہیں فتح کر سکا اور اس کی مفتوحہ سلطنت صرف دریائے فرات تک ہی قائم رہی جو شام کی سرحد کے قریب تھی۔ ہلاکو نے ۶۵۸ھ میں دریائے فرات کو عبور کر کے البلیحہ کو فتح کر لیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ناصر بن العزیز کا بھائی سعید نظر بند ہے۔ لہذا اس نے اس کو رہا کر کے اسے اس کی اپنی عملداری ضمیمہ اور بانیاس کی حکومت پر بحال کر دیا۔

فتح حلب: اس کے بعد ہلاکو نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور کچھ عرصہ تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھر اس نے اسے فتح کر لیا، مگر از روئے احسان یہ شہر (اس کے باشندوں کو) لوٹا دیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سلطان صلاح ایوب کے بحر یہ ممالک

غلام) نظر بند ہیں جنہیں سلطان ناصر مقید کر رکھا تھا، ان میں سقر اشقر اور تنکو وغیرہ بھی شامل تھے لہذا ہلاکونے ان سب کو رہا کر دیا۔ ان میں قشچاق کا ایک بڑا سردار بھی شامل تھا جو اس کے پاس چلا گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا تھا۔ ہلاکونے اسے ان کے ساتھ شامل کر لیا اور شام کے مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔

دمشق کی طرف پیش قدمی: اس کے بعد اس نے دمشق کی طرف فوجیں روانہ کیں۔ اس وقت سلطان ناصر مصر گیا ہوا تھا۔ لہذا محص کا حاکم صالح بن اشرف اس سے الگ ہو کر ہلاکو کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ہلاکونے اسے دمشق کا حاکم مقرر کر دیا اور وہاں اس کی نگرانی کے لئے اپنے جانشین بھی چھوڑے۔

غلط مشورہ کا نتیجہ: اس کے بعد خلیفہ سلطان مصر قطر سے ناراض ہو گیا اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے لہذا ناصر ہلاکو کے پاس پہنچا، وہ اس پر عنایت کرنے لگا اور اس سے مشورہ کیا کہ آیا وہ شام میں اپنے فوجی دستے چھوڑ جائے یا نہیں؟ ناصر نے (مشورہ میں) مصری فوجوں کی اہمیت گھٹا کر بیان کی۔ چنانچہ ہلاکونے اس کے مشورہ پر عمل کیا اور اپنے ایک تاتاری سردار کبیغا کو مختصر فوج کے ساتھ شام میں چھوڑ دیا۔

تاتاریوں کو زبردست شکست: کبیغا نے سلطان مصر کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اس کے ایلچیوں نے سلطان مصر کے دربار میں اطاعت قبول کرانے میں بد تمیزی کا مظاہرہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نے انہیں مرواڈالا اور شام کی طرف فوجیں لے کر حملہ آور ہوا۔ عین جالوت کے مقام پر ان کا کبیغا کی فوجوں سے مقابلہ ہوا جس میں تاتاری فوجوں کو شکست فاش ہوئی اور ان کا سردار کبیغا بھی مارا گیا۔

ناصر کا بھائی اور رضینہ کا حاکم سعید بھی تاتاریوں کی حمایت میں اس جنگ میں شریک تھا وہ بھی گرفتار ہوا اور مارا گیا۔

حلب کی جنگ: ہلاکونے اس کے بعد اپنی فوجیں المیرہ کے مقام کی طرف بھیجیں اس وقت سعید بن لولو حلب کا حاکم تھا۔ اس کے پاس کافی فوج تھی۔ اس لئے اس نے کچھ فوجیں تاتاریوں کے مقابلے کے لئے بھیجیں مگر انہیں شکست ہو گئی لہذا حلب کے امراء اس وجہ سے سعید کے دشمن ہو گئے انہوں نے اسے قید کر کے حسام الدین جو کندار کو اپنا حاکم مقرر کیا۔ مگر جب تاتاریوں نے حلب پر حملہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے دوست منصور کے پاس محص پہنچ گیا، وہاں سے انہوں نے تاتاریوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی۔ اب تاتاری فوج اقامیہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ پیش قدمی سے ہچکچائی اور اپنے وطن کی طرف کوچ کر گئی۔

حاکم دمشق کا قتل: جب ہلاکو کو (شکست کی) یہ اطلاع ملی تو اس نے دمشق کے حاکم ناصر کو قتل کر دیا۔ کیونکہ اس نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ اس نے مصری فوجوں کو حقیر سمجھنے کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔

ہلاکو کی واپسی: جب ۶۵۸ھ میں ہلاکو نے شام کو فتح کیا تھا تو اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ قان (خان) اعظم منگو خان جب خطا کے ممالک پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ لہذا وہ خان اعظم بننے کی توقع میں جلد واپس چلا گیا مگر (جب وہ وہاں پہنچا تو) اس نے اس کے بھائی قبلائی (خان) کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی ازبک سے خانہ جنگی کرنے کے

بعد اس عہدہ پر متمکن ہو گیا ہے (یہ حالات ہم نے خان اعظم کے حالات میں بیان کر دیئے ہیں) لہذا اس طمع کی وجہ سے وہ شام کو فتح نہیں کر سکا۔

مفتوحہ ممالک۔ جب ہلاکو خان اعظم بننے سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے موجودہ مفتوحہ ممالک پر قناعت اختیار کی اور وہ اپنے وطن لوٹ گیا۔ اس نے جو ممالک فتح کئے تھے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) خراسان، اس کا پائے تخت نیشاپور تھا اور اس کے بڑے شہر یہ تھے۔ طوس، ہرات، ترند بلخ، ہمدان، نہاوند اور

گنجد۔

(۲) عراق عجم، اس کا پائے تخت اصفہان تھا اور اس کے دیگر بڑے شہر یہ تھے: قزدین، قم، قاشان، شہر زور، بختان،

طبرستان، طلان، بلاد اسماعیلیہ۔

عراق عرب۔ اس کا پائے تخت بغداد تھا اور اس کے دیگر بڑے شہر یہ تھے: دینور، کوفہ، بصرہ۔

(۳) آذربائیجان۔ اس کا مرکز توریز تھا۔ اس کے بڑے شہر یہ تھے: حران، سلماں، قچاق۔

(۴) خوزستان۔ اس کا مرکزی شہر شتر تھا اور ہوازو وغیرہ اس کے شہر تھے۔

(۵) فارس۔ اس کا مرکزی شہر شہر از تھا اور اس کے دیگر بڑے شہر یہ تھے: میافارقین، نصیبین، سنجا، اسعد و دہیس،

حران، رباور، جزیرہ ابن عمر۔

(۶) بلاد الروم۔ اس کا پائے تخت قونہ تھا اور اس کے بڑے شہر یہ تھے: ملطیہ، اقصا، اونکار، سیواس، انطاکیہ، علایا۔

مصر میں خلافت کا احیاء۔ اس اثناء میں خلیفہ مستصم کا چچا احمد الحاکم بغداد کی شکست کے بعد مصر پہنچ گیا۔ اس کے ہمراہ مصر کا حاکم صالح بن لؤلؤ بھی پہنچا تھا۔ کیونکہ تاتاری فوج نے اسے بصرہ سے بھاگ دیا تھا۔ لہذا سلطان ظاہر بھیرس نے احمد الحاکم کو ۶۵۹ھ میں خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور اسے بغداد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے (فوج دے کر) بھیجا تھا اور اس کے ہمراہ صالح بن لؤلؤ کو بھی موصل فتح کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔

خلیفہ کی فوج کو شکست۔ جب اس فوج نے دریائے فرات عبور کر لیا اور بغداد کے قریب پہنچی تو تاتاری لشکر نے ہیبت اور غائبانہ درمیان خلیفہ کی فوج کو شکست دی، مگر صالح بن لؤلؤ اور اس کا بھائی موصل کی طرف بھاگ گئے۔ تاتاری لشکر نے موصل کا سات مہینے تک محاصرہ کیا اور آخر کار وہ بزور شمشیر شہر میں گھس گئے اور اس نے صالح بن لؤلؤ کو قتل کر ڈالا۔

ہلاکو اور برکتہ کی جنگ۔ اب سلطان ظاہر بھیرس ہلاکو سے خوفزدہ ہو گیا تھا مگر اس اثناء میں شمالی سلطنت کے بادشاہ برکتہ نے ۶۷۰ھ میں سلطان ظاہر بھیرس کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ سلطان ظاہر نے اس اطلاع کو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ ہلاکو کے ساتھ جنگ کرے۔ برکتہ کے تعلقات پہلے ہی سے اس کے ساتھ کشیدہ تھے لہذا وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور اسے شام کی طرف پیش قدمی سے روک دیا۔

مغل سردار کا فرار۔ اس کے بعد ہلاکو نے البیرہ کا محاصرہ کرنے کے لئے ایک بڑے مغل سردار دربابائی کی قیادت میں

تاتاری لشکر روانہ کیا اس کے پیچھے اپنے فرزند ابغا کو بھی (فوج دے کر) روانہ کیا۔ ادھر سلطان ظاہر نے وہاں کے باشندوں کی امداد کے لئے فوجیں بھیجیں۔ جب وہ دربائی کے لشکر کے قریب پہنچیں تو دربائی انہیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے خیمے اور تمام ساز و سامان بھی وہیں چھوڑ دیا اور بھاگ کر ابغا (فرزند ہلاکو) کے پاس پہنچ گیا۔ ابغا اس پر سخت ناراض ہوا اور اس نے اسے قید کر دیا۔

ہلاکو نے عراق پر دس برس حکومت کی تھی کہ وہ ۶۶۳ھ میں فوت ہو گیا۔

ابغا بن ہلاکو

جب ہلاکو فوت ہو گیا تو اس کا فرزند ابغا اس کا جانشین ہوا۔ اپنی حکومت کے آغاز میں وہ سب سے پہلے شمالی سلطنت کے بادشاہ برکتہ کے خلاف جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان برکتہ نے اپنے ایک عزیز نوغانی ططر بن مغل دوشی خان اور سنغ بن منگو خان کی قیادت میں فوجیں روانہ کیں ان میں سے سنغ تو مقابلہ کرنے سے خوف زدہ ہوا اور شکست کھا کر واپس چلا گیا مگر نوغانی مقابلے پر ڈنار ہا اور اس نے ابغا کو شکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔ اس وجہ سے سلطان برکتہ کے دل میں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔

سلطان ابغا نے ۶۶۱ھ میں دربائی کی قیادت میں البیرہ کے محاصرہ کے لئے فوجیں بھیجیں لہذا سلطان الظاہر نے دریائے فرات کو عبور کر کے انہیں شکست دی اور دریائی کے بہرہ دو سرداروں کو قتل کر دیا۔ دریائی نے شکست کھا کر ابغا کے پاس جا کر پناہ لی۔ سلطان ابغا اس پر بہت ناراض ہوا اور اسے معزول کر کے ابطائی کو افسر مقرر کیا۔

تکدار کی شکست: ۶۶۲ھ میں سلطان ابغا نے تکدار بن موجی بن جھطانی بن چنگیز خان کے علاقے پر فوج کشی کی تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی براق بن سنغ سے فوجی امداد طلب کی تو وہ بذات خود امداد فوج لے کر روانہ ہوا۔ ادھر سلطان ابغا نے روم کی فوجوں سے امداد طلب کی جن کے سردار طمقان اور برونا تھے۔ آخر کار فریقین کا گرجستان میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں تکدار کو شکست ہوئی اور اس نے وہاں ایک پہاڑ پر پناہ لی۔ اس کے بعد اس نے سلطان ابغا سے جان بخشی کی درخواست کی۔ چنانچہ اس نے اسے پناہ دے کر یہ عہد لیا کہ وہ نہ تو عمدہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور نہ تیر و کمان استعمال کرے گا۔

تاتاری فوج کو شکست: ۱۰ اس کے بعد سلطان ابغا کو یہ خبر ملی کہ سلطان ظاہر حاکم مصر (فوج لے کر) ہلاکو روم کی طرف روانہ ہوا ہے لہذا اس نے بھی دو مغل جرنیلوں کی قیادت میں فوجیں بھیجیں ان دونوں جرنیلوں کے نام تداوان اور تخوا تھے۔ چنانچہ وہ دونوں فوجیں لے کر روانہ ہوئے اس اثناء میں سلطان ظاہر نے ان کے سرحدی شہر قیساریہ کو فتح کر لیا۔

جب سلطان ابغا کو یہ اطلاع ملی تو وہ بذات خود شکست کے مقام پر پہنچا۔ وہاں اس نے صرف اپنی قوم کے سپاہیوں کی لاشیں دیکھیں اور (حاکم روم) برونا تہ کے کسی فوجی کی لاش کا وہاں نام و نشان نہ تھا لہذا اس نے (اس شکست کا) ذمہ دار اسے قرار دیا اور واپس کے بعد اسے بلوا کر قتل کر دیا۔

رحبہ کا محاصرہ: سلطان ابغا نے ۶۸۰ھ میں دریائے فرات کو عبور کر کے رحبہ کا محاصرہ کیا۔ اس نے مار دین کے حاکم کو بھی

بلوا بھیجا۔ چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوا۔ صرای کے بادشاہ بذلہ کا بھتیجا منگو ترم بھی مغل، گرجستانی اور رومی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا۔ وہ قیساریہ اور ابلسین سے گزرتا ہوا اور بند کو عبور کرتا ہوا رجب پہنچا اور اس کا محاصرہ کیا۔ سلطان ابغانے بھی اپنے بھائی منگو ترم بن ہلا کو کی قیادت میں اس کی امداد کے لئے فوجیں روانہ کیں اور وہ خود رجب کے قریب مقیم رہا۔

ابغانے کی شکست: سلطان ظاہر مصر سے مسلمانوں کی فوجوں کو لے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور حمص کے مقام پر اس کا تاتاری فوجوں سے مقابلہ ہوا جس میں تاتاری فوجوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ (یہ حالت دیکھ کر) سلطان ابغانہ رجب کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا بھائی اس شکست کے بعد واپس آتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جزیرہ میں جس کا نام موموا خا تھا ایک سردار کے پاس ٹھہرا جو اس کے کسی فعل کی وجہ سے اس سے کینہ رکھتا تھا۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے زہر ملا کر پلایا (جس سے وہ مر گیا) پھر وہ سردار مصر بھاگ گیا اور خود تو گرفتار نہ ہو سکا البتہ اس کے اہل و عیال قتل کر دیئے گئے۔

سلطان ابغانہ بھی ۶۸۱ھ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے وزیر اصحاب شمس الدین جونی نے جو اس کا مشیر خاص اور اس کی سلطنت کا بزرگ شخص تھا اس سے خوف کھا کر اسے زہر دے دیا تھا۔

احمد بن تکلدار بن ہلا کو

جب ابغان بن ہلا کو فوت ہوا تو اس وقت اس کا فرزند ارغو (پائے تخت میں) موجود نہ تھا اور خراسان گیا ہوا تھا۔ لہذا مغل سرداروں نے اس کے بھائی تکلدار کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام احمد رکھا گیا۔ اسی نام سے اس کے زمانے کے سلاطین اسے مخاطب کرتے تھے۔

قنقر طائی کا قتل: اس نے مصر کی طرف اپنے ایلچی بھیجے اور امداد طلب کی۔ یہ پیغام لے کر سیواس کے قاضی قطب الدین شیرازی بلادروم کے اتابک اور اردین کے ابن صاحب لے کر گئے۔ اس کا بھائی قنقر طائی صمعان کو توال کے ہمراہ مقیم تھا لہذا تکلدار نے پیغام بھیجا کہ اس کے بھائی کو (روانہ کیا جائے) مگر اس نے تعمیل حکم سے انکار کیا تو بلادروم کے حاکم غیاث الدین کینسر و نے اسے پناہ دی۔ تکلدار نے اسے ڈرایا تو وہ قنقر طائی کو لے کر تکلدار کے پاس پہنچا۔ تکلدار نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور غیاث الدین کینسر و کو قید کر کے اس کے بجائے اس کے بھائی عز الدین کو (بلادروم) کا حاکم مقرر کیا اور صمعان کو توال کے بجائے ایک مغل سردار اولاطو کو مقرر کیا۔

تکلدار کا قتل: اس کے بعد اس نے اپنے بھتیجے ارغو سے جنگ کرنے کے لئے فوجی ہم بھیجی ارغو بھی بذات خود مقابلہ کے لئے پہنچا۔ اس نے انہیں شکست دے کر اس فوج کا صفایا کر دیا۔ لہذا تکلدار بنفس نفیس فوج لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے ارغو کو شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے لشکر کا صفایا کیا اور بارہ مغل سرداروں کو قتل کرایا۔ اس فعل سے اس کی فوج مشتعل ہو گئی۔ اس سے پیشتر وہ اس کے مسلمان ہونے سے ناراض تھی لہذا وہ باغی ہو گئی اور انہوں نے اس کے نائب کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے ۶۶۲ھ میں تکلدار کو بھی قتل کر دیا اور ارغو کو اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا۔

ارغون ابغا

جب فوج نے ارغو کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا تو وہ ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اسے بادشاہ مقرر کیا۔ جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تو اس نے بلاد الروم کے (سابق) بادشاہ غیاث الدین کبچر کو قید خانے ہی کے اندر قتل کر دیا کیونکہ اس نے اس کے چچا قنقرطائی کے قتل کا ملزم گردانا تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی وزیر شمس الدین جوئی کو بھی گرفتار کر لیا۔ کیونکہ اس پر اس کے والد اور چچا کے قتل کرانے کا الزام تھا اس لئے اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بجائے سعد یہودی موصلی کو وزیر مقرر کیا اور اس کا لقب سعد الدولہ رکھا۔ وہ حکمت اور فلسفہ کا ماہر تھا۔

اس نے اپنے دونوں فرزندوں قازان اور خریندا کو خراسان کی حکومت دی تاکہ وہ اس کے اتابک نیروز کی نگرانی کریں۔

اسلام کا منکر: ارغو دین اسلام کا منکر تھا، وہ برہمنوں کے مذہب (ہندومت) کو پسند کرتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا اور سحر و ساحری کے اعمال میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے پاس ہندوستان کا ایک جادوگر آیا تھا۔ اس نے اس کی صحت ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لئے ایک دوایتار کی تھی جس سے اسے مرئی کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ ۶۹۰ھ میں مر گیا۔

کتختابن ابغا

جب ارغو بن ابغا فوت ہوا تو اس کے دونوں فرزند قازان اور خریندا خراسان میں موجود تھے۔ لہذا سرداروں نے جمع ہو کر اس کے بھائی کتختابن کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے بادشاہ تسلیم کیا، اس کے بعد اس کا چال چلن خراب ہو گیا اور وہ گناہوں اور بری باتوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ مغل لڑکوں سے چھیڑ خانی بھی کرتا تھا۔

(ان برائیوں کی وجہ سے) مغل سردار اس کی فوج کے ایک سردار بیدو بن عمر طرخانی بن ہلاکو کو (بادشاہ بنانے کی طرف) مائل ہو گئے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔

جب کتختابن کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کرمان کی طرف بھاگ گیا۔ سرداروں نے اس کا تعاقب کیا اور خانہ کی عملداری میں اسے پکڑ لیا اور ۶۹۳ھ میں اسے قتل کر دیا۔ اس نے صرف تین سال اور چند مہینے تک حکومت کی تھی۔

بیدو بن طرخانی بن ہلاکو

جب مغل امراء نے کتختابن کو قتل کر کے اس کے چچا زاد بھائی بیدو کو بادشاہ تسلیم کیا تو اس وقت قازان بن ارغو خراسان میں تھا۔ وہ اتابک نیروز کو لے کر بیدو سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا، وہ دونوں معرکہ آرائی کرنے والے ہی تھے کہ لوگ ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لئے پہنچ گئے اور یہ شرط مقرر ہوئی کہ نیروز اتابک بیدو ہی کے پاس مقیم ہوگا۔ آخر کار فریقین میں صلح ہونے کے بعد قازان واپس چلا گیا۔

کچھ عرصے کے بعد نیروز نے قازان کو تحریر کیا کہ وہ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو جائے لہذا وہ (فوج لے کر) خراسان سے روانہ ہو گیا۔ جب بیدو کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے نیروز اتا تک سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔ نیروز نے جواب دیا: ”میں اس مہم کے لئے کافی ہوں“۔ (اور اس کا ذمہ دار ہوں)۔ (اس پیغام کے بعد) بیدو نے توقف کیا۔ جب نیروز آ گیا تو اس نے اسے قازان کے پاس روانہ کیا۔

بیدو کا قتل: جب نیروز قازان کے پاس پہنچا تو اس سے بیدو کے امراء کے بارے میں یہ معلومات پہنچائیں کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اس پر حملہ کر دے، بیدو اس خبر سے بہت پریشان ہوا، تاہم وہ مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ جب فریقین میں جنگ کا آغاز ہوا تو نیروز کی سازش کی بدولت بیدو کے امراء اس کے برخلاف ہو گئے اور اسے شکست ہو گئی۔ بیدو ہمدان کے علاقے کی طرف بھاگ گیا، مگر وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے ۶۹۵ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اس نے صرف اٹھارہ ماہ حکومت کی۔

قازان بن ارغو

بیدو کے قتل کے بعد قازان بن ارغو مغلوں کا بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی خربند کو خراسان کا حاکم مقرر کیا اور نیروزی اتا تک کو اپنی سلطنت کا منتظم مقرر کیا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی طرغائی کے ان مغل امراء کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جو بیدو کے ساتھ کتخا تو کو قتل کرنے کی سازش میں شریک تھے۔ اس اطلاع سے طرغائی کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا جو بغداد اور موصل کے درمیان مقیم تھا، لہذا اس نے شاہ مصر کتبغا عادل کو ایک پیام بھیج کر اس کے پاس آنے کی درخواست کی۔

طرغائی مصر میں: اس کے بعد قازان نے اپنے ایک حامی کو دیار بزمنا حاکم بنا کر بھیجا جس کا نام مولان تھا۔ اس نے اسے شکست دے کر اس کے لشکر کے بڑے حصہ کا صفایا کر دیا اور خود جان بچا کر تاشکند کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان کتبغانے اس کو لانے کے لئے (اپنا خاص) آدمی بھیجا جو اسے مصر لے آیا۔

جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو مسلمان ہونے سے پیشتر ہی بادشاہ نے اس کا مرتبہ بلند کیا اور وہ اور اس کی قوم اور اتریشیہ مصر میں رہنے لگی۔ سلطان نے انہیں جاگیریں بھی عطا کیں چنانچہ اس کا یہ (طرز عمل) دونوں سلطنتوں میں اختلاف کا ذریعہ ثابت ہوا۔

نیروز کا قتل: (مغل) سلطان قازان نے اس کے بعد اتا تک نیروز کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ قازان سے ناراض ہو گیا تھا اور کتبغا کے بعد مصر و شام کے سلطان لاشین سے خط و کتابت کرنے لگا تھا۔ جب نیروز کو اس (غلط فہمی کا) احساس ہوا تو حاکم ہرات سے پناہ طلب کرتے ہوئے ہرات بھاگ گیا۔ ہرات کا حاکم فخر الدین شمس الدین کرت تھا جو جستان کا حاکم بھی تھا۔ فخر الدین نے اسے گرفتار کر کے قتلو شاہ کے سپرد کر دیا اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد قازان نے اپنے دونوں بھائیوں حاجی اور کبریٰ کو بھی قتل کر دیا جو بغداد میں تھے۔

مغل سرداروں کا فرار: اس کے بعد مصر سے سفیر خط لے کر آیا۔ اس کے بعد شلامش بن ایال مصر بھاگ گیا۔ اس کے

بعد منجوجو بلا دروم میں ایک طومار (ایک لاکھ) فوج کا سپہ سالار تھا مصر بھاگ گیا کیونکہ قازان اس سے بدگمان ہو گیا تھا اور (جب اسے اس کے فرار ہونے کی اطلاع ملی تو) اس نے (اسے گرفتار کرنے کے لئے) فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی، اس جنگ میں اس کے اکثر ساتھی اس سے الگ ہو گئے، اس لئے وہ خود (اکیلا) مصر کی طرف بھاگ گیا اور اپنے اہل و عیال کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔

منجوجو کا قتل: جب شاہ مصر نے اس کے اہل و عیال کو واپس لانے کے لئے اس کے ہمراہ فوجیں بھیجیں اور وہ سیس کے مقام سے گزریں تو تاتاری فوجوں نے انہیں روکا اور انہیں شکست دے کر اس مصری جرنیل کو بھی قتل کر دیا جو اس کے ساتھ تھا۔ منجوجو نے کسی قلعے میں پھینچ کر پناہ لی مگر تاتاری فوج نے وہاں سے بھی اسے نکال کر اسے قازان کے پاس بھیج دیا۔ قازان نے اسے قتل کر دیا۔

منجوجو بھائی قسطلو اپنی پوری فوج کے ساتھ مصر میں رہنے لگا۔ یہ واقعہ بھی قازان اور اہل مصر کے درمیان اختلاف کا سبب بنا۔

شام پر حملہ: تاہم چند امراءے شام بھی اس کے پاس پہنچ گئے ان میں نائب حاکم دمشق، بکتھر حاکم حلب الکی ٹاہری، اعزاز الصالحی شامل تھے یہ لوگ اپنے سلطان ناصر محمد بن قلاؤن کے خلاف ہو گئے تھے اس لئے وہ اس (قازان) کے پاس چلے گئے تھے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ شام پر حملہ کر دے۔ چنانچہ وہ ۶۹۹ھ میں مغل اور ارمن فوجوں اور اپنے نائب قسطلو شاہ اور مولیٰ کے ساتھ (شام پر حملہ کرنے کے لئے) روانہ ہوا۔

سلطان ناصر کو شکست: سلطان ناصر بھی مصر سے مسلمانوں کی فوجوں کو لے کر (مقابلہ کے لئے) روانہ ہوا۔ جب وہ غزہ کے مقام پر پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ کتبغا کے بعض ساتھی اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور وہ مغل امراء جو مصر ہجرت کر گئے تھے اس میں شریک ہیں لہذا وہ سب سے آگے روانہ ہوا اور تاتاری فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے محض پہنچا پھر وہاں سے آگے چل کر صبح کے وقت مرج المروج پہنچا وہاں فریقین کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی کافی تعداد شہید ہوئی۔ سلطان جان بچا کر مصر چلا گیا۔

قازان کی فتوحات: مگر قازان صف بندی کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس نے محض کا تمام شاہی علاقہ فتح کر لیا۔ پھر اس نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی اور شہر فتح کر لیا۔ اس نے قچاق کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہاں کا محصول وصول کرے اور دمشق کے قلعہ کا محاصرہ کرے، جہاں کا قلعہ دار علماء الدین شجر منصور تھا۔ مگر وہ قلعہ تسخیر نہیں ہو سکا اس لئے اس نے اس کی چاروں طرف کی آبادی تباہ و برباد کر دی۔ جس میں دار السعادہ بھی شامل تھا جو شاہی محل تھا۔

مفتوحہ علاقوں کے حکام: اب قازان حلب کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کو فتح کر لیا مگر قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اس کی تاتاری فوجیں شہروں میں لوٹ مار کرتی رہیں اور وہ قتل و غارت کرتی ہوئی غزہ تک پہنچ گئی تھیں مگر چونکہ وہاں کے قلعے مستحضر نہیں ہو سکے تھے اس لئے قازان نے اپنے وطن کی طرف کوچ کیا۔ اس نے قسطلو شاہ کو شہر کی حفاظتی فوج کا نائب بنایا اور قلعہ کے محاصرہ کا کام اس کے سپرد کیا۔ یحییٰ بن جلال کے سپرد محصولات وصول کرنے کے کام کیا اور قچاق کو دمشق کا نائب

حاکم مقرر کیا اور بکتر کو حلب، حمص اور حماة کا نائب حاکم بنایا۔

ناصر کا شام پر دوبارہ قبضہ سلطان ناصر نے فوجیں اکٹھی کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ اس سے پیشتر اس نے فوجوں کو داد و دہش سے نوازا اور ان کی تمام خامیوں کو دور کیا تھا۔ اس کے ہراول دستوں کی قیادت سرمز جاشنکیر اور سلار کر رہے تھے یہ دونوں سلطنت کے نگران تھے۔ چنانچہ یہ فوجیں شام کی سرحد کی طرف بڑھیں اور خود سلطان مصر صالحیہ کے مقام پر مقیم رہا۔ قحطی اور بکتر جو دمشق اور حلب کے سابق نائب حاکم تھے پناہ کے طالب ہوئے اور ان دونوں نے دوبارہ سلطان کی اطاعت قبول کی آخر کار سرمز اور سلار دونوں نے شام کے علاقے کو فتح کر لیا اور قتلوا شاہ (تاتاری حاکم) عراق کی طرف لوٹ گیا۔

مغلوں کی دوبارہ فوج کشی: قازان نے دوبارہ شام کی طرف فوج کشی کی اور دریائے فرات کو عبور کر کے وہ رجبہ کے مقام پر مقیم ہوا۔ اس نے اہل شام کو فریب دینے کے لئے ان سے خط و کتابت کی۔ قتلوا شاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا وہاں ترکمانوں کے قبائل مقیم تھے انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے نقصان پہنچایا اور وہیں مقیم ہو گئے۔

مغل فوج کا قتل عام: سلطان ناصر نے ماہ شعبان کی تیسری تاریخ کو فوجوں کے ساتھ مصر سے پیش قدمی کی۔ مرج الصفر کے مقام پر اس کا قتلوا شاہ سے مقابلہ ہوا۔ سلطان نے گھسان کی جنگ کے بعد اسے شکست دی اور رات تک ان کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ راستے میں ایک پہاڑ پر جڑھ کر پناہ گزین ہوئے۔ مسلمان فوجیں رات بھر ان کا محاصرہ کرتی رہیں پھر پوشیدہ طور پر وہاں پہنچ گئیں اور ان کا قتل عام کیا۔ دمشق کے دریا کے بند میں شکاف ہونے سے ان کے آگے کے راستے میں لدل اور کچڑ ہو گیا تھا اس لئے (وہاں جو موجود تھے) ان میں سے کوئی جان نہیں بچا سکا۔

شکست خوردہ فوج کا حصہ قازان کے پاس گیلان کے مقام پر پہنچا۔ وہ وہاں بیمار ہو گیا تھا اور اسی سال ماہ ذوالحجہ کو (بھاری شکست کے بعد) افسوس میں فوت ہو گیا۔

خر بند ابن ارغو

قازان کے بعد اس کا بھائی خرابند اس کا جانشین ہوا۔ وہ بادشاہ کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اس کا نام محمد اور لقب غیاث الدین رکھا گیا۔ اس نے قتلوا شاہ کو اپنا نائب برقرار رکھا۔ پھر اس نے اسے گیلان کے کوہستان میں کردوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے بھیجا مگر اس جنگ میں کردوں نے اسے شکست دے کر مار ڈالا۔

شیمی اثرات: خربندانے اس کا جانشین جو بان بن تدوان کو مقرر کیا۔ خربند ابن ارغوی نے زمانے میں بہت دیندار رہا۔ وہ خلفاء کی تعظیم کرتا تھا اور اپنے سکے پر ان کے اسمائے گرامی تحریر کرادیئے تھے مگر رافضیوں (شیعوں) کی صحبت میں رہ کر وہ بد عقیدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خطبہ میں سے شیخین (حضرت ابوبکر و عمرؓ) کا تذکرہ حذف کر دیا اور اپنے سکوں پر بارہ اماموں کے نام کندہ کرائے۔

بہشتی محل کی تعمیر: اس نے قزاقین اور ہمدان کے درمیان ایک شہر تعمیر کرایا اور اس کا نام سلطانیہ رکھا اور اسے اپنا پایہ تخت

مقرر کیا۔ اس نے وہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ایک عمدہ گھر تعمیر کرایا اور اس کے سامنے ایک باغ لگوایا جس کے درخت سونے کے تھے اور اس کے پھل موتیوں اور نگینوں کے تھے۔ اس نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کرائیں اور وہاں حور و غلمان کو آباد کیا تاکہ یہ علاقہ بہشت کے مشابہ ہو جائے۔

وہ اپنی قوم کے عزت و ناموس پر بہت حملہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ ۳۷ھ میں شام کی طرف فوج لے کر گیا اور دریائے فرات کو عبور کر کے وہ رجبہ کے مقام پر مقیم رہا اور پھر وہاں سے لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قوم کے کسی سردار نے زہر دے کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔

سلطان ابوسعید بن خربندہ کا عہد حکومت

جب سلطان خربندہ فوت ہوا تو اس وقت اس کا فرزند ابوسعید تیرہ سال کا نومر لڑکا تھا اس لئے جو بان نے اسے بہت کم عمر خیال کرتے ہوئے صراہی میں شمالی سلطنت کے بادشاہ ازبک کو پیغام بھیجا کہ وہ دونوں عراق (عراق عجم و عرب) کی سلطنت سنبھال لے۔ مگر اس کے نائب قتلقتر نے اسے باز رکھا۔ لہذا جو بان نے نو عمری کے باوجود ابوسعید کو سلطان تسلیم کیا۔ سلطان ابوسعید نے (حکومت سنبھالنے ہی) پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ابوالطیب رشید الدولہ فضل اللہ بن یحییٰ ہمدانی کو قتل کرایا۔ اس پر اس کے والد کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ وہ مختلف علوم و فنون کا ماہر تھا۔ اس نے ایک تاریخ لکھی تھی جس میں اس نے تاریخوں کے حالات اور ان کے نسب نامے خربندہ کے تھے۔ اس نے ہماری کتاب کی طرح ان کے شجرہ نسب بھی بیان کئے تھے۔

امراء کی سازش اس زمانے میں جو بان خراسان کی مہم پر گیا ہوا تھا اور وہاں سیول بن براق حاکم خوارزم سے جنگ کر رہا تھا۔ جسے شمالی سلطنت کے حاکم ازبک نے بھڑکا کر اور ادی فوج دے کر خربندہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس وقت جو بان بھی اس کا حامی تھا۔

جب سلطان خربندہ ہلاک ہوا تو سیول نے تمام خراسان پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور (اس مقصد کے لئے) اس نے سلطان ابوسعید کی سلطنت کے مغل امراء سے خط و کتابت کی تو انہوں نے اس کی حمایت کرنے کی توقع دلائی۔ اس وقت جو بان اپنے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوا تھا۔

سازش کا نسد او: جب سلطان ابوسعید کو یہ اطلاع ملی کہ امراء اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو اس نے ان میں سے چالیس افراد کو قتل کرا دیا اور جو بان بھی ۱۸ھ میں خراسان کی طرف واپس آیا۔ اس وقت سیول خراسان پر اور عراق عجم کے کچھ حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ ازبک شاہ شمال نے اپنے نائب قتلقتر کو ادی فوج دے کر بھیجا جس کا جو بان کی فوج نے مقابلہ کیا۔ ان کے درمیان متعدد جنگیں ہوتی رہیں آخر کار جو بان نے سیول کے مقبوضہ خراسانی علاقے چھین لئے اور باقی علاقوں کے لئے مصالحت کر کے واپس چلا آیا۔

اس کے بعد شمالی سلطنت کا بادشاہ ازبک (فوج لے کر) مراغہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں حملہ کر کے اس نے مال

غنیمت حاصل کیا اور واپس چلا گیا۔ جو بان فوج لے کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوا مگر اسے پکڑ نہیں سکا۔

جب سیول ۷۲۰ھ میں فوت ہو گیا تو سلطان ابوسعید نے اس کے مقبوضہ باقی حصہ خراسان پر بھی قبضہ کر لیا۔

ازبک سے اختلافات: اس وقت شمالی سلطنت کا بادشاہ ازبک سلطان ابوسعید سے اس بات پر ناراض تھا کہ اس نے جو بان کو خود مختار اور اپنے اوپر حاوی کر رکھا ہے اور وہ چنگیز خان کی اولاد پر بھی حکومت کر رہا ہے اس نے قریبی ممالک کے لوگوں کو بھی جو بان کے خطروں سے آگاہ کیا اور وہاں کے سلاطین کو جو بان اور اس کے سلطان ابوسعید کے خلاف متحدہ محاذ بنانے پر آمادہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے شاہ مصر کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کئے مگر سلطان ابوسعید کے ساتھ اس کی مصالحت نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ازبک نے ۷۲۰ھ میں جو بان سے جنگ کرنے کے لئے فوج بھیجی مگر دریائے کوزل کے قریب جو بان کی حدود میں واقع بے المدنی نے ان کا محاصرہ کر لیا اس لئے اس کی فوج واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ازبک نے ایک دوسری فوج اپنے نائب قتلقتمر کی قیادت میں روانہ کی۔

سیس پر حملہ: سلطان ابوسعید کے نائب جو بان نے بلا دروم پر اپنے فرزند مرداش کو حاکم بنایا تھا لہذا اس نے ۷۲۱ھ میں سیس کے علاقے پر فوجی حملہ کیا اور اس کے تین قلعے فتح کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس نے ارمنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جو سیس کے مقام پر تھی، مصر کے شاہ ناصر سے فوجی امداد طلب کی تو سلطان مصر نے ۷۲۲ھ میں اپنی فوجیں بھیجیں، جن میں رضا کار (مجاہدوں) کی کافی تعداد تھی۔ انہوں نے سیس کا محاصرہ کر لیا۔

پھر ۷۲۳ھ میں شاہ ناصر اور سلطان ابوسعید کے درمیان مصالحت ہو گئی اور اس کے بعد تمام حالات درست ہو گئے۔

سلطان ابوسعید شاہ عراق و عجم کے رشتہ دار بزرگ مغل امراء نے اس کے بعد فریضہ حج ادا کیا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ ہوا۔

فتح خراسان: ۷۲۵ھ میں سلطان ابوسعید کے نائب جو بان نے خراسان کی طرف فوج کشی کی، کیونکہ بک بن سیول نے وہاں فوجی حملہ کر دیا تھا۔ فریقین میں متعدد جنگیں ہوتی رہیں۔ آخر کار جو بان کو شکست ہوئی اور بک بن سیول خراسان پر قابض ہو گیا۔ مگر دوبارہ جو بان نے حملہ کر کے اسے شکست دی اور اس کی فوجوں کا قتل عام کیا اور خراسان کو فتح کر کے اسے سلطان ابوسعید کی سلطنت میں شامل کر دیا۔

جو بان کا قتل: جب جو بان خراسان میں مشغول تھا تو اسے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سلطان ابوسعید نے اس کے فرزند کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے علم بغاوت بلند کر دیا لہذا ابوسعید نے اس کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے بعد اس کے ساتھی اس سے الگ ہو گئے، اور وہ خود ہرات بھاگ گیا جہاں وہ ۷۲۶ھ میں مارا گیا اس وقت سلطان ابوسعید نے اس کے فرزند کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اس کی لاش کو اس مقبرہ کی طرف منتقل کر سکتا ہے جو اس نے مدینہ منورہ میں تعمیر کرایا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی لاش کو وہاں لے گئے مگر اسے فوراً دفن نہیں کر سکے۔ کیونکہ حاکم مدینہ سلطان مصر کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا

آخر کار اسے بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

دمرداش مصر میں: جب جوہان (کے قتل) کی خبر اس کے فرزند مرداش کو ملی جو بلا دروم کا حاکم تھا تو وہ اس سے بہت پریشان ہوا۔ آخر کار وہ اپنے امراء، فوج اور ساتھیوں کو لے کر مصر پہنچ گیا۔

(مصر کے) سلطان ناصر نے اس وقت اُن کا زبردست استقبال کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کی۔ اس کے بعد سلطان ابوسعید کے قاصد اس کا یہ پیغام لے کر آئے کہ اس کے بارے میں اللہ کے فیصلہ کے مطابق عمل کیا جائے کیونکہ یہ لوگ فتنہ و فساد کی کوشش کرتے آئے تھے۔

دمرداش کا قتل: سلطان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا مگر یہی طریقہ وہ شام کے امیر قراسنقر کے ساتھ بھی اختیار کرے گا جو وہاں سے بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی گئی (ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔)

دوستانہ تعلقات: اس کے بعد ان دونوں سلطنتوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان ازدواجی رشتے بھی قائم ہوئے اور تھانف کا تبادلہ بھی ہوتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ (عرب میں امن و امان قائم ہوا اور) ان کے نقصانات کا ازالہ ہوا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوا۔

سلطان ابوسعید ۳۶ھ میں فوت ہو گیا اور ان کی اولاد نہ تھی، اسے سلطانیہ کے مقام پر دفن کیا گیا۔

ہلا کو سلطنت کا خاتمہ: اس کے بعد اس کے ارکان سلطنت میں اختلاف پیدا ہو گئے یوں ہلا کو خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے۔ چنانچہ خراسان، عراق، عجم، فارس، آذربائیجان، عراق عرب اور بلا دروم میں جداگانہ سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

باب: فہر

خاندان شیخ حسن کی حکومت

جب سلطان ابوسعید بن خربند جو بغداد کا بادشاہ تھا ۳۶۱ھ میں فوت ہو گیا تو اس کا کوئی فرزند نہ تھا۔ اس لئے مغل امراء نے وزیر غیاث الدین کا تقرر کیا اور خاں کو معزول کر دیا (شاہی خاندان کے) نواسوں میں سے موسیٰ خان کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور سلطنت کا انتظام شیخ حسن بن حسین بن پیقنا بن امکان نے سنبھالا جو سلطان ابوسعید کا چھوٹے زاد بھائی تھا۔ اسے سلطان ابوسعید نے بلاد الروم کے قلعہ کانج میں نظر بند کر دیا تھا جہاں اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔

جب سلطان ابوسعید فوت ہوا تو اسے معافی دے کر رہا کر دیا گیا تھا۔ جب بغداد کے ارکان سلطنت کا حال معلوم ہوا تو وہ وہاں چلا گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے وہاں کے نگران حاکم علی ماسا کو قتل کر دیا اور (نازرد) بادشاہ موسیٰ خان کو معزول کر دیا اور اس کے بجائے محمد بن عنبر جی کو (بادشاہ) مقرر کیا۔ تخت کے بادشاہوں میں اس کی صحیح نسبت ہلاکو خان کے ساتھ بیان کی جاتی تھی۔

اس کے بعد شیخ حسن بغداد اور توریز کا (خود مختار) حاکم بن گیا۔ اس کے بعد مرداش کا فرزند حسن اپنے والد کے بلاد الروم کے مرکزی مقام سے (فوج لے کر) اس کے خلاف روانہ ہوا اور (جنگ میں) غالب آ کر توریز پر قابض ہو گیا۔ اس نے وہاں کے بادشاہ محمد بن عنبر جی کو قتل کر دیا شیخ حسن بھاگ کر بغداد آ گیا اور حسن بن مرداش توریز پر حکومت کرنے لگا۔

یہاں آ کر اس نے سلطان ابوسعید کی ہمشیرہ صاطیک کو ملکہ مقرر کیا اور ہلاکو کے نبیرگان میں سے سلیمان خان سے اس کا نکاح کر دیا۔ توریز کی حکومت (حسن بن مرداش) کے پاس تھی جو حسن صغیر کے نام سے موسوم تھا، کیونکہ شیخ حسن حاکم بغداد اس سے بڑا تھا، اس لئے وہ حسن کبیر کے نام سے مشہور تھا اور یہ حسن صغیر کے نام سے مشہور ہوا اور وہ مستقل (خود مختار) حاکم رہا۔ شیخ حسن کبیر اس پر غالب نہیں آ سکا۔

ترکمانوں کا تسلط: ادھر موصل کے گرد و نواح میں ترکمان اقوام چھا گئی تھیں وہ الجزیرہ کے شہروں تک پہنچ گئی تھیں (شیخ حسن کبیر ان سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ) اس نے شاہ مصر کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ بغداد پر قابض ہو جائے کیونکہ وہ خود اس کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ (شاہ مصر) وہاں فوجیں بھیج دے۔ اس مقصد کے لئے وہ اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اپنے فرزند کو پرغال کے طور پر رکھو دے۔ مگر یہ مطالبہ (ناگزیر) حالات کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا۔

طوائف المملوکی: آخر کار خاندان ہلاکو کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ کیونکہ شیخ حسن کبیر بغداد کا حاکم تھا اور حسن صغیر توریز

کا حاکم تھا۔ عراق عجم اور فارس میں ابن المظفر حاکم تھا اور شاہ حسین خراسان کا حاکم تھا مگر اس کے اکثر علاقوں پر شمالی سلطنت کے بادشاہ ازبک کا قبضہ تھا جو صرای کے تحت کامالک تھا اور دوشی خاں بن چنگیز خان کی نسل سے تھا۔

امراء کی وفات: کچھ عرصہ کے بعد شیخ حسن کبیر اپنے بادشاہ سلیمان خان سے بیزار ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر کے خود مختاری حاصل کر لی۔ اس کے بعد شیخ حسن صنغیر بن دمرداش ۴۴۳ھ میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بھائی اشرف حاکم ہوا۔ بعد ازاں شیخ حسن کبیر بھی ۵۷۷ھ میں بغداد میں فوت ہو گیا۔

اولیس بن شیخ حسن کبیر

جب شیخ حسن کبیر بغداد میں فوت ہو گیا تو اس کے بجائے اس کا فرزند وہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ توریز میں اشرف بن دمرداش حکومت کرتا تھا، لہذا شمالی سلطنت کے بادشاہ نے جانی بیگ بن ازبک کو فوج دے کر توریز ۵۸۷ھ میں حملہ کرنے کے لئے بھیجا اور توریز پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہاں اپنے فرزند کو حاکم بنا کر خراسان کی طرف کوچ کیا۔ وہ راستے میں گرفتار ہو گیا۔ اس لئے ارکان سلطنت نے اس کے فرزند برد بیگ کو لکھا کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لے۔ لہذا وہ تیز رفتاری کے ساتھ ادھر روانہ ہو گیا اور توریز کا حاکم افجوخ کو مقرر کیا (موقع کو غنیمت جان کر) حاکم بغداد اولیس فوج لے کر (توریز کی طرف) روانہ ہوا اور اسے شکست دے کر توریز پر قبضہ کر لیا۔ مگر (ہاں کے حاکم) انجوخ نے (دوبارہ حملہ کر کے) یہ علاقہ اس سے چھین لیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب حاکم اصفہان ابن المظفر نے حملہ کر کے توریز اس سے چھین لیا اور اسے قتل کر دیا۔ یوں اس کی سلطنت میں عراق عجم، توریز، تستر اور خوزستان کے علاقے شامل ہو گئے۔

اولیس کی اولاد: بعد ازاں اولیس نے فوج کشی کر کے توریز کو ابن المظفر کے قبضے سے چھین لیا اور اسے اپنی عملداری میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد وہ بغداد آ کر تخت نشین ہوا اور اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ آخر کار اولیس بن حسن ۶۷۷ھ میں فوت ہو گیا۔ اس نے مندرجہ ذیل پانچ فرزند چھوڑے۔

(۱) شیخ حسن (۲) حسین (۳) شیخ علی (۴) ابو یزید (۵) احمد۔

اس کا وزیر کر یا تھا اور اس کی سلطنت کا سب سے بڑا امیر عادل تھا۔ وہ حسین کا نگران تھا اور وہ سلطانیہ کا علاقہ اس کی جاگیر میں شامل تھا۔

حسین بن اولیس

آخر کار ارکان سلطنت نے جمع ہو کر توریز کے مقام پر حسین بن اولیس کو حاکم تسلیم کیا اور (اس کے بھائی) شیخ حسن کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ان کے والد نے اسے قتل کر دینے کی وصیت کی تھی۔

(دوسرا بھائی) شیخ علی بغداد میں تھا۔ اس نے بھی اپنے بھائی حسین کی اطاعت قبول کر لی۔ ان کا ایک امیر قنبر علی بادک تستر اور خوزستان میں اس کا نائب تھا۔ اس نے بھی حسین کی اطاعت قبول کر کے اس کی اطلاع سے بھیج دی تھی۔ توریز

کے علاقے پر اس کا والد کا وزیر کر یا حاکم تھا۔ اس کا ایک فرزند اسماعیل شیخ اولیس کے عہد حکومت میں بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ وہ اب اپنے والد زکریا کے پاس واپس آ گیا تھا۔ لہذا اس نے اسے بغداد بھیج دیا تاکہ وہ شیخ علی کی (جو وہاں کا حاکم تھا) خدمات بجلائے۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت کے لئے وقف ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ اس پر حاوی ہو گیا۔

ادھر جب حسین بن اولیس توریز کا خود مختار حاکم مقرر ہوا تو بنو المظفر (جو فارس و اصفہان کے حکام تھے) اس پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے وہ اس سے پیشتر بھی (اس کے والد کے زمانے میں) اس پر قابض ہو گئے تھے مگر اولیس نے اس علاقے کو ان سے چھین لیا تھا۔ تاہم جب اس کی وفات ہوئی تو شجاع الدین بن المظفر فوج لے کر وہاں حملہ آور ہوا۔ تو حسین بن اولیس (مقابلہ کی تاب نہ لا کر) جب وہاں سے بھاگ کر بغداد پہنچا تو شجاع بن المظفر نے توریز کو دوبارہ فتح کر لیا۔

حسین بن اولیس نے بغداد پہنچ کر اپنے بھائی شیخ علی اور اس کے وزیر اسماعیل سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ہمراہ فوج بھیجی اور وہ اپنے پاؤں فوج لے کر توریز پہنچا (مقابلے میں شکست کھا کر) شجاع وہاں سے بھاگ کر خوزستان پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو کر رہنے لگا۔

اسماعیل کا قتل: شیخ علی پر اسماعیل بہت حاوی تھا اس لئے ارکان سلطنت کی ایک جماعت نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کے چچا کو بھی ۸۷ھ کے وسط میں قتل کر دیا۔ اس جماعت میں مندرجہ ذیل افراد شامل تھے۔ مبارک شاہ، قرا محمد، قمبر۔

انہوں نے قمبر علی بادک کو تستر سے بلا کر اسماعیل کے عہد پر مقرر کیا۔ وہ بھی بغداد کے حاکم شیخ علی پر غالب آ گیا۔ (اس کے بھائی) حسین نے (جو توریز میں تھا) ان باتوں کو ناپسند کیا۔ اس لئے وہ توریز سے فوجیں لے کر بغداد پہنچا۔ (اسے دیکھ کر) شیخ علی اور قمبر علی بادک تستر بھاگ گئے اور حسین بغداد پر قابض ہو گیا۔

دو بارہ حکومت: اب شیخ علی تستر سے واسط پہنچا اس نے عبادان اور الجزیرہ کے عربوں کو (اپنی حمایت کے لئے) جمع کیا۔ اس وسط احمد واسط سے بغداد کی طرف بھاگ گیا۔ شیخ علی نے اس کا تعاقب کیا تو حسین بھی توریز کی طرف بھاگ گیا اس کے بعد بغداد پر شیخ علی کی حکومت قائم ہو گئی اور ہر ایک اپنی مملکت میں رہنے لگا۔

حسین کا قتل: جب حسین بغداد سے توریز کی طرف واپس آیا تو وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اس کا بھائی احمد اس سے ناراض ہو کر اردبیل چلا گیا۔ جہاں شیخ صدر الدین تھا وہاں اس نے تین ہزار سے زائد فوج اکٹھی کر لی انہیں لے کر وہ توریز کی طرف روانہ ہوا اور (اہل توریز کی) بے خبری میں حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ حسین چند دنوں تک وہاں چھپا رہا۔ پھر احمد نے گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا۔

احمد سے جنگ: اس زمانے میں امیر عادل سلطانیہ کا حاکم تھا جو اس کی جاگیر میں شامل تھا جب اسے حسین کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا اس کے پاس (اس کا دوسرا بھائی) ابو یزید بن اولیس موجود تھا۔ لہذا وہ دونوں حاکم فارس شجاع بن المظفر یزدی کے پاس پہنچے تاکہ وہ امیر احمد بن اولیس کے خلاف فوجی امداد حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اس نے ان کی

فریاد پر ان کے ساتھ فوجیں بھیجیں (جب وہ وہاں پہنچے تو) امیر احمد ان کا مقابلہ کے لئے صف آراء ہوا۔ پھر فریقین قریب آ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ابو یزید سلطانیہ کا حاکم رہے اور امیر عادل وہاں سے نکل کر امیر شجاع کے پاس فارس چلا جائے۔ ان شرائط کے ساتھ ان میں مصالحت ہو گئی اور ابو یزید سلطانیہ واپس آ گیا اور وہاں رہنے لگا۔

مگر احمد کے امراء اور خاص افراد نے رعایا کو بہت تنگ کیا، اس لئے وہ احمد کے پاس فریاد لے کر گئے۔ چنانچہ احمد فوج لے کر وہاں پہنچا اور سلطانیہ پر قبضہ کر لیا اور ابو یزید کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ جہاں اس نے بغداد میں وفات پائی۔

علی کا قتل: جب احمد نے اپنے بھائی حسین کو قتل کیا تھا تو شیخ علی نے فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ اس نے الجزیرہ میں ترکمان قوم کے امیر قرا احمد سے امداد طلب کی۔ پھر وہ بغداد سے (فوج لے کر) توریز (پر حملہ کرنے) کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں احمد اس کے مقابلہ کے لئے نکلا اس کے بعد وہ شکست کی حالت ظاہر کر کے پسپا ہوا۔ اس کا تعاقب کیا گیا مگر جب فوجیں پوشیدہ ہو گئیں تو اس نے جاں نثاری اور (بہادری کے ساتھ) پلٹ کر حملہ کیا۔ اس حملہ میں شیخ علی کو ایک تیر لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد قرا احمد (امیر ترکمان) کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں احمد توریز واپس آ گیا جہاں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔

ابو یزید کی حمایت: اس اثناء میں عادل بن سلطان ابو سعید نے موقع غنیمت جان کر حملہ کر دیا مگر اسے شکست حاصل ہوئی۔ پھر احمد نے بغداد کی طرف فوج کشی کی۔ کیونکہ شیخ علی کی ہلاکت کے بعد ایک شخص خواجہ عبدالملک خود مختار ہو گیا تھا جو احمد کا حامی تھا۔ مگر جب امیر عادل نے سلطانیہ میں امیر ابو یزید (دوسرے بھائی) کی حمایت کا اعلان کیا اور بغداد کی طرف ایک فوجی افسر بھیجا جس کا نام برسق تھا تاکہ وہ بغداد میں ابو یزید کی حمایت حاصل کرنے تو خواجہ عبدالملک نے اسے بغداد میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اس کی حمایت کی۔

بغداد پر قبضہ: برسق نے بغداد میں آنے کے دوسرے دن عبدالملک کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شہر میں ایک مہینے تک بد امنی اور بد نظمی کی حالت رہی۔ لہذا احمد توریز سے (فوج لے کر) بغداد پہنچا۔ برسق بھی (فوج لے کر) اپنی مدافعت کے لئے نکلا مگر اس نے شکست کھائی اور اسے گرفتار کر کے امیر احمد کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے (کچھ عرصہ کے لئے) قید میں رکھا پھر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد امیر عادل بھی مارا گیا اور احمد اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو گیا۔

حملہ تیمور: اب احمد کی سلطنت میں توریز، بغداد، تستر اور سلطانیہ کے علاقے شامل ہو گئے تھے اور اس کی حکومت مستحکم ہو گئی تھی مگر ۸۶۶ھ میں اس کے ارکان سلطنت نے بغاوت کی۔ اس زمانے میں چغتائی خاندان کے سلطان تیمور نے اپنی ماوراء النہر کی سلطنت سے نکل کر خراسان پر قبضہ کر لیا تھا، لہذا اس کا ایک رکن سلطنت تیمور کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ تیمور نے اس کی فریاد سنی کی اور اس کے ہمراہ توریز کی طرف اپنی فوجیں روانہ کیں۔ احمد (ان کے مقابلے کی تاب نہ لا کر) بغداد کی طرف بھاگ گیا اور وہ باغی رکن وہاں کا خود مختار حاکم بن گیا اور تیمور اپنی سابقہ مملکت کی طرف لوٹ گیا۔

بعد ازاں دوشی خاں کی شمالی سلطنت کا بادشاہ طغتمش توریز پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے وہاں فوج لے کر پہنچا اور توریز کا علاقہ اس باغی حکمران سے چھین لیا۔

اس زمانے میں امیر تیمور (تمر لنگ) اپنی فوجیں لے کر اصفہان پہنچا ہوا تھا تاہم اس نے اپنی فوجیں تو ریز کی طرف بھی روانہ کیں اور وہاں لوٹ مار اور قتل عام کر کے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد تتر اور سلطانیہ کے علاقے بھی تیمور کی عملداری میں آ گئے۔ اب امیر احمد بن اولیس کے پاس صرف بغداد کا علاقہ رہ گیا تھا۔

بغداد پر تیمور کی یلغار

جب سلطان تیمور نے تو ریز فتح کر لیا تو مغلوں کے ایک سردار قمر الدین نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی کہ شمالی سلطنت میں صرایی کے صاحب تخت و تاج نے اسے مالی اور فوجی امداد فراہم کی ہے۔ لہذا وہ اصفہان سے اپنے ملک کی طرف واپس چلا گیا۔ پھر ۵۷۵ھ تک اس کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔

اسی کے بعد کے حالات میں یہ معلوم ہوا کہ اس نے اپنے باغی امیر قمر الدین کو شکست دے دی اور نہ صرف اس کے فتنہ و فساد کی سرکوبی کی ہے بلکہ اس نے صرایی کے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر کے وہاں کے علاقوں کو فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پیش قدمی کر کے اصفہان، عراق، عجم، رے اور فارس و کرمان کے علاقوں کو فتح کر کے بنوالمظفر یزدی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ہے ان جنگوں میں اس خاندان کے سلاطین مارے گئے تھے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔

بغداد پر فوج کشی: احمد بن اولیس (حاکم بغداد) نے (یہ حالات دیکھ کر) کمر ہمت باندھ لی اور فوجی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ تحائف بھیج کر اس کے ہاتھ صلح کی جائے مگر یہ طریقہ بے سود رہا کیونکہ سلطان تیمور اس کے جواب میں خط و کتابت کے ذریعے اسے فریب دیتا رہا۔ اور جب اس کی ہمت پست ہو گئی اور اس کی فوجیں منتشر ہو گئیں تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اور بے خبری کی حالت میں فوج لے کر روانہ ہو کر دریائے دجلہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت کسی نے احمد کو ان خطروں سے آگاہ کیا۔

اس وقت احمد بن اولیس نے سوار یوں پر اپنے مال و دولت اور قیمتی ذخیروں کو لے کر دریائے دجلہ کی کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور خود مہر حلقہ کو عبور کر کے صبح سویرے حضرت علیؑ کے حزار مبارک (نجف اشرف) میں پناہ گزین ہوا۔

فتح بغداد: سلطان تیمور اور اس کا لشکر گیارہ شوال ۹۱۵ھ کو دریائے دجلہ پر پہنچا اور وہاں (دریا عبور کرنے کے لئے) کشتیاں نہیں تھیں اس لئے وہ اپنی فوجوں کو لے کر دریا میں گھس گیا اور بغداد میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا۔ اس نے احمد کے تعاقب میں فوجیں بھیجیں تو وہ حلقہ کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہاں کابل ٹوٹا ہوا تھا۔ لہذا وہاں بھی فوجیں دریا میں گھس گئے۔ پھر انہوں نے احمد بن اولیس کو حضرت علیؑ کے حزار مبارک (نجف اشرف) کے مقام پر جا پکڑا اور اس کے ساز و سامان اور سوار یوں پر قبضہ کر لیا۔

احمد کا مقابلہ اور فرار: احمد بن اولیس نے پلٹ کر اپنی فوجوں کے ساتھ مغلوں کی فوجوں پر حملہ کیا اور نہایت بہادری اور فداکاری کے ساتھ مقابلہ کر کے مغلوں کے سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے تعاقب میں فوج لے کر آیا باقی تاتاری فوج واپس چلی گئی۔

احمد بھاگ کر شام کے سرحدی مقام رجبہ کی طرف چلا گیا اور وہاں آرام کرنے لگا۔ اس نے وہاں کے سلطان کے نائب حاکم کو اطلاع کرائی تو اس نے اپنے مخصوص افراد کے ہاتھ زاوراہ اور دیگر اخراجات کی رقم بھجوائی، پھر اسے حلب بھیج دیا گیا جہاں اس نے آرام کیا۔ پھر اسے ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ مہر نہیں جاسکا۔

بغداد کی دوبارہ تباہی: اس اثناء میں اسے یہ اطلاع ملی کہ سلطان تیمور نے اس کے علاقے میں فتنہ و فساد برپا کیا اور اس کے تمام ذخیروں پر قبضہ کر لیا بلکہ بغداد کے تمام امیر و غریب کے سامان اور موجودہ تمام مال و دولت کو ضبط کر لیا ہے یہاں تک کہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہیں اور بغداد کے تمام علاقے لوٹ مار کی وجہ سے ویران ہو گئے ہیں۔

مصری فوجوں کی تیاری: بعد ازاں احمد بن اولیس فریاد لے کر ماہ ربیع الاول ۷۶۶ھ میں سلطان مصر کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ اس کا ملک اسے واپس دلایا جائے اور اس کے دشمن سے انتقام لیا جائے۔ سلطان مصر نے اس کی فریاد سنی کی اور اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ وہ شام کی طرف جانے کے لئے تیار ہو جائیں۔

فتح تکریت و دیار بکر: اس اثناء میں جب سلطان تیمور نے بغداد کو فتح کر لیا تو وہ اپنا لشکر لے کر تکریت کی طرف روانہ ہوا جو اس کے مخالفوں کا اڈہ بنا ہوا تھا اور وہ راہ گیروں کی گھات میں حملہ کرنے کے لئے بیٹھے رہتے تھے۔ سلطان نے اس مقام کا چالیس دن تک محاصرہ کیا، آخر کار شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس وقت ان کا قتل عام ہوا۔ اس کے بعد اسے تباہ و برباد کر کے اسے ویران کر دیا گیا۔

اس کے بعد تیمور کی فوجیں دیار بکر میں رہا کے مقام تک پھیل گئیں اور دن کے چند گھنٹوں میں یہ علاقے مفتوح ہو گئے اور انہیں بھی تباہ و ویران کر دیا گیا۔

مصری لشکر دمشق میں: جب سلطان مصر کو (ان تباہ کاریوں کی) اطلاع ملی تو وہ فوج لے کر چند دنوں تک زیدانیہ کے مقام پر خیمہ زن رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنی فوج کی خامیوں کو دور کیا اور اپنے غلاموں کو بخشش سے مالا مال کیا۔ اس نے ہر قسم کی فوج کو اکٹھا کیا اور قاہرہ میں اپنے نائب سودوں کو جانشین بنایا۔ پھر احمد بن اولیس کو ساتھ لے کر صف بندی کے بعد شام کی طرف کوچ کیا۔ اس نے احمد بن اولیس کی فوجوں کو بھی بخشش سے نوازا اور انہیں ہر طرح سے مسلح کیا بعد ازاں سلطان ماہ جمادی الاولیٰ کے آخر میں دمشق پہنچ گیا۔

فوجوں کی روانگی: سلطان مصر نے حاکم حلب جلیان کو ہدایت کی تھی کہ وہ دریائے فرات کی طرف جائے اور عرب اور ترکان قوم کو اکٹھا کر کے انہیں وہاں دشمن کی گھات میں لگے رہنے پر آمادہ کرے۔ چنانچہ جب سلطان دمشق پہنچا تو جلیان اس کے پاس آیا اور اسے اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا اور دیگر حالات بھی بتائے اس کے بعد سلطان کے احکام کے مطابق قبیل حکم کے لئے واپس چلا گیا۔ سلطان نے اس کی امداد کے لئے کمشیقا تا تک تکتتمش امیر سلاح اور احمد بن بیقا کی قیادت میں فوجیں بھیجیں۔

تیمور بلاد الروم میں: اس اثناء میں ان کا دشمن سلطان تیمور ماردن کے محاصرہ میں مشغول تھا۔ چنانچہ چند مہینے کے محاصرہ

کے بعد اس نے اسے فتح کر لیا۔ پھر اس کی فوجوں نے وہاں لوٹ مار کر کے اس علاقے کا صفایا کر دیا مگر اس کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ لہذا وہاں سے کوچ کر کے وہ بلاد الروم کی طرف پہنچ گیا۔ جب تیمور کردوں کے قلعوں کے پاس سے گزرا تو اس کی فوجوں نے وہاں بھی لوٹ مار کر کے اس علاقے کا صفایا کر دیا۔

آخری خبر: (ان آخری حالات کے تحریر کرنے تک ابن خلدون کے زمانے میں) سلطان مصر ماہ شعبان ۹۰۷ھ تک دمشق میں مقیم تھا (وہ انتظار میں تھا کہ) جب تیمور اس طرف آئے تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ (تیمور کا حال یہیں تک بیان کیا گیا ہے)

باب: دہم

ایران میں بنو مظفر یزدی کی حکومت

احمد المظفر یزد کا باشندہ تھا وہ بہت بہادر تھا۔ چنانچہ جب وہ سلطان ابوسعید کے عہد میں سرکاری ملازم ہوا تو اسے فارس کے راستوں کی حفاظت کے کام پر مقرر کیا گیا اور یہیں سے اس کے (عروج) کا آغاز ہوا۔

جب سلطان ابوسعید فوت ہوا تو اس وقت ۳۶۷ھ کی تاریخ تھی اس کی اولاد نہ تھی۔ اس لئے ملک انتشار کا شکار ہو گیا اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ شمالی سلطنت کے بادشاہ ازبک نے خراسان کے ایک حصہ کو فتح کر لیا۔ ہرات میں ملک حسین اور لان محمود خود مختار حاکم ہو گئے۔

ایسی صورت میں سلطان ابوسعید کے ارکان سلطنت نے احمد المظفر کو اصفہان اور فارس کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہ اپنے علاقے کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے اپنا پایہ تخت شیراز قرار دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا فرزند ابواسحاق امیر شیخ اس کا جانشین ہوا۔ وہ بھی خود مختار حاکم رہا اس نے عمدہ یادگاریں چھوڑی ہیں (مشہور عالم) شیخ عضد الدین نے کتاب المواقف اسی کے لئے لکھی تھی۔ نیز شیخ عماد الدین کاشی نے کتاب المفتاح کی شرح اسی کے نام پر معنون کی ہے۔

فتح فارس و اصفہان: محمد بن المظفر نے کرمان اور اس کے علاقے کو بھی فتح کر لیا تھا اور اس پر اپنا تسلط جمالیا تھا۔ وہ فارس کے علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ (اس کا ذریعہ ایک واقعہ بن گیا جو یوں رونما ہوا کہ) ابواسحاق امیر شیخ نے شیراز کے ایک معزز شریف انسان کو قتل کر دیا تھا لہذا اس نے اعلان کیا کہ وہ اس کا انتقام لے گا۔ دراصل اس کا مقصد اس کے قبضے سے یہ علاقہ چھیننا تھا۔ اس لئے وہ اپنی فوج لے کر شیراز پہنچ گیا۔ چونکہ اہل شہر امیر شیخ کی بدکرداریوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس کی حمایت کی اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ وہ اس کے پائے تخت پر قابض ہو گیا۔ امیر شیخ اصفہان کی طرف بھاگ گیا۔ جب اس کا تعاقب کیا گیا تو وہ اصفہان سے بھی بھاگ گیا اور (محمد بن المظفر نے) اصفہان کو بھی فتح کر لیا۔ پھر اس نے چاروں طرف اس کے تعاقب اور گرفتاری کے لئے فوج بھیجی۔ آخر کار وہ گرفتار ہو کر شریف انسان کے قصاص میں مارا گیا جسے امیر شیخ نے شیراز میں قتل کیا تھا۔

سلطنت کی تقسیم: محمد بن المظفر کے چار فرزند تھے (۱) شاہ ولی (۲) محمود (۳) شجاع (۴) احمد۔ شاہ ولی اپنے والد کی حیات ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے دو فرزند منصور اور یحییٰ چھوڑے تھے۔ اس نے اپنے دوسرے فرزند محمود کو اصفہان کا حاکم اور (تیسرے) فرزند شجاع کو شیراز اور کرمان کا حاکم بنا دیا تھا۔ لہذا محمود اور شجاع دونوں (اس کی زندگی ہی میں) خود مختار حاکم ہو گئے تھے اور انہوں نے اسے دست بردار کر دیا تھا یہ واقعہ ۶۷۰ھ میں ہوا تھا۔

شجاع کی شکست و فتح: شجاع نے مخالفت کی تو محمود نے اولیس بن حسن الکبیر سے فوجی امداد طلب کر کے اصفہان کے علاقے سے فوج کشی کی اور اولیس کی فوجی امداد حاصل کر کے ۶۵ھ میں شیراز فتح کر لیا اور شجاع اپنے دوسرے علاقے یعنی کرمان کی طرف بھاگ گیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں تھوڑے عرصے کے لئے اس کے ماتحت حکام اس کے مخالف رہے۔ آخر کار وہ اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ پھر تین سال کے بعد فوج اکٹھی کر کے اس نے شیراز پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور شیراز لوٹ آیا اور اس کا بھائی محمود اصفہان چلا گیا اور وہیں رہنے لگا تا آنکہ وہ ۶۷ھ میں فوت ہو گیا۔

(اس کے مرنے کے بعد) شجاع نے اس کا علاقہ بھی اپنی عملداری میں شامل کر لیا اور اسے اپنے فرزند زین العابدین کے حوالے کر دیا اور اس کا نکاح اولیس بن حسن (حاکم بغداد) کی لڑکی سے کر دیا جو پہلے محمود کی (منکوحہ) تھی۔ اس کے بعد شجاع ۷۸ھ میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کا فرزند زین العابدین اصفہان کا مستقل حاکم تھا اور شیراز اور فارس میں اس کا بھتیجا منصور ابن شاہ ولی اس کا جانشین ہوا۔

خانہ جنگی: اس کے بعد منصور اور زین العابدین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور منصور کو شکست ہوئی (لہذا) منصور بن شاہ ولی زین العابدین کے خوف سے بھاگ کر خواہلیس کے بڑے امیر عادل کے پاس (پناہ لینے کے لئے) سلطانہ پینچا مگر سے قید کر دیا گیا۔ پھر وہ قید خانے سے بھاگ کر احمد بن اولیس کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو اس نے اس کی فریاد رسی کی اور اسے اپنے علاقے تستر میں پناہ دی۔ وہاں سے (وہ فوج لے کر) شیراز کی طرف روانہ ہوا تو زین العابدین اصفہان چلا گیا اور اس کا اپنا سا بھائی یزد چلا گیا۔ ان دونوں کا چچا احمد بن محمد المظفر کرمان میں تھا۔

تیہور کی اطاعت: جب چغتائی بن چنگیز خان کے خاندان کے سلطان تیہور نے ۷۸ھ میں فوج کشی کی اور تیہور کے علاقے کو فتح کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تو حاکم یزد یحییٰ نے اس کی اطاعت قبول کی اور حاکم کرمان احمد نے بھی اس کی اطاعت قبول کی۔

تیہور کی فوج کشی: مگر زین العابدین اصفہان سے بھاگ گیا اور سلطان تیہور نے اس کے علاقے کو فتح کر لیا۔ زین العابدین شیراز چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان تیہور اپنے ماوراء النہر کے ملک کی طرف واپس چلا گیا تھا اور ۹۵ھ تک اس کے حالات صیغہ راز میں رہے۔ اس کے بعد اس نے بلاد فارس کی طرف فوج کشی کی تو منصور بن شاہ ولی نے فوجیں اکٹھی کیں تاکہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرے مگر سلطان تیہور نے فریب دے کر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا اور ہرات کی طرف لوٹ گیا۔ اس اثناء میں منصور کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔

منصور کی شکست: جب سلطان تیہور کے جاسوسوں نے اسے فوجوں کے منتشر ہونے کی اطلاع دی تو سلطان تیہور تیز رفتاری کے ساتھ شیراز پہنچا اور شہر سے باہر منصور کی باقی ماندہ فوجوں کو جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہ تھی شکست دی (اس ناگہانی جنگ سے خوف زدہ ہو کر) منصور کی فوج کے اکثر افراد تیہور کی فوج میں شامل ہو گئے اور منصور اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ جاں نثاری کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ معرکہ جنگ میں گم ہو گیا اور اس (کی زندگی) کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔

بنوالمظفر کا خاتمہ: اب سلطان تیمور نے شیراز کو فتح کر کے اسے اصفہان کی عملداری میں شامل کر لیا اور اپنی طرف سے ان علاقوں کا حاکم مقرر کیا اس نے کرمان کے حاکم احمد بن محمد اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا اور کرمان کے علاقے پر بھی اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ اس نے یزد کے حاکم یحییٰ بن شاہ ولی اور اس کے دونوں فرزندوں کو بھی قتل کر لیا اور وہاں بھی اپنا حاکم مقرر کیا۔ یوں اس نے بنوالمظفر (کے شاہی خاندان) کا خاتمہ کر دیا۔ البتہ زین العابدین بن شجاع بن محمود کو اپنے لئے زندہ رکھا، مگر اس کا فرزند بھاگ کر اپنے ماموں احمد بن اویس کے پاس پہنچ گیا اور وہ ابھی تک (تا عہد تحریر کتاب تاریخ ابن خلدون) اس کے ساتھ مصر میں مقیم ہے۔

احوال بلاد روم اور بنو ارتنا کی حکومت

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ بلاد روم کا ملک سلاطین سلجوقیہ کی (ایک شاخ) بنو قلیج ارسلان کے ماتحت تھا جنہوں نے یہاں دعوت اسلام کا آغاز کیا اور اس علاقے کو بازنطینی سلاطین کے تسلط سے جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا آزاد کرایا۔ انہوں نے اس ملک میں دیار بکر اور دیگر علاقوں کا اضافہ بھی کیا۔ یوں ان کی عملداری وسیع ہو گئی تھی اور ان کی عظیم مملکت ہو گئی تھی۔

بلاد الروم کے علاقے: ان سلاطین کا پائے تخت قونیہ میں تھا اور ان کے ملک میں مندرجہ ذیل شہر اور علاقے شامل تھے۔

(۱) انقر (۲) اظکیہ (۳) علایا (۴) طغرل (۵) دمرلو (۶) قراحصار۔ ان کے ماتحت آذربائیجان کا ملک بھی تھا اور اس میں مندرجہ ذیل علاقے بھی شامل تھے۔

(۱) اقسہر (۲) کاخ (۳) قلعہ کونیہ۔

قیساریہ بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا۔ اس کے ماتحت مندرجہ ذیل شہر تھے۔

(۱) نکرہ (انقرہ) (۲) عداقلیہ (۳) منال۔

سیواس کا صوبہ بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا جسے انہوں نے دانشمند کے قبضے سے چھینا تھا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔

ان کی عملداری میں یہ علاقے بھی شامل تھے۔ (۱) نکسار (۲) قاسایہ (۳) توقات (۴) نککرہ کوریہ (۵) قمنات (۶) سامسون (۷) صفوی (۸) کسحونیہ طرخلوا (۹) بریوا۔

انہوں نے ارمن قوم کے علاقے (ارمینیا) میں سے خلاط۔ ارمینیا، الکبریٰ، دانی سلطان اور ارمنیوں کے علاقے بھی اپنی مملکت میں شامل کئے۔

وسیع سلطنت: دیار بکر میں سے خرت برت، ملطیہ اور سمیاط و سارہ کے علاقے ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ ان کی یہ سلطنت شمالی سمت سے شہر بورصہ سے لے کر قسطنطنیہ تک وسیع ہو گئی تھی یوں وہ ایک وسیع اور اہم ممالک پر قابض تھے۔ آخر کار اور سلطنتوں کی طرح یہ سلطنت بھی کمزور ہوتی چلی گئی۔

تاتاریوں کی فتوحات: جب تاتاریوں نے اسلامی ممالک کو فتح کر لیا تو مرکزی سلطنت کے تحت پر منگو خان جو ہلاکو کا

بھائی تھا بیٹھا۔ اس وقت تاتاری چھوٹی بڑی اسلامی سلطنتوں کے وارث تھے۔ انہوں نے بلا در روم کی طرف ۱۱۵۴ھ میں اپنے ایک بڑے سردار بیکو کی قیادت میں مغل فوجیں بھیجیں۔ اس وقت بلا در روم کا بادشاہ غیاث الدین کجسور بن علاء الدین کی قبضہ تھا جو قطلمش کے خاندان کا بارہواں بادشاہ تھا۔ یہ مغل فوجیں ارزن الروم (ارض روم) پہنچیں وہاں کا حاکم شاہ علاء الدین کا آزاد کردہ غلام سنان الدین یا قوت تھا۔ مغل فوجوں نے دو مہینے کے محاصرہ کے بعد اسے فتح کر لیا اور اسے تباہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اقشہر اور زنجان کے مقامات کے قریب شاہ غیاث الدین کجسور نے صحرا میں ان کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ اپنے ذخیرہ اور اہل و عیال کو لے کر قونیہ پہنچ گیا۔ بیکو (مغل سردار) اس کے (چھوڑے ہوئے) علاقہ پر قابض ہو گیا۔

پھر وہ قیساریہ پہنچا۔ مغل فوجوں نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد شاہ غیاث الدین فوت ہو گیا تو اس کا فرزند علاء الدین کی قبضہ بادشاہ مقرر ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت کے کاموں میں اپنے دونوں بھائیوں کو بھی شریک کر لیا جن کے نام عز الدین کی کاؤس اور رکن الدین قلیچ ارسلان تھے۔

خانہ جنگی۔ جب تاتاری ان کے شہروں کو تباہ کرنے لگے تو علاء الدین کی قبضہ صاحب تخت و تاج مغل بادشاہ منگو خان کی طرف (فریاد لے کر) روانہ ہوا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کے دونوں بھائی جھگڑنے لگے۔ اس (خانہ جنگی) میں عز الدین کی کاؤس غالب آ گیا اور اس نے اپنے بھائی رکن الدین کو قونیہ میں نظر بند کر دیا۔ عز الدین نے اپنے بھائی علاء الدین کے پیچھے پیچھے ایسے شخص کو بھیجا جو منگو خان کو اس کے برخلاف کرنے، مگر اس مہم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیونکہ علاء الدین راستے ہی میں فوت ہو گیا تھا۔

سلطنت کی تقسیم۔ آخر کار منگو خان نے یہ تحریری حکم دیا کہ بلا در روم کے ملک میں عز الدین اور رکن الدین دونوں شریک ہیں اور اس ملک کی ان دونوں کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگی کہ عز الدین کے پاس سیواس سے لے کر قسطنطنیہ کی سرحد تک کا علاقہ رہے گا اور رکن الدین سیواس سے ارزن الروم (ارض روم) تک اسی مشرقی علاقے کا حاکم رہے گا جو تاتاری علاقے کے قریب ہے۔

(اس فیصلے کے بعد) عز الدین نے رکن الدین کو رہا کر دیا اور اس نے تاتاری حکومت کی اطاعت قبول کی۔

بیکو کی فتح۔ ابھی عز الدین واپس نہیں آیا کہ بیکو نے بلا در روم پر حملہ کر دیا لہذا عز الدین کے ایک سردار ارسلان دغمش نے اس کا مقابلہ کیا۔ بیکو نے شکست دے کر اسے قونیہ کی طرف بھگا دیا۔ عز الدین وہاں سے بھاگ کر علیا کے مقام پر پہنچ گیا۔ بیکو نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار وہاں کے خطیب نے یہ شہر بیکو کے حوالے کر دیا اور وہ اس پر قابض ہو گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کی بیوی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئی اس موقع پر یہ شرط رکھی گئی کہ تاتاری (شہر میں) ایک ایک کر کے داخل ہوں اور وہ (کسی) باشندہ کو نہ چھیڑیں۔

اب عز الدین اور رکن الدین نے تاتاریوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ان کی حکومت اور بادشاہت برائے نام رہ گئی تھی۔ اصل حکومت مغل سردار بیکو کے ہاتھ میں تھی۔

تاریخ ابن خلدون

سقوط بغداد میں شہرکت: جب ہلاکو نے ۶۵۶ھ میں بغداد کی طرف فوج کشی کی تو اس نے بیکو اور اس کی فوجوں کو امداد کے لئے طلب کیا۔ مگر اس نے یہ معذرت کی کہ اس کے راستے میں فراسیلیہ اور باروقیہ کی کردو میں حائل ہیں ان کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہلاکو نے (اس کا راستہ صاف کرنے کے لئے) اپنی طرف سے فوجیں بھیجیں جب وہ آذربائیجان کے علاقے سے گزریں تو وہاں سے کرد قوم کے افراد بھاگ گئے اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ بیکو (اور اس کی فوج کو) لے کر ہلاکو کے پاس پہنچ گئے وہ فتح بغداد اور اس کے بعد کے واقعات میں اس کے ساتھ شریک تھے۔

ہلاکو کی امداد: جب ہلاکو حلب پہنچا تو اس نے عز الدین اور رکن الدین کو اپنے پاس بلایا چنانچہ وہ (وہاں پہنچ گئے اور) وہ دونوں فتح حلب کے موقع پر اس کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ان کا وزیر معین الدین سلیمان بردناق بھی وہاں موجود تھا۔ ہلاکو نے اسے بہت پسند کیا اور رکن الدین کو ہدایت کی کہ اسے اپنی طرف سے اس کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

جب بلاد الروم میں مثل سردار بیکوفوت ہو گیا تو اس کا جانشین ایک دوسرا مثل سردار صمقار کو مقرر کیا گیا۔

عز الدین کی شکست: ۶۵۹ھ میں دونوں بھائیوں عز الدین اور رکن الدین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عز الدین رکن الدین کے علاقے پر غالب آ گیا اور رکن الدین برواناق کو ہمراہ لے کر ہلاکو کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ ہلاکو نے اسے فوجی امداد دے کر بھیجا۔ جب مقابلہ ہوا تو عز الدین نے ان سب کو شکست دی۔ رکن الدین نے دوبارہ امداد طلب کی تو ہلاکو نے دوبارہ امداد فوج بھیجی۔ اس مرتبہ عز الدین کو شکست ہوئی اور وہ قسطنطنیہ پہنچ گیا جہاں وہ وہاں کے حاکم لشکری کے ساتھ رہنے لگا۔

ترکمانوں کی خود مختاری: اب رکن الدین قلیچ ارسلان بلاد الروم کا (تہا) حاکم ہو گیا۔ مگر وہاں کی سرحدوں اور ساحلوں پر جو ترکمان قوم رہتی تھی اس نے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی۔ انہوں نے ہلاکو سے درخواست کی کہ وہ ان پر اپنی طرف سے حاکم مقرر کرے چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا کی۔ چنانچہ آج کل وہاں ان کے (عثمانی) سلاطین حکومت کر رہے ہیں جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔

عز الدین کی وفات: عز الدین قسطنطنیہ ہی میں مقیم رہا۔ اس نے وہاں کے حاکم لشکری پر حملہ کرنا چاہا تھا مگر اس کے رومی باموں نے اس کی چٹیل خوری کی اس لئے لشکری نے اسے اپنے کسی قلعہ میں نظر بند کر دیا جہاں وہ ہلاک ہو گیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ صرایی کے صاحب تخت شمالی سلطنت کے بادشاہ اور قسطنطنیہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور تاتاری بادشاہ نے حملہ کر کے قسطنطنیہ کے علاقے کو تباہ کیا تھا اور جب وہ اس قلعہ کے پاس سے گزرا جہاں عز الدین نظر بند تھا تو وہ اسے (رہا کر کے) اپنے ساتھ صرایی کی طرف لے گیا تھا اور عز الدین وہاں فوت ہوا تھا۔

اس کے بعد اس کا فرزند مسعود ہلاکو کے فرزند ابغا کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کا بہت عزت و احترام کیا اور بلاد الروم کے کسی قلعہ کا حاکم بنا دیا۔

غیاث الدین کجسرو کی حکومت: اس کے بعد معین الدین سلیمان برداناۃ رکن الدین سے بدگمان ہو گیا اور اس نے رکن الدین کو ۶۶۶ھ میں اچانک اور پوشیدہ طور پر قتل کر دیا اور اس کے فرزند کجسرو کو غیاث الدین کا لقب دے کر تخت نشین کر دیا اور خود اس پر حاوی ہو گیا (اس کے نام سے خود مختار حاکم ہو گیا) اس کے باوجود وہ تاتاری سلطنت کا مطیع و فرمانبردار رہا مگر وہ ان (کی حرکتوں) سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس لئے وہ مصر کے سلطان سے خط و کتابت کر کے اس کے حلقہ اطاعت میں آنا چاہتا تھا۔ جب ابغابن ہلاکو (مغل بادشاہ) کو سلطان ظاہر بھرس سے اس کی خط و کتابت کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوا۔

مغل فوجوں کو شکست: جب صمغار مغلوں کا نگران حاکم (کو تو ال) فوت ہوا تو ابغابن اس کے بجائے دو مغل سردار بھیجے جن کے نام تدوان اور تو قرتھے وہ دونوں ۶۷۵ھ میں شام پہنچے اور اہلسین کے مقام پر فرودکش ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ غیاث الدین کجسرو بھی تھا اور اس کا سرپرست برداناۃ بھی لشکر میں موجود تھا۔ اسی زمانے میں سلطان ظاہر بھرس دمشق سے فوجیں لے کر اہلسین پہنچ گیا اور تاتاری فوجوں سے جنگ کی۔ برداناۃ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نے پیشتر ازیں سلطان ظاہر سے اسی قسم کا وعدہ کیا تھا۔ لہذا سلطان ظاہر نے ان دونوں (تاتاری سرداروں کی فوجوں کو) شکست دی اور تاتاری فوجوں کے علاوہ اس نے دونوں امیر تدوان اور تو قرت کو قتل کر دیا مگر برداناۃ اور اس کا (زیر نگران) سلطان بیچ گیا، بلکہ ان کی فوج میں سے کسی ایک کو بھی کوئی غمان نہیں پہنچا۔ اس کے بعد سلطان مصر بلاد الروم کے پائے تخت قیسیاریہ کو فتح کر کے مصر لوٹ گیا۔

سازش کا انکشاف: جب (تاتاری سلطان) ابغامون پہنچا اور اس نے میدان جنگ کا مشاہدہ کیا تو وہاں اس نے اپنی تاتاری قوم کے افراد کی لاشیں دیکھیں۔ یوں اس کی بدگمانی کی تصدیق ہو گئی کہ یہ برداناۃ اور اس کے ساتھیوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور لوٹ گیا۔

مغلوں کا تسلط: پھر اس نے اپنے محاذ جنگ میں برداناۃ کو بلوا کر اسے قتل کر دیا اور اس کے بجائے غیاث الدین کجسرو کا قائم مقام اس کے بھائی عز الدین محمد کو مقرر کیا۔ اس کے بعد غیاث الدین کجسرو اس حالت میں بلاد الروم پر حکومت کرتا رہا کہ مغل فوجوں کا ایک سردار (کو تو ال کی حیثیت سے) اس ملک کی نگرانی کرتا تھا۔

مغل حکام کا تقرر: جب تکرار بن ہلاکو بادشاہ مقرر ہوا تو اس وقت اس کا بھائی قنقر طای بلاد الروم میں مقیم تھا۔ وہ (مغل سردار) صمغار کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سلطان نے اسے بلا بھیجا مگر اس نے آنے سے انکار کیا۔ اس نے غیاث الدین کو حکم دیا تو اس نے اس کو ارزکان کے مقام پر نظر بند کر دیا اور بلاد الروم پر مغلوں کا نمائندہ نگران افسر (شحنہ) ایک مغل سردار الاکو کو ۶۸۱ھ میں مقرر کیا گیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ صمغار کے بعد ارغون ابغابن نے الاکو کو بلاد الروم میں نگران افسر (شحنہ) مقرر کیا تھا۔ جب سلطان ابغابن نے (دو مغل سرداروں) تدوان اور تو قرت کو بھیجا تھا تو ان دونوں کو سلطان مصر ظاہر سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تھا، ان دونوں کو نگران افسر (شحنہ) کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا تھا۔

امیر علی کی حکومت: بعد ازاں مسعود بن عز الدین کیا کوس بلاد الروم کا (برائے نام) بادشاہ مقرر ہوا اور اصل حکومت تاتاری فوجی افسر (شحنہ) کی تھی۔ اس کی حکومت برائے نام تھی اور اس کا اقتدار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے برعکس مغل سردار بلاد الروم میں نگران افسر (شحنہ) کی حیثیت سے پے در پے آتے رہے۔ چنانچہ آٹھویں صدی کے شروع میں امیر علی مقرر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ارمن قوم کے بادشاہ اور میس کے حاکم ہشیوس بن لیون کو قتل کیا تھا۔ جب اس کا بھائی سلطان خربندا کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو اس نے فریاد رسی کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ جیسا کہ ترکی سلطنت کے حالات میں ارمن قوم کے تذکرہ میں بیان کیا گیا ہے۔

ارمنوں کے خلاف جہاد: ۲۰۷ھ میں یہاں امیر ابغابھی (نگران بن کر) آیا۔ پھر سلطان ابوسعید نے بلاد الروم کی طرف (نگران بنا کر) دمر داش بن جو بان کو ۲۳۷ھ میں روانہ کیا وہاں اس کا اقتدار قائم ہو گیا اور اس نے میس میں ارمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور اس مقصد کے لئے سلطان مصر محمد بن قلدان سے بھی فوجی امداد طلب کی تھی۔ چنانچہ اس کے لئے امدادی فوج بھیجی گئی اور ان دونوں فوجیوں نے (مل کر) ایاس کے مقام کو بزور شمشیر فتح کیا۔ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔

دمر داش کا قتل: جب سلطان ابوسعید نے اپنے نائب جو بان بن بردان کو قتل کیا تو اس کی اطلاع اس کے فرزند دمر داش کے پاس بلاد الروم بھی پہنچی۔ وہ یہ خبر سن کر بہت بریشان ہوا۔ آخر کار وہ اپنی فوجوں اور سرداروں کو لے کر مصر پہنچ گیا۔ سلطان مصر نے اس کا استقبال کیا اور اسے بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ اس کے پیچھے سلطان ابوسعید کے ایلچی بھی آ پہنچے۔ وہ (سلطان ابوسعید کا) یہ مطالبہ لے کر آئے تھے چونکہ وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا مرتکب ہوا ہے اس لئے اس کے ساتھ خدائی فیصلہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ سلطان مصر نے اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کی کہ وہ اس شامی سردار قراستقر کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا جو مصر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اسے بھی قتل کیا گیا اور ان دونوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی گئی۔

ارتنا کی حکومت

جب دمر داش بلاد الروم سے بھاگ کر مصر گیا تھا تو وہاں وہ اپنے ایک سردار کو چھوڑ گیا تھا جسے ارتنا کہا جاتا ہے مگر شہزادوں کے ناموں کی طرح اس کا نام نوری تھا اس نے سلطان ابوسعید کو اطلاع دی کہ وہ اس کا مطیع و فرمانبردار ہے لہذا سلطان نے اسے اس علاقہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس نے سیواس میں مقیم ہو کر اسے اپنا پائے تخت بنایا۔

دشمن کی شکست: جب حسن بن دمر داش توریز میں خود مختار بادشاہ ہو گیا تو ارتنا نے اس کی اطاعت قبول کی۔ پھر اس سے باغی ہو کر اس نے سلطان ناصر حاکم مصر سے خط و کتابت کر کے اس کی اطاعت قبول کی۔ سلطان مصر نے اسے حکومت کا پروانہ اور خلعت بھیجا (جب حسن بن دمر داش کو اطلاع ملی تو) اس نے فوج جمع کر کے سیواس کا رخ کیا۔ ارتنا بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کینوک کے صحرا میں پہنچا اور اسے شکست دی اس نے اس کے فوجی افسروں کی ایک جماعت کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ ۲۴۲ھ میں ہوا۔

مستحکم حکومت: اب ارتنا کی حکومت مستحکم ہو گئی اور جو بان و حسن بن دمر داش اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ ۲۵۳ھ تک

حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد کے حالات کا صحیح علم نہیں ہو سکا اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے فرزند کس ترتیب کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ البتہ ترک حکومت کے حالات کے ضمن میں اتنا پتہ چلا ہے کہ ۱۶۷ھ میں سلطان مصر نے اپنے نائب حاکم کو یہ ہدایت لگی کہ وہ فوج لے کر محمد بیگ بن ارتقا کی امداد کے لئے جائے۔ چنانچہ وہ فوج لے کر گیا اور کامیابی حاصل کی۔

بنو دلقادر ارمینہ میں: ارتقا اور اس کے فرزند بلاد الروم پر حکومت کرتے رہے مگر ترکمان قوم نے ان سے ارمینہ میں سے سیس اور اس کا متعلقہ علاقہ چھین لیا تھا۔ وہاں بنو دلقادر کی مخالفانہ سلطنت قائم ہو گئی تھی اور وہ فوجی حملے کرتے رہتے تھے۔ اور یہ علاقہ ابھی تک (تا آخر عہد ابن خلدون) ان کے قبضے میں ہے۔

جب ایک ترکی امیر سعاوس نے ۵۲ھ میں بغاوت اختیار کی تھی تو قراجا بن دلقادر نے اس کی حمایت کی تھی۔ اس وقت سلطان مصر نے فوجیں حملہ کرنے کے لئے ارسال کیں تو اس کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔ شاہی فوج نے تعاقب کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔

۵۳ھ میں سلطان مصر نے قراجا کو گرفتار کرنے کے لئے فوجیں بھیجیں۔ جب وہ ہلستین پہنچیں تو وہاں کا نائب حاکم وہاں سے بھاگ گیا۔ شاہی فوجوں نے اس کے قبائل کو لوٹ لیا اور وہ خود (قراجا بن ارتقا کے پاس سیواس بھاگ گیا۔ ابن ارتقا نے اسے گرفتار کر کے سلطان کے پاس مصر بھیج دیا جہاں وہ مارا گیا۔

عثمانی سلطنت: ترکمان قوم نے شمالی سمت سے بلاد الروم کا علاقہ قسطنطنیہ تک اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور وہاں کی عیسائی قوموں کا صفایا کر کے قسطنطنیہ کے پیچھے کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ جمالیاتھا۔ ان کا حاکم آج کل بڑے سلاطین میں شمار کیا جاتا ہے ان کی سلطنت نئی ہے مگر روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔

قاضی کی نگرانی ۱۸۰ھ میں سیواس میں ارتقا کی نسل میں سے ایک لڑکا تھا (جس کا نام غالباً ابراہیم بن محمد بیگ بن ارتقا تھا) باپ کی وصیت کے مطابق اس کا نگران شہر کا قاضی مقرر ہوا اور وہی خود مختار حاکم بن گیا تھا۔ پھر اس قاضی نے ۹۲ھ میں اس لڑکے کو قتل کر کے حکومت مکمل طور پر سنبھال لی تھی۔ اس علاقے میں تاریخی قبائل کی تقریباً تین ہزار فوج رہتی تھی۔ ان کا حاکم دمرداش بن جوہان تھا۔ اس سے پہلے بھی مغل افسر مقرر ہو کر آتے تھے۔ یہ فوج بنو ارتقا کی طرف دار اور محافظ تھی اور یہی وہ فوج تھی جن سے قاضی شہر نے فوجی امداد کی درخواست کی تھی۔ جب مصری فوج اپنے اس باغی مظالم کی تلاش میں وہاں پہنچی تھی جو بھاگ کر وہاں پناہ گزین تھا۔ لہذا مصری فوجیں ۸۹ھ میں اسے گرفتار کرنے کے لئے سیواس پہنچی تھیں، مگر قاضی شہر کی درخواست پر تاریخی فوجوں نے اس کی امداد کی اور اس کے نتیجے میں مصری فوجیں وہاں سے چلی گئیں جیسا کہ ترکی حکومت کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے۔

بنو ارتقا کی حکومت ابھی تک (تا آخر عہد مورخ ابن خلدون ۹۲ھ) قائم ہے۔

سلطنت بنو عثمان ترکی میں

یہ ترکان قوم یافث بن نوح کی اولاد میں سے توغرما بن کومر بن یافث کی نسل سے ہیں جیسا کہ تورات میں مذکور ہے۔ بنو اسرائیل کے ماہر انساب فیومی نے بیان کیا ہے کہ توغرما کی اولاد ترکان ہیں جو ترکوں کے بھائی ہیں۔ ان کا اصلی وطن جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ بحر طبرستان سے لے کر جسے بحر خزر کی کہا جاسکتا ہے۔ قسطنطنیہ کے دونوں درمیانی حصوں تک ہے۔ مشرق میں ان کا علاقہ دیار بکر تک ہے۔

جب عربوں اور رومنوں کی حکومت کا زوال ہوا تو انہوں نے دریائے فرات کے نواحی علاقے کی ابتداء سے لے کر اس کے دہانے تک وہاں تک قبضہ کر لیا جہاں وہ دریائے دجلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ متفرق اور مختلف قبائل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔

بلاد روم میں ان کا بہت بڑا گروہ تھا۔ چنانچہ اس کثرت تعداد کی بدولت انکے احکام دشمن کے ساتھ جنگوں میں غالب آجاتے تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں ان کا بہت بڑا سردار حق تھا۔ اس وقت بھی ان کے بہت قبیلے تھے اور ان کی تعداد بہت تھی۔

عثمانی قوم کا آغاز: جب سلیمان ابن قنقش نے اپنے والد کی وفات کے بعد قونیہ کی سلطنت پر حکومت کی اور انطاکیہ کو رومیوں کے قبضے سے چھڑا کر اسے فتح کر لیا تھا تو مسلم بن قریش نے اس سے اس جزیہ کا مطالبہ کیا جو وہ رومیوں سے وصول کرتا تھا۔ سلیمان نے اس سے انکار کیا تو دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت مسلم بن قریش نے عربوں اور ترکمانوں کو (اس کے مقابلہ کے لئے) اکٹھا کر لیا تھا۔ ترکمانوں کا سردار حق اس کے ساتھ تھا اور وہ انطاکیہ کے مقام پر سلیمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے پہنچا تھا۔ جب فریقین میں جنگ کا آغاز ہوا تو ترکمان ترکی نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سلیمان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ مسلم بن قریش کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔

جداگانہ سلطنت کا قیام: بنو قنقش کے عہد حکومت میں یہ ترکمانی قوم بلاد الروم کے پہاڑوں اور ساحلی مقامات پر مقیم رہی۔ جب تاری قوم نے بلاد الروم کو فتح کیا تو انہوں نے بنو قنقش کی حکومت کو برقرار رکھا۔ پہلے عزالدین کیاؤس اپنے بھائی رکن الدولہ قلیچ ارسلان پر غالب آ گیا تھا (مگر پھر مغلوب ہو گیا) آخر کار رکن الدولہ حاکم ہوا اور عزالدین قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ اس زمانے میں (مذکورہ بالا) ترکمانوں کے سردار محمد بک اس کا بھائی الیاس بک اور اس کا سہو علی بک اور اس کا رشتہ دار سونچ تھے۔ بظاہر وہ حق کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے رکن الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ پھر انہوں نے ہلاکو کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ لہذا ان کے لئے جداگانہ نگران افسر بھیجا جائے اور (ان کی آزادی تسلیم کر کے) ان کے لئے (جداگانہ) علم بھیجا جائے۔ چنانچہ ہلاکو نے ان کی بات مان لی اور ان کی آزادی تسلیم کر لی۔

علی بیگ کا تقرر: بعد ازاں ہلاکو نے (ترکمانوں کے سردار) محمد بیگ کو بلوایا۔ مگر اس نے معذرت پیش کر کے حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ لہذا ہلاکو نے بلاد روم کے نگران افسر اور سلطان قلیچ ارسلان کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کریں

چنانچہ وہ (فوج لے کر) وہاں پہنچے اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ (اس جنگ سے) اس کا سدھی علی بیگ الگ ہو کر ہلاکو کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے اس کے سدھی محمد بیگ کے بجائے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔

محمد بیگ نے جنگ میں مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر دور دراز علاقے کی طرف بھاگ گیا پھر وہ قلعہ ارسلان کے پاس پناہ لینے کے لئے حاضر ہوا۔ اس نے اس کو پناہ دے دی اور پناہ دے کر اسے قونیہ لے گیا وہاں اس نے محمد بیگ کا کام تمام کر دیا اور اس کے سدھی علی بیگ کو ترکمان قوم کا امیر مقرر کیا۔

اس اثناء میں تاتاری فوجوں نے بلاد الروم کے علاقوں کو استنبول تک فتح کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے بنو عثمان سلاطین علی بیگ یا اس کے رشتہ داروں میں سے تھے کیونکہ پوری صدی تک اسی خاندان میں حکومت رہی تھی۔

پہلا عثمانی بادشاہ: جب تاتاریوں کا نام و نشان بلاد الروم سے مٹ گیا اور بنو ارتنا سیواس اور اس کے علاقوں پر مسلط ہو گئے تو یہ ترکمان قوم بھی اس کے دوروں کے پیچھے کے علاقوں پر خلیج قسطنطنیہ تک قابض ہو گئی اور ان کے بادشاہ نے ان علاقوں کے لئے بورصہ کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اس کا نام اور خان بن عثمان بن جن تھا۔ اس نے وہاں محلات نہیں تعمیر کرائے بلکہ وہ وہاں کے میدانوں میں خیمے گاڑ کر رہتا تھا۔

سلطان مراد کی فتوحات: اس کے بعد مراد جو اس کا فرزند تھا بادشاہ مقرر ہوا۔ وہ فوج لے کر خلیج کے پیچھے عیسائیوں کے شہروں کے اندر گھس گیا تھا۔ اس نے وینس کی خلیج اور جزائر کے پہاڑوں تک مسیحی شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ ان میں سے اکثر اس کے ذمی رعایا بن گئے تھے۔

قسطنطنیہ کا محاصرہ: اس نے صقلیہ کے شہروں کو بھی روند ڈالا تھا۔ اس کی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس نے قسطنطنیہ کے شہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا بادشاہ جو لشکر (سابق بادشاہ) کی نسل سے تھا نظر بندوں کی طرح ہو گیا تھا اور وہ اسے جزیہ دے کر اپنی حفاظت کی ذمہ داری کا مطالبہ کرتا رہا۔

بایزید کی حکومت: سلطان مراد بے اسی طرح نصرانی قوموں کے ساتھ جہاد کرتا رہا تا آنکہ صقلیہ قوم کے ساتھ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ ۱۳۷۹ء میں رونما ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند سلطان ابوزید حکمران ہوا اور آج کل (تا آخر عہد ابن خلدون) وہی اس قوم کا بادشاہ ہے۔

وسیع سلطنت: بنو عثمان کی سلطنت بہت وسیع اور مستحکم ہو گئی ہے وہ بلاد الروم کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتے ہیں جو سیواس اور انطاکیہ و علایا کے درمیان سمندر کے بالمقابل قونیہ تک ہے۔ جہاں ترکمان قوم کا ایک دوسرا خاندان بنو قرمان حکمران ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ارمینیہ کی حدود میں مقیم تھے ان کے جد امجد نے ارمینی قوم کے سیس بادشاہ پیشوش بن لیمون کو ۱۲۰۷ء میں شکست دی تھی۔ پھر بنو عثمان جن اور بنو قرمان کے درمیان باہمی ازدواج سے رشتہ داری اور سدھیانہ قائم ہو گیا۔ چنانچہ موجودہ دور میں ابن قرمان سلطان مراد بے کا بہنوئی ہے یوں سلطان مراد بے اس کے مقبوضہ علاقوں پر قابض ہو گیا ہے نیز علایا کا حاکم ابن قرمان بلکہ تمام ترکمان قوم اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو گئی ہے۔ سلطان مراد بے نے تمام (ترکی) شہروں کو فتح کر لیا تھا اور سیواس کے علاوہ جو خاندان بنو ارتنا کا مرکزی مقام ہے (بلاد الروم کا) کوئی مقام (اس کی سلطنت سے

باہر) نہیں رہا ہے۔ سیواس کا شہر ایک خود مختار قاضی کے ماتحت ہے۔ تاہم یہ نہیں معلوم ہے کہ خاندان چغتائی کے مغل حکمران سلطان تیمور کی فتوحات کے بعد کیا صورت حال پیش آئے گی؟

یورپ کو خطرہ: بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ (بلاد الروم) کے شمالی علاقے میں بنو عثمان کی سلطنت بہت وسیع اور مستحکم ہے۔ وہاں (یورپ) کی نصرانی قومیں اس سے بہت خائف ہیں۔

خاتمۃ الکتاب: یہاں تک عربوں اور ان کی ماتحت سلطنتوں کے طبقہ سوم کے تاریخی حالات ختم ہو گئے ہیں۔ اس میں ان ماتحت عجمی سلطنتوں کے حالات بھی شامل ہیں جو مشرق و مغرب میں قائم ہوئیں۔

اب ہم عربوں کے طبقہ چہارم کی سلطنتوں کا حال بیان کریں گے جو عربی زبان کے زوال و انحطاط کے بعد قائم ہوئیں۔ ان کے حالات بیان کرنے کے بعد ہم کتاب کے تیسرے حصہ میں بربری اقوام اور ان کی سلطنتوں کا حال بیان کر کے فارغ ہو جائیں گے۔

پشت

تکملہ و ضمیمہ

﴿ جلد دوم ﴾

تاریخ ابن خلدون

[از مترجم]

ممالیک سلاطین مصر کی علمی اور تعلیمی خدمات

(از: حافظ رشید احمد ارشد ایم اے۔ سابق صدر شعبہ عربی۔ کراچی یونیورسٹی)

چونکہ ممالیک مصر سلاطین کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ علم سلطنت کی بنیاد اور اس کا مستحکم ستون ہے۔ اس لئے انہوں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت کی حوصلہ افزائی کی اور علمائے کرام کی قدر دانیکرتے ہوئے ان کے لئے پیش بہا و وظائف مقرر کئے۔

اس زمانے میں جدید سلطنت کی نشوونما ہو رہی تھی۔ اس لئے ان سلاطین نے اپنی بقاء و زیت کار از اسی میں سمجھا کہ وہ علوم و فنون کے مراکز قائم کریں اور عالم اسلام میں خلافت کے احیاء کے بعد وہ مذہب اسلام کے حامی اور محافظ کی حیثیت سے نمودار ہوں۔

چونکہ وہ آثار یوں اور صلیب پرستوں پر غالب آ کر اپنا موقف بلند کر چکے تھے اس لئے جلد انہوں نے عالم اسلام کی ہمدردی حاصل کر لی اور ان کے مخالفین کو ان کے خلاف نکتہ چینی یا ریشہ دوانیاں کرنے کا موقع نہ مل سکا۔

بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی ممالک میں علوم و فنون کا خاتمہ ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابیں اور ان کے کتب خانے ناپید ہو گئے تھے اور اس تباہی کی قربان گاہ پر مسلمانوں کی کتابیں اور ان کے علماء اور فضلاء بھی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اس لئے نہایت سرگرمی کے ساتھ علمی احیاء کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ممالیک سلاطین مصر نے علمی ترقی کے لئے تمام ضروری اسباب فراہم کئے۔ انہوں نے ملک میں کتب خانے قائم کئے اور تعلیمی اداروں کی بنیاد ڈالی جہاں تعلیم و تدریس کی خدمات پر مشہور علماء کرام کو مقرر کیا گیا جو تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ علمی تحقیقات اور تصنیف و تالیف کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔

مساجد کی اہمیت: تعلیمی ادارے مساجد مدارس اور خانقاہوں میں قائم تھے ممالیک سلاطین مصر کے عہد میں بھی انہی

مقامات پر تعلیم و تدریس ہوتی تھی اور مشہور علماء انہی مراکز میں تعلیم دیتے تھے یہ قدیم طریقہ ابھی تک جاری ہے چنانچہ آج کل بھی جب کہ مصر میں مغربی طریقے کے مطابق کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو گئی ہیں بعض مساجد ایسی ہیں جو تعلیم کا مرکز بنی ہوئی ہیں آج کل بھی اگر آپ جامع ازہر یا طنطا کی جامع احمدی کا قصد کریں تو وہاں موجودہ دور میں بھی درس و تدریس کے حلقے آباد ہوں گے۔

مساجد میں تعلیم ممالیک سلاطین کے عہد میں وہ اہم مساجد جو تعلیمی مراکز بنی ہوئی تھیں چار تھیں جہاں اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ اب ہم ہر ایک کا تعلیمی حال تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

جامع عمرو بن العاص: یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو حضرت فاروق اعظم کے عہد میں حضرت عمرو بن العاص نے فتح مصر کے بعد اپنے شہر فسطاط میں تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد ۵۳ھ میں سب سے پہلے حضرت مسلم بن خالد الانصاری نے اس کی توسیع کی جو اس زمانے میں امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔ ۶۸ھ میں قاضی القضاة تقی الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالوہاب ابن بنت الاعز نے سلطان منصور قلاوون سے جامع عمرو بن العاص اور جامع ازہر کی ایتر حالت کا تذکرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ان دونوں جامع مسجدوں کا چھیننا ہوا وقف واپس کیا جائے مگر اس نے ان کا یہ مطالبہ منظور نہیں کیا۔

بعد ازاں جب امیر سلار مصر کا نائب السلطنت ہوا۔ تو اس نے جامع عمرو بن العاص کی تعمیر و مرمت کے فرائض انجام دیئے اور اس میں باقاعدہ تعلیم و تدریس ہوئے۔

اس جامع مسجد کے بہت سے گوشوں (زواہا) رہنما فقہ کا درس دیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک امام شافعی کا زاویہ (گوشہ) کہلایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں امام شافعی نے اپنے قیام مصر کے زمانے میں درس دیا تھا۔ اس لئے وہ گوشہ ان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد اسی گوشے میں بہت سے مشہور علماء اور فقہاء طویل عرصے تک تعلیم دیتے رہے۔

یہاں کا ایک گوشہ الزاویہ الحجدیہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وزیر مجد الدین کی طرف منسوب ہے جو الملک الاشرف موسیٰ بن العادل بن ایوب کے حران میں وزیر تھے۔ انہوں نے خاص اس زاویہ کے مدرسوں کے اخراجات کے لئے کئی اوقاف بھی مقرر کئے تھے۔ اسی وجہ سے اس مقام پر تعلیم دینا ایک اعلیٰ منصب سمجھا جاتا تھا۔ وزیر موصوف نے یہاں تعلیم دینے کے لئے اپنے ایک رشتہ دار قاضی القضاة ابنی کو مقرر کیا تھا۔

یہاں کا الزاویہ الصاصیہ بھی مشہور تھا۔ یہ صاحب تاج الدین محمد بن فخر الدین محمد ابن حنا کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اس تعلیمی حلقہ کے لئے دو مدرس مقرر کئے تھے ایک مالکی ہوتا تھا اور دوسرا شافعی ہوتا تھا انہوں نے اس کے لئے اوقاف بھی مقرر کئے تھے۔

اس کے علاوہ مصر کے امراء نے جامع عمرو بن العاص کے مختلف گوشوں سے اپنے مقرر کردہ اوقاف کی مدد سے ہر قسم کی تعلیم کا انتظام کیا اور ہر گوشہ اس امیر سے منسوب ہوتا تھا جو اس کے تعلیمی اخراجات کے لئے وقف کا انتظام کرتا تھا۔ یوں یہ جامع مسجد اس زمانے میں ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔

جامع عمرو بن العاص مصر کی سب سے قدیم تعلیمی درس گاہ ہے جہاں جامع ازہر سے بہت پہلے تعلیم و تدریس جاری تھی۔ اور اس کے قائم ہونے کے بعد بھی یہاں تعلیم جاری رہی اور ممالیک سلاطین مصر کے دور میں بھی یہاں کے تعلیمی حلقوں میں اضافہ ہوا۔

اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ علامہ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن بن الضائع الھنسی نے ۴۹۷ھ میں مصر کی دبا سے پہلے جامع عمرو بن العاص میں چالیس سے زیادہ علمی حلقے دیکھے تھے جہاں ہر وقت علم کا چرچا رہتا تھا۔^۱
خود فاطمی دور میں بھی جامع ازہر کی تعمیر کے بعد یہاں حکومت کی طرف سے فاطمی مسلک کے مطابق تعلیم ہوتی تھی۔

جامع ابن طولون: امیر ابو العباس احمد بن طولون نے القطائع کی تعمیر کے بعد جامع ابن طولون کی تعمیر کرائی۔ اس جامع مسجد کی تکمیل کے بعد عوام یہاں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ربیع بن سلیمان کی مجلس میں آکر مختلف علوم فنون کے مسائل تحریر کرتے تھے۔

۶۹۶ھ میں منصور حسام الدین لاجین (لاشین) سلطان مصر نے اس جامع مسجد کی از سر نو تعمیر کرائی اور اس کی تمام خامیوں اور خرابیوں کو دور کیا۔ نیز اس کا بیضہ فرش تعمیر کرایا اور اس میں سفیدی کرائی۔

اس کے بعد اس نے جامع مسجد میں چاروں فقہیہ مذاہب کے مطابق درس فقہ کا انتظام کیا فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کریم حدیث اور طب کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ اس نے خطیب اور امام کے لئے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کیں اور اس جامع مسجد کے لئے متعدد مؤذن فراش اور ملازمین مقرر کئے۔ اس جامع مسجد کے ایک پہلو میں مسلمان یتیم بچوں کے لئے ایک مکتب بھی قائم کیا۔ جہاں انہیں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا۔

سلطان لاشین نے اس جامع مسجد ابن طولون کے لئے اس کی راجت تمام و انتظام کیا تھا کہ جب اشرف نے غلیل کو قتل کرنا چاہا تو سلطان مذکور اس جامع مسجد کے منارہ میں پوشیدہ ہو گیا تھا۔ اس وقت سلطان نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا تو وہ اس مسجد کو ضرور آباد کرے گا۔ چنانچہ جب وہ بچ نکلا تو اس نے اپنی نذر و منت پوری کی۔

۶۶۷ھ میں ابلغیا العمری خاگی نے جامع ابن طولون میں از سر نو تعلیم و تدریس کا انتظام کیا۔ جس میں حنفی مسلک کے سات مدرس تھے۔ امیر موصوف نے ہر ہوشیار طالب علم کے لئے ماہانہ چالیس درہم نقد وظیفہ اور ایک اربوب گیبوں کا غلہ مقرر کیا (اس وظیفہ کو حاصل کرنے کے لئے) شافعی مسلک کی ایک جماعت حنفی مسلک کی پیرو ہو گئی۔^۲

جامع ازہر اور اس کے تعلیمی حالات: فاطمی سلطان کے سپہ سالار جوہر نے جامع ازہر کی تعمیر ۲۵۹ھ میں شروع کی۔ اس کی تکمیل ۳۲۱ھ میں ہوئی۔ ۳۷۸ھ میں وزیر ابو الفرج یعقوب بن یوسف بن کلس نے فاطمی سلطان عزیز باللہ سے درخواست کی کہ وہ فقہاء کی ایک جماعت کے لئے عطیات مقرر کرے۔ لہذا اس نے انہیں کافی عطیات دیئے اور جامع ازہر کے قریب ان کے لئے ایک عمارت تعمیر کرائی۔ چنانچہ یہ فقہاء یہاں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے اور نماز سے

۱۔ الخطط از مقریزی ج ۲ ص ۲۰۱۵۱۳۔

۲۔ الخطط التوفیقیہ ۱۱۱۱ زلی پاشا مبارک

۳۔ کتاب الخطط از مقریزی ج ۲ ص ۳۶۱۳۷۱۳۲۔

فارغ ہونے کے بعد وہ تعلیم و تدریس کے لئے نماز عصر تک بیٹھا کرتے تھے۔

اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جامع ازہر فاطمی سلاطین کے عہد میں بھی ایک درس گاہ تھی اس کے بعد ابوبی اور ممالیک سلاطین کے عہد میں بھی یہ نہایت اہم درس گاہ رہی۔ کیونکہ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر بیلک خازندار نے جامع ازہر میں ایک بہت بڑا کمرہ تعمیر کرایا تھا۔ جہاں فقہا کی ایک جماعت امام شافعی کے فقہی مسلک کے مطابق فقہ کی تعلیم دیتی تھی۔ اسی طرح حدیث کی تعلیم کے لئے محدثین اور قرآن کریم کی قراءت کے لئے قاری مقرر تھے جن کے ذریعے معاش کے لئے اوقاف مقرر تھے۔

۱۱۷ھ میں امیر سعید الدین بشار نے جامع ازہر کو از سر نو آباد کیا اور وہاں قرآن کریم کے نسخے رکھے اور ایک قاری مقرر کیا۔ اس نے مسلمان یتیم بچوں کو قرآن کریم پڑھوانے کے لئے ایک مکتب بھی قائم کیا۔ وہاں رہنے والے غریبوں کے لئے کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ چنانچہ روزانہ ان غریبوں کے لئے کھانا پکایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے کئی اوقاف مخصوص کر رکھے تھے۔

اس زمانے کے مشہور مؤرخ مقریزی رقمطراز ہیں:

”جامع ازہر کی تعمیر کے وقت سے یہاں ہمیشہ غریبوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ ان دنوں (۸۱۸ھ) میں ان کی تعداد ۷۵۰ افراد تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں ہر ملک کے لئے عمارت کا ایک حصہ مقرر ہے جو اس ملک کے نام سے مشہور ہے۔“

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ ممالیک سلاطین مصر کے دور میں بھی قرآن کریم کی تلاوت، تفسیر، حدیث، فقہ اور مختلف علوم و فنون کی تدریس سے جامع ازہر آباد رہی۔ یہاں وعظ کی محفلیں بھی ہوتی تھیں اور ذکر اور اذکار کے حلقے بھی قائم ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی اس جامع مسجد میں داخل ہوتا تھا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی اور اسے ایسا دلی سکون و اطمینان ملتا تھا جو اسے کسی دوسری جگہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔

حکومت کے علاوہ اس زمانے کے دولت مند حضرات بھی یہاں کے طلباء کی مالی امداد کرتے تھے تاکہ وہ تحصیل علم اور خدا کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔

جامع حاکم: اس جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز فاطمی سلطان العزیز باللہ بن المعز الدین اللہ نے کیا۔ مگر اس کی تکمیل اس کے فرزند الحاکم بامر اللہ نے ۳۹۳ھ میں کی۔ اس لئے جامع مسجد اس کے نام سے منسوب ہوئی۔

۴۰۳ھ میں امیر عیسیٰ نے اس کی اصلاح کی اور یہاں چاروں سنی مسلک کی فقہ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ یہاں حدیث نبوی کا درس بھی دیا جاتا تھا اور ہر درس کے لئے الگ الگ مدرسین مقرر تھے۔ یہاں بہت سے طلباء شریک درس ہوتے تھے۔ کیونکہ یہاں مشہور علماء و فضلاء درس دیتے تھے چنانچہ فقہ شافعی کا درس قاضی القضاة بدر الدین محمد بن ابن جماعہ دیتے تھے۔ فقہ حنفی کا درس قاضی القضاة شمس الدین احمد سردجی حنفی دیا کرتے تھے۔ فقہ مالکی کے مدرس قاضی القضاة زین

الدین علی بن مخلوف تھے۔ فقہ حنبلی کے مدرس قاضی القضاة شرف الدین الجوانی تھے۔ علم حدیث کی تعلیم شیخ سعد الدین مسعود حارثی دیتے تھے۔ اس طرح نحو اور قراءت سب کے لئے مشہور بھی مدرسین تھے۔ تلاوت قرآن کریم کے لئے جداگانہ قاری مقرر تھے جو باری باری ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔^۱

باقاعدہ تعلیمی مدارس: جامع مسجدوں کی مشہور مذکورہ بالا درس گاہوں کے علاوہ مسلمانوں کے سلاطین اور امراء نے باقاعدہ تعلیمی مدارس بھی تعمیر کرائے تھے ان میں سے بعض ایوبی سلاطین کے تعمیر کردہ تھے مگر ممالیک سلاطین مصر نے بھی ان کے تعلیمی نظام کو ترقی دے کر ان میں توسیع کی تھی۔ اس قسم کے چند مشہور مدارس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) مدرسہ صلاحیہ ناصریہ۔ اس مدرسہ کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۶۵۲ھ میں قائم کی تھی۔ یہاں کے مشہور مدرسین میں سے مندرجہ ذیل مشہور علماء بھی تھے:

(۱) قاضی القضاة تاج الدین بن بنت الاعز (۲) قاضی القضاة تقی الدین بن رزین (۳) قاضی القضاة تقی

الدین ابن بنت الاعز (۴) قاضی القضاة شیخ الاسلام تقی الدین ابن دقیق العید۔^۲

(۲) مدرسہ الکالیہ: یہ مدرسہ دارالحدیث (حدیث کی درس گاہ) تھا اور ۶۳۳ھ میں مکمل ہوا اسلامی ممالک میں یہ دوسرا مخصوص دارالحدیث تھا۔ پہلے دارالحدیث کو سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے دمشق میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ دوسرا دارالحدیث الملک الکامل کی طرف منسوب ہے اس کے بہتم اور منتظم شیخ الاسلام ابن دقیق العید اور علامہ بدر الدین ابن جماعہ تھے۔

الملک الکامل نے اس دارالحدیث کو طلباء کے مدرسہ بنو اور ان کے بعد طالبان فقہ شافعی کے لئے وقف کیا تھا اور اس کے آس پاس کی جائداد کی آمدنی اس دارالحدیث کے لئے وقف کی تھی یہ دارالحدیث شارع النجاسین پر واقع تھا جو بیت القاضی کی طرف جاتی تھی ۸۰۶ھ تک اس دارالحدیث کا انتظام مشہور علماء اور فقہاء کرتے رہے۔ بعد میں یہ نیست و نابود ہو گیا۔ جیسا کہ الخطط التوفیقہ کے مؤلف یوں تحریر کرتے ہیں:

”یہ مدرسہ اب منہدم ہو گیا ہے اور اس کا اکثر حصہ شارع النجاسین میں شاہن ہو گیا ہے۔“^۳

الملک الکامل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علماء کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا اور فقہ اور نحو کے عجیب و غریب مسائل پوچھ کر ان کا امتحان لیا کرتا تھا۔ جو کوئی ان کے صحیح جواب دیتا تھا۔ وہ اس کی بڑی قدر دانی کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے گھر میں جو قلعہ الجبل پر تھا بہت سے علماء شب باشی کر کے اس سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ آنے والوں کو نہایت عمدہ عطیات دیتا تھا۔

(۳) مدرسہ الظاہریہ۔ یہ تعلیمی درس گاہ سلطان ظاہر بھرس بندقداری کی طرف منسوب ہے۔ اس کی تعمیر ۶۶۰ھ

میں شروع ہوئی اور تکمیل ۶۶۲ھ میں ہوئی۔ جب اس کی تکمیل ہوئی تو ہر علم کے مشہور ماہرین علماء کو اس کی تکمیل کے جلسہ میں شرکت کے لئے دعوت دی گئی ہر گروہ کے لئے مخصوص ایوان مقرر کئے گئے تھے۔ چنانچہ شافعی مسلک کے فقہاء قبلہ رویوان میں بیٹھے ان کے مدرس اعلیٰ شیخ تقی الدین محمد بن الحسین بن زرین الحوی تھے۔ حنفی مسلک کے فقہاء ایوان بحری کی نشستوں

۱ الخطط المقریبة للمقریبات ج ۳ ص ۵۷۔

۲ حسن المحاضرة از سیوطی ج ۲ صفحہ ۱۳۱۱۔

۳ حسن المحاضرة از سیوطی ج ۲ صفحہ ۱۳۲۔

۴ الخطط الجدیدة التوفیقیة۔

میں بیٹھے۔ ان کے مدرس اعلیٰ الصدر مجد الدین عبدالرحمن بن صاحب کمال الدین عمر ابن العدیم الحلمی تھے۔ علوم حدیث کے طلبہ ایوان مشرقی میں بیٹھے۔ ان کے مدرس اعلیٰ شیخ شرف الدین عبدالمؤمن ابن خلف الدمیاطی تھے۔ قراءت سبعہ کے قاری مغربی ایوان میں بیٹھے ان کے شیخ فقیہ کمال الدین المحملی تھے۔ سب کے لئے تعلیمی نصاب اور اسباق مقرر کئے گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ تعلیم و تدریس شروع ہو گئی۔

اس درس گاہ کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جس میں تمام علوم و فنون کی بنیادی اور ضروری کتب جمع کی گئی تھیں۔ اس کے ایک پہلو میں مسلمان یتیم بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لئے ایک مکتب بھی قائم تھا۔ مکتب کے یتیم بچوں کے لئے وظائف اور پویشاک کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔

(۴) المدرستہ المنصوریتہ۔ یہ درس گاہ سلطان منصور قلاوون کی طرف منسوب ہے اسے امیر علم الدین سخراشجعی نے تعمیر کرایا تھا۔ یہاں چاروں فقہی مسلک کی الگ الگ تعلیم دی جاتی تھی۔ نیز طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں تعلیم و تدریس کے لئے نہایت قابل اور شہرہ آفاق اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ شارع النحاسین پر المدرستہ الکاملیہ کے سامنے تھا اور جامع المارستان کے نام سے مشہور تھا۔

(۵) القبتہ المنصوریتہ۔ یہاں بھی تعلیمی درس گاہ تھی اور یہ بھی سلطان منصور قلاوون کی طرف منسوب ہے۔ یہاں بھی چاروں فقہی مسلک کے مطابق جداگانہ تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں کے اساتذہ قاضی القضاة کے عہدے سے کم نہیں ہوتے تھے۔ اس درس گاہ کے اخراجات کا انتظام ان اوقاف کے ذریعے کیا جاتا تھا جو الملک الصالح عماد الدین اسماعیل بن محمد بن قلاوون نے قائم کئے تھے۔

اس قبہ میں تلاوت قرآن کریم کے لئے قاری بھی مقرر تھے جو سڑک کے قریب کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر باری باری دن رات تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک کتب خانہ بھی تھا جس میں ہر قسم کی کتابیں محفوظ تھیں۔

(۶) المدرستہ الناصریہ۔ ابتداء میں اس درس گاہ کو قائم کرنے کا حکم السلطان العادل زین الدین کتبغانے دیا تھا مگر جب وہ معزول ہو گیا تو سلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون نے جو دوبارہ ۶۹۸ھ میں مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ اس لئے یہ مدرسہ سلطان ناصر کے نام سے منسوب ہو گیا اور ۷۰۳ھ میں مکمل ہوا۔

یہاں سب سے پہلے قاضی القضاة زین الدین علی بن مخلوف مالکی نے تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ وہ ایوان کبیر میں مالکی فقہ پڑھاتے تھے۔

قاضی القضاة شرف الدین عبدالغنی الحرانی ایوان غربی میں حنبلی فقہ کا درس دیتے تھے اور قاضی القضاة احمد بن السروجی الحنفی ایوان مشرقی میں فقہ حنفی کا درس دیتے تھے۔ شیخ صدر الدین المرطل الشافعی ایوان بحری میں فقہ شافعی کا درس دیتے تھے۔ ہر مدرس کے پاس طلبہ کی مخصوص تعداد ہوتی تھی۔ حکومت کی طرف سے طلبہ کی نہایت فیاضی کے ساتھ مالی امداد کی جاتی تھی۔ نیز انہیں ماہانہ شکر کی ضروری مقدار دی جاتی تھی اور ہر سال قربانی کا گوشت بھی طلبہ کو تقسیم کیا جاتا تھا۔

المدرسة الناصرية قبة منصورية کے قریب مشرقی سمت میں اس مقام پر واقع تھا جہاں حمام ہے۔ یہ اب شارع النحاسین پر ہے اور جامع الناصریہ کے نام سے مشہور ہے۔^۱

شام کے تعلیمی مدارس

مذکورہ بالا مشہور مدارس وہ تھے جو ممالک سلاطین کے عہد میں مصر میں قائم تھے اب ان مشہور ترین مدارس کا ذکر کیا جاتا ہے جو ممالک سلاطین کے عہد میں شام میں قائم تھے۔ ان مدارس نے اس زمانے میں شام میں تعلیم و ثقافت کی شمع روشن کی۔

(۱) المدرسة الظاہریۃ۔ یہ درس گاہ الملک الظاہر بصرس نے ۶۷۰ھ میں قائم کی یہاں صرف حنفی اور شافعی علماء درس دیتے تھے سب سے پہلے جس نے یہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری کیا وہ حنفی عالم شیخ صدر الدین سلیمان تھے۔ وہ مشرق و مغرب میں حنفیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور عرصہ دراز تک دمشق میں تدریس و افتاء کا کام کرتے رہے پھر وہ مصر منتقل ہو گئے۔ وہ بہت دلیر اور حق پرست عالم تھے اور حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔

ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے چاہا کہ وہ اس کی مرضی کے فتویٰ دیں مگر انہوں نے صاف انکار کیا اور فرمایا: ”یہ جائد ایں حق دار کے قبضے میں ہیں اس لئے کہ مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان پر قبضہ کر لیں۔“

یہ کہہ کر وہ بادشاہ کی مجلس سے اٹھ گئے اور چلے گئے۔ اس بات سے بادشاہ بہت غضب ناک ہوا مگر جلد ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بادشاہ ان کی صداقت اور حق گوئی سے بہت متاثر ہوا وہ (لوگوں کے سامنے) ان کی تعریف کرتے ہوئے اکثر کہا کرتا تھا:

”تمہیں علم انہی کے پاس سے ملے گا۔“^۲

(۲) المدرسة العادلۃ الکبریٰ۔ یہ تعلیمی درس گاہ باب الظاہریہ کے نام سے دمشق کے اندر ہے۔ دونوں کے درمیان ایک راستہ گزرتا ہے۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس مدرسہ کے قائم کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس مدرسہ کی تکمیل سے پیشتر اس کی وفات ہو گئی لہذا بعد میں اس کا باقی ماندہ حصہ الملک العادل سیف الدین نے تعمیر کرایا۔ اس لئے یہ درس گاہ انہی کے نام سے منسوب ہو گئی لیکن ابھی بالکل مکمل نہیں ہوئی تھی کہ الملک العادل بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کے فرزند الملک المعظم نے اسے مکمل کرایا اور اس درس گاہ کے اخراجات کے لئے بہت سے اوقاف مخصوص کئے۔

مشہور معلمین: ۶۱۹ھ میں السلطان المعظم کے دربار میں سے پہلے قاضی جمال الدین مہری نے درس دیا۔ پھر قاضی القضاة شمس الدین احمد بن خلیل الحونی التونی ۶۲۳ھ میں مسند درس پر سرفراز ہوئے۔

ان کے بعد قاضی کمال الدین عمر بن ابو حفص بن بندار بن عمر التفلیس نے مسند درس کو سنبھالا۔ ۶۹۳ھ میں قاضی بدر الدین بن جماعہ شام آئے اور مدرسہ عادلہ میں مقیم ہوئے اور یہاں درس دیتے رہے۔ وہ کبھی کبھی یہاں اپنی عدالت بھی

۱ الخطط التوفیقیۃ ۲۲۱/۲

۲ المدارس فی تاریخ المدارس ج ۱ ص ۳۵۹ مطبوع الشرقی دمشق۔

قائم کرتے تھے۔

اس مشہور درس گاہ کے معلموں میں شیخ الاسلام قاضی القضاة تقی الدین السبکی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ ان کے بعد ان کے فرزند قاضی القضاة ابو حامد احمد نے بھی یہاں درس دیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی قاضی القضاة تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بھی اس تعلیمی درس گاہ کے مدرس رہے۔ نیز قاضی القضاة بہاء الدین ابو البقاء السبکی اور قاضی القضاة سراج الدین اجمی بھی یہاں کی مسند درس پر سرفراز رہے۔

یوں اس مشہور درس گاہ المدارس العادلیة الکبریٰ کے تمام مدرسین قاضی القضاة تھے اور اس یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مشہور درس گاہ کے شام کے علم و ثقافت پر کس قدر عمیق اثرات تھے۔ یہاں آج کل مجمع اللغة العربیہ کا دفتر قائم ہے۔ یعنی نے اپنی کتاب المدارس فی تاریخ المدارس میں قرآن کریم اور حدیث نبوی کی الگ الگ درس گاہوں نیز قرآن و حدیث کی مشترکہ درس گاہوں کا حال بیان کیا ہے۔ اسی طرح شافعی، مالکی، مالکی اور حنبلی کے مخصوص مدارس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مدارس طب اور خانقاہوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔

خانقاہیں

تصوف کی وجہ سے اسلامی ممالک کے مغربی اور مغربی حصوں میں خانقاہیں بھی قائم ہو گئی تھیں جہاں طالبان حقیقت کو روحانی تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں کے رہنے والے ذریعہ معاش سے بے فکر ہو کر رات دن خدا کے ذکر و اشغال میں مشغول رہتے تھے۔ اس لئے مسلم سلاطین اور بالخصوص ممالیک سلاطین مصر نے ان خانقاہ نشینوں کی سرپرستی کی اور انہیں فکر معاش سے فارغ کر کے خدا کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رکھا جہاں تعلیم و تدریس کا انتظام بھی تھا۔

مصر میں اس قسم کی بعض خانقاہیں عہد ممالیک سے پیشتر بھی قائم تھیں جنہیں ممالیک مصر نے قائم رکھا اور ان کی سرپرستی کی۔ ممالیک سلاطین مصر کے عہد کی مشہور خانقاہیں مندرجہ ذیل تھیں جنہیں مصر میں زاویہ کہا جاتا تھا۔

(۱) خانقاہ سعید السعدی۔ یہ خانقاہ پہلے ایک شخص کا محل تھا جس کا نام سعید تھا۔ بعد میں یہاں فاطمی وزراء رہنے لگے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین مصر کا خود مختار بادشاہ ہوا تو اس نے اس عمارت کو ان غریب صوفی درویشوں کے لئے وقف کر دیا جو در دراز کے شہروں سے آتے تھے یہ کام ۵۶۹ھ میں تکمیل پذیر ہوا۔ یہاں ان درویشوں کے لئے روزمرہ کھانے اور گوشت روٹی کا مفت بندوبست ہوتا تھا۔ ان کے لئے ایک حمام بھی تعمیر کرایا گیا۔ یوں مصر میں یہ پہلی خانقاہ قائم ہوئی۔ یہ دویرة الصوفیہ کے نام سے مشہور تھی۔ طبقات الصوفیہ میں یہاں کے شیخ کو شیخ الشیوخ کہا جاتا تھا جو بالعموم اکابر علماء میں سے ہوتے تھے اور اس خانقاہ کے رہنے والے بھی اہل علم اور خدا رسیدہ صوفی حضرات ہوتے تھے۔ یہاں کے شیوخ میں قاضی القضاة تاج الدین بن بنت الاعزاز اور قاضی القضاة بدر الدین ابن ہمام بھی تھے۔^۱

(۲) خانقاہ رکن الدین بھیرس۔ یہ خانقاہ خطہ جمالیہ میں مکتب الجمالیہ کے قریب ہے اسے سلطان رکن الدین بھیرس

۱۔ المدارس فی تاریخ المدارس النعمانی ج ۱ ص ۳۵۹، ۳۶۲، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹۔

۲۔ حسن الحاضرہ فی انجبار مصر والقاهرة ج ۲ ص ۱۴۱۔ المخطوط المقرئین ج ۳ صفحہ ۳۷۲۔

جاشگیر نے ۶۶ھ میں تعمیر کرانا شروع کیا اور اس کے قریب ایک بہت بڑی سرائے بھی تعمیر کرائی۔ بعد میں اس کے اندر اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔

جب اس خانقاہ کی ۶۹ھ میں تکمیل ہوئی تو سلطان موصوف نے خانقاہ میں چار سو درویشوں کے رہنے کا بندوبست کیا اور سرائے میں ایک سو ساہی اور بہت سے غرباء کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سرائے میں ایک لنگر خانہ بھی تھا۔ جہاں روزانہ گوشت روٹی اور حلوا تقسیم کیا جاتا تھا۔

یہاں کے قبہ میں حدیث نبوی کا درس ہوتا تھا اور بڑی کھڑکی کے قریب قاری بیٹھا کرتے تھے۔ جب سلطان ناصر محمد بن قلاوون تخت نشین ہوا اور رکن الدین بھیرس کو معزول کیا گیا تو اس وقت اس خانقاہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ پھر ۷۲ھ میں اسے کھول دیا گیا۔

یہ خانقاہ آخری زمانے تک آباد رہی اور جامع بھیرس جاشگیر کے نام سے مشہور رہی جیسا کہ مرحوم علی مبارک نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔

(۳) خانقاہ شیخو۔ اس خانقاہ کو امیر سیف الدین عمری نے ۵۶ھ میں قائم کیا تھا یہ محلہ صلیبین قاہرہ میں جامع شیخو کے بالمقابل ہے۔ پہلے خانقاہ اور جامع مسجد دونوں کو جامع شیخو کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا مگر بعد میں مقریزی نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے ایک نماز کی جامع مسجد ہے اور دوسری صوفیوں کی خانقاہ ہے۔

اس خانقاہ میں مختلف علوم و فنون کی تعلیم و تدریس کا انتظام بھی تھا۔ یہاں چاروں مذاہب کے فقہاء کا جدا جدا درس ہوتا تھا نیز حدیث نبوی اور قرأت سب سے کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی ہر طالب علم کو روزانہ کھانا اور گوشت روٹی دی جاتی تھی اور ہر ماہ حلوا، تیل اور صابن بھی دیا جاتا تھا۔ یہاں سے بہت سے علماء فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ یوں یہ خانقاہ بھی ایک قسم کی تعلیمی درس گاہ تھی۔

خانقاہ شیخو اب بھی مسجد زینب سے قلعہ جاتے ہوئے دائیں سمت وائیں ہے اور جامع شیخو مسجد سے قلعہ جاتے ہوئے بائیں سمت ہے۔

رباط: رباط صوفیائے کرام کے گھر کو کہتے ہیں۔ یہ مخصوص روحانی مراکز ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مراکز میں صرف یہ دو مصر میں مشہور تھے جو مالیک سلطین مصر کے عہد میں تعمیر ہوئے تھے۔

(۱) رباط البغدادیہ۔ یہ درویش خانہ (رباط) سلطان ظاہر بھیرس کی بیٹی نے مشہور بزرگ خاتون الشیخہ الصالحہ زینب بنت ابوالبرکات کے لئے تعمیر کرایا تھا۔ سلطان مذکور کی طرف سے مرد و اعوذ اور علماء کے علاوہ خواتین میں سے کسی نہ کسی واعظہ اور شیخانی کی سرپرستی کی جاتی تھی تاکہ وہ مصری خواتین کو وعظ و نصیحت کرے اور انہیں اخلاقی اور مذہبی تعلیم دے۔ ایسی بزرگ خاتون ام زینب بنت عباس بغدادیہ تھیں۔ جن کا ماہ ذوالحجہ ۱۲۷ھ میں وصال ہوا۔ یہ بہت بڑی عالمہ اور زاہدہ تھیں۔

رباط البغدادیہ یہ خانقاہ بھیرس کے قریب جمالیہ کے سامنے تھی۔ ۸۰۶ھ کے بعد اس کے تمام انتظامات ختم ہو گئے

۱۔ الخطط التوفیقیہ ج ۶ ص ۵۰۔ الخطط ج ۴ ص ۲۷۶۔

۲۔ الخطط ج ۴ ص ۲۹۳۔ الخطط جدیدہ از علی مبارک ج ۵ ص ۳۴۔

تھے اور اب اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے اور اس کے بجائے نہایت وسیع دوکانیں تعمیر ہو گئی ہیں۔^۱
 ۲) رباط الآثار۔ رباط الآثار کی تعمیر تاج الدین بن صاحب فخر الدین بن الصاحب بہاء الدین حسنانے کی تھی۔
 یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ میں سے لکڑی اور لوہے کے ٹکڑے وغیرہ محفوظ کئے گئے تھے جو صاحب نے منیج کے خاندان بنو ابراہیم سے خریدے تھے۔

الملك الاشرف شعبان بن حسین محمد بن قلاوون کے عہد حکومت میں یہاں فقہ شافعی کی تعلیم بھی ہونے لگی اور اس مقصد کے لئے ایک قابل مدرس مقرر کیا گیا تھا اور کچھ طلباء بھی وہاں پڑھنے کے لئے آگئے تھے۔

یہ رباط الآثار مصر سے باہر برکتہ ایشیاء کے قریب دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھا۔ یہاں ایک کتب خانہ بھی تھا۔^۲

دورِ ممالیک کی علمی تصانیف

ممالیک سلاطین کے عہد میں علم و فنون کا احیاء ہوا۔ تمام اسلامی ممالک کے ماہرین مصر و شام میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور انہوں نے عربی زبان میں ہر علم و فن پر بہترین کتب تحریر کیں خود مصر و شام میں اس دور کے بہترین علماء اور فضلاء اور محققین پیدا ہوئے۔ جنہوں نے اپنے علمی شاہکار سے عربی زبان کو مالا مال کیا اور اہل سنت کے چاروں فقہی مذاہب پر نہایت عمدہ کتب تحریر کیں کیونکہ مجاہد بن ابی یوسف اور محققین فقہاء کی کمی نہ تھی۔

علم حدیث تفسیر میں اس دور کی تصانیف حرف آخر ثابت ہوئیں اور بعد کے ہر دور میں علماء اور طالبان علم ان سے مستفید ہوتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح بخاری جو فتح الباری کے نام سے موسوم ہے نیز اصول حدیث اور اسماء الرجال میں ان کی تصانیف علم حدیث کا بہترین سرمایہ ہیں اسی دور میں حدیث و تاریخ اور اسماء الرجال پر علامہ ذہبی نے اپنی تصانیف تحریر کیں۔ علامہ عیسیٰ کی شرح بخاری اور دیگر ضخیم کتب اسلامی علوم پر اسی دور میں تحریر کی گئیں۔

علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تصانیف بھی اسی دور میں لکھی گئیں جو اپنے دور کے زبردست فضلاء اور مجددین میں سے تھے۔ اسی دور میں علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر اور تاریخ کی زبردست تصنیف الہدایۃ والنہایۃ تحریر کی۔

اس دور میں بہت سے مشاہیر علم و فضل پیدا ہوئے جنہوں نے تمام مروجہ علوم میں کتب تحریر کی تھیں تاہم اس دور کے مصر و شام میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی علوم کا بہت چرچا رہا۔ چنانچہ اسلامی علوم کے مراکز جاز و عراق اور ایران و خراسان سے منتقل ہو کر مصر و شام میں گئے تھے کیونکہ یہیں علماء کی قدر دانی عوام اور حکومت دونوں کی طرف سے ہوتی تھی اور ان کی حق گوئی اور صداقت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ اس لئے وہ حکومت کی مداخلت اور عوام کے دباؤ کے بغیر نہایت آزادی اور جرأت کے ساتھ اپنی علمی تحقیقات پیش کرتے تھے اور اس معاملہ میں حکومت اور عوام کے خوف کے بغیر وہ صحیح بات پیش کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اپنے خیالات اور اجتہادات کی پاداش میں قید و بند کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ نیز

۱۔ الخط ج ۳ ص ۲۹۳-۲۹۴ الخط التوفیقیہ ۵۳۶۔

۲۔ حسن المحاضرہ ج ۲ ص ۱۲۷۔ الخط ج ۳ ص ۲۹۶۔ الخط التوفیقیہ ۵۲۶۔

دیگر علماء کی حق گوئی اور صداقت کی مثالیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

نحو و بلاغت: اسلامی علوم کے علاوہ عربی صرف و نحو بلاغت اور معارج (لغت) پر بھی بہترین کتب تحریر کی گئیں۔ چنانچہ جمال الدین ابن مالک کی نحو میں منظوم کتاب الفیہ بہت مشہور ہوئی اور بعد کے ہر دور میں نصابی کتب میں شامل رہی۔ نیز جمال الدین ابن ہشام مصری کی کتاب معنی اللیب بھی صرف و نحو میں بہت مقبول ہوئی۔

علم بلاغت میں جر جانی نے اسرار البلاغۃ اور دلائل الامجاز دو کتابیں تحریر کیں اور سکانی نے مفتاح العلوم تحریر کی تھی۔ ممالیک سلاطین کے دور میں جلال الدین قرز دینی نے شام میں تخیص المفتاح لکھی جو متن کی حیثیت سے مدارس میں بہت مقبول ہوئی۔ چنانچہ وہ اور اس کی شروع مختصر المعانی اور مطول تمام اسلامی ممالک میں داخل نصاب رہیں۔ کتاب معارج (لغت۔ ڈکشنری) میں ابن منظور افریقی کی کتاب لسان العرب نہایت ضخیم اور مستند لغت ہے جو عربی زبان کی بہترین ڈکشنری سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مؤلف کی وفات ۷۴۷ھ میں ہوئی۔

کتب تاریخ: اس دور کی ایک علمی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں موسوعات یعنی انسائیکلو پیڈیا طرز کی کتابیں کافی لکھی گئیں جن میں ہر قسم کی معلومات اور مشاہیر اسلام کے حالات ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں مشہور مؤرخین بھی اسی دور میں گزرے ہیں چنانچہ ہمارا مؤرخ ابن خلدون بھی اسی دور کی پیداوار ہے کیونکہ اس کا آخر زمانہ یسٹین گزرا اور یہیں اس نے اپنی مشہور تاریخ مکمل کی اور قاہرہ میں فوت ہوا اور وہیں مدفون ہوا۔

دوسرا مشہور مؤرخ ابوالفداء جو حاکم وقت بھی تھا اسی دور میں گزرا ہے۔ چنانچہ سلطان ناصر محمد بن قلاوون نے اس کی قدر دانی کی۔ علامہ ابن کثیر کی مشہور اور غیر جانبدارانہ تاریخ المدنیۃ والنہایۃ بھی اسی دور میں لکھی گئی۔

تذکرے: اس دور میں مشاہیر کی سوانح عمریوں اور ہر علم و فن کے علماء کے تاریخی تذکرے لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ چنانچہ ماہرین لغت، نحو یوں، شعراء، ادباء، اطباء اور حکماء کے جداگانہ تذکرے لکھے جانے لگے۔ بعد کے تذکرہ نویس اپنے دور تک کے علماء کے حالات لکھتے تھے چنانچہ صدی کے علماء کے حالات مکملہ کے طور پر لکھے جاتے تھے بعض تذکروں میں ہر قسم کے علماء اور مشاہیر کو مجموعی حیثیت سے شامل کیا جاتا تھا۔ ان میں کسی خاص صنف کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔

تاریخ ابن خلکان: اس قسم کے مجموعی قسم کے تاریخی تذکروں میں ابن خلکان کا تذکرہ دنیات الاعیان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن خلکان ۶۰۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۸۸ھ میں فوت ہوئے انہوں نے ان مشاہیر اسلام کے حالات تحریر کئے ہیں جن کی وفات ۹۵ھ سے لے کر ۶۱۹ھ تک کے زمانے میں ہوئی ہو وہ اپنی تالیف سے ۶۲ھ تک فارغ ہو گئے تھے۔

فوات الوفیات: ابن خلکان نے جن مشاہیر افراد کا حال چھوڑ دیا تھا یا جو ان کے زمانے میں فوت نہیں ہوئے تھے ان سب کا حال فوات الوفیات میں بیان کیا گیا ہے جو محمد بن شاکر الکتبی نے تحریر کی تھی۔ ابن شاکر الکتبی نے حلب اور دمشق میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد وہ کتب فروش ہو گیا تھا۔ اس لئے اسے الکتبی کہا جاتا تھا۔ اس کی وفات ۷۴۷ھ میں ہوئی۔ اس لئے

اس میں ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے مشاہیر افراد کے حالات بھی مذکور ہیں۔

الوانی بالوفیات: اس قسم کی سوانح عربیوں کی ایک ضخیم کتاب ”الوانی بالوفیات“ ہے جو ابو الصعناہ خلیل بن ایک نے تالیف کی تھی یہ علامہ صفدی ۶۹۶ھ میں پیدا ہوئے تھے اور دمشق میں ۷۲۲ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب الوانی بالوفیات پچاس جلدوں میں ہے۔ اس میں مشہور صحابہ اولیائے کرامؓ نحو یوں ادباء و شعراء اطباء و حکماء اور ہر علم و فن کے مشاہیر کے حالات مندرج ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کی تھی مگر تبرکاً سب سے پہلے ان لوگوں کے حالات سے کتاب کا آغاز کیا ہے جو محمد کے اسم گرامی سے موسوم ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے ان لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جن کے اسمائے گرامی حرف میم سے شروع ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے حالات بیان کرنے کے بعد باقاعدہ حروف تہجی کے مطابق حرف الف سے مشاہیر کے حالات کی ابتداء کی گئی ہے۔ پھر یہ سلسلہ حروف تہجی کے مطابق جاری رکھا گیا۔

الدروا الکامنہ: اسی دور میں اکابر و مشاہیر کے حالات میں ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام الدروا الکامنہ فی اعیان المائتہ الثامنہ ہے جو حیدرآباد دکن سے چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب مشہور محدث اور عالم ابو الفضل احمد بن علی بن محمد المعروف بہ ابن حجر عسقلانی نے تالیف کی تھی جو اپنے زمانے کے جامع کمالات اور مایہ ناز عالم تھے۔ وہ پرانے مصر میں ۷۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۵۲ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی یہ کتاب آٹھویں صدی کے مشاہیر کے حالات میں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسی دور میں بے شمار کتب مختلف علوم و فنون میں تحریر کیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل زیادہ مشہور ہیں۔

- (۱) فتح الباری فی شرح صحیح البخاری۔ یہ کتاب صحیح بخاری کی ابتدا اور مشہور شرح ہے۔ اس کی چودہ جلدیں ہیں۔
- (۲) الاحیاء فی تمییز الصحابہ۔ یہ کتاب صحابہ کرام کے حالات میں ہے اور اس کی آٹھ جلدیں ہیں۔
- (۳) شرح نجات الفکر۔ یہ اصول حدیث میں مختصر نصابی کتاب ہے۔

تواریخ مصر: مصر و قاہرہ اس وسیع سلطنت کے مرکز رہے تھے اس لئے مصر اور قاہرہ کی تاریخ اور وہاں کے سلاطین کے حالات کی طرف باقاعدہ توجہ دی گئی ہے تاریخ مصر کے مشہور مؤرخین مندرجہ ذیل تھے۔

- (۱) ابن دقماق المصری ان کا پورا نام و نسب یہ ہے صارم الدین ابراہیم بن محمد بن ایمر العلامی۔ ان کی وفات ۸۰۹ھ میں ہوئی۔ انہوں نے مصر کی تاریخ میں تین کتابیں تحریر کی ہیں جن میں سے ایک کتاب بارہ جلدوں میں ہے۔
- (۲) الحافظ القطب العسقلانی ابو علی عبدالکریم بن عبدالنور العسقلانی۔ ان کی وفات ۷۳۵ھ میں ہوئی۔ انہوں نے بھی دس سے زیادہ جلدوں میں مصر کی تاریخ لکھی تھی۔

- (۳) بھیرس المنصوری رکن الدین دوادار۔ یہ ممالیک امرائے مصر سے تھا۔ اس کی وفات بھی ۷۳۵ھ میں ہوئی۔

۱۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ از جرجی زیدان ۱۶۱۳۔

۲۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ از جرجی زیدان ۱۶۵۳۔

۳۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ از جرجی زیدان ۱۸۷۳۔

عزالدین بن عبدالسلام کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ پھر آپ خود تعلیم و تدریس میں مشغول ہوئے اور چاروں طرف سے طلبہ تحصیل علم کے لئے آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کے معاصر علماء آپ کو بہت بڑا عالم تسلیم کرتے تھے اور مجتہد مطلق کا درجہ دیتے تھے۔^۱

(۴) السبکی: آپ کا پورا نام و نسب یہ ہے تقی الدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی الانصاری آپ علاقہ منوفیہ میں سبک کے مقام پر ۶۸۳ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ جامع الکمالات تھے یعنی محدث و فقیہ بھی تھے اور مفسر و مجتہد بھی تھے اور عابد و زاہد بھی تھے۔ اہل علم آپ کو امام غزالی اور امام سفیان ثوری کے مشابہ قرار دیتے تھے اور عظیم مجتہد بھی سمجھتے تھے آپ کی وفات ۷۵۷ھ میں ہوئی۔

(۵) ابن حجر عسقلانی: آپ کا پورا نام و نسب شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد ہے اور ابن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا اور آپ کی مشہور تصانیف کا ذکر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مذکورہ بالا محدثین کے علاوہ جو مجتہدین بھی تھے مندرجہ ذیل مجتہدین کرام اس دور کے ممتاز مجتہدین میں سے تھے۔

(۶) شیخ عزالدین بن عبدالسلام: آپ شیخ الاسلام اور سلطان العلماء تھے ۷۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقہ اصول فقہ اور عربی زبان کے زبردست ماہر ہوئے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”آپ کو اپنے زمانے کی مذہبی قیادت حاصل تھی۔ اشراف عالم سے لوگ آپ کے پاس فتویٰ حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ آپ اس قدر بڑے عالم تھے کہ آپ اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔“

جمال الدین بن حاجب فرماتے ہیں: ”ابن عبدالسلام، غزالی سے زیادہ فقیہ ہیں۔“ آپ اس قدر دیانت دار تھے کہ اگر فتویٰ دینے میں غلطی ہو جائے تو اس کا کھلم کھلا اعتراف کرنے تھے اور اس کے بارے میں اعلان کر دیتے تھے۔ آپ نے ۶۶۰ھ میں وفات پائی۔^۲

(۷) ابن منیر الاسکندری: آپ ۶۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۸۳ھ میں وفات پائی۔ ان کے بارے میں خود شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں ”دیار مصر کو اپنی دو شخصیتوں پر ناز ہے جو مصر کے دو کناروں کے باشندے ہیں۔ ان میں ایک دقیق العید ہیں جو قوص کے رہنے والے ہیں اور دوسرے ابن المنیر ہیں جو اسکندریہ کے باشندے ہیں۔“^۳

ابوالحسن یوسف بن تفری بردی

مصر اور عام تاریخ کے مورخین میں ابوالحسن یوسف بن تفری بردی کا نام بہت نمایاں ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم سے چھوٹ گیا تھا تاہم اس کی تاریخ النجوم النواہرہ فی اخبار ملوک مصر و القاہرہ ممالیک سلاطین مصر کے حالات میں بہت

۱ حسن المحاضرہ لسنی علی ج ۱ ص ۱۲۸۔

۲ حسن المحاضرہ ج ۱ ص ۱۲۷۔

۳ ابوالمحاضرہ ج ۱ ص ۱۲۷۔

مستند اور مشہور ہے اور اس میں اس دور کے اہل علم کے حالات بھی بہت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں اور چشم دید حالات ہیں۔ جمال الدین ابوالحسن یوسف بن تفری بردی الالاتا کی ۸۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ تفری بردی مصر کے بڑے امراء میں سے تھا اور اپنے سلاطین مصر کا زبردست مشیر تھا۔ جب وہ دمشق کا حاکم تھا تو ۸۱۵ھ میں وہ فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کا فرزند ابوالحسن یوسف بہت چھوٹا تھا لہذا اس کے بہنوئی قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن العدیم نے اس کی پرورش کی جو بہت بڑے عالم اور مورخ تھے مگر چار سال کے بعد ۸۱۹ھ میں وہ بھی فوت ہو گیا اب اس کی ہمیشہ نے شیخ الاسلام قاضی القضاة جلال الدین عبدالرحمن البلیغی الشافعی سے دوسرا نکاح کیا یوں ابن تفری بردی اس عظیم شخصیت کے زیر تربیت رہے۔

ابن تفری بردی نے اپنے دونوں بہنوئیوں کے علاوہ مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی جن میں حنفی علماء کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے قاضی القضاة بدر الدین محمود عینی حنفی سے بھی تعلیم حاصل کی اور شیخ شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی اور شیخ تقی الدین بن مقریزی کی روایت کردہ احادیث تحریر کیں۔

ان کی کتاب النجوم الزاہرہ میں ۲۰ھ میں فتح مصر سے لے کر ۸۷۲ھ تک کے حالات مذکور ہیں ان کی دوسری مشہور کتاب المنہل الصافی میں ۱۵۰ھ سے لے کر اپنے آخر زمانے تک کے مشاہیر کے حالات مذکور ہیں جو تین بڑی جلدوں میں ہیں۔ ان کی وفات ۸۷۲ھ مطابق ۱۴۷۰ء میں سلطان قاتجان کے زمانے میں ہوئی (مترجم)

ممالیک سلاطین مصر کے عہد میں فن تعمیر کی ترقی

(از: رشید احمد ارشد ایم اے۔ سابق صدر شعبہ عربی۔ کراچی یونیورسٹی)

ممالیک مصر سلاطین کا عہد مصر کے فن تعمیر کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور میں قاہرہ میں نہایت خوش نما اور عمدہ عمارتیں کثیر تعداد میں تعمیر کی گئیں۔ ان عمارتوں میں جامع مساجد مدارس، مقابر، حمام اور مکاتب وغیرہ سبھی قسم کی عمارتیں شامل ہیں۔ بالخصوص سلاطین ممالیک مصر کے مقبرے نہایت شان دار طریقے سے تعمیر کئے گئے تھے۔ ان میں قابل ذکر سلطان برقوق کا مقبرہ اور خانقاہ سلطان فرج بن برقوق کا مقبرہ۔ سلطان باریاس اور سلطان قاتیبائی کے مزارات صحراء الممالیک میں قابل ذکر ہیں۔

اس عہد کی عمارتوں میں سب سے خوبصورت عمارتیں وہ ہیں جن کا تعلق سلطان منصور قلاادون کے عہد سے ہے اور جو حاسین کے علاقے میں واقع ہیں۔ ان عمارتوں میں مدرسہ مقبرہ بیمارستان (ہسپتال) کی عمارتیں شامل ہیں جو مصر میں اسلامی دور کی نہایت ہی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ ان میں عجیب و غریب اور قابل دید مقبرہ منصور قلاادون کا وہ مٹمن برج ہے جو آٹھ مختلف ستونوں پر قائم ہے۔ اس مقبرہ کی عمارت اور اس کے گنبد پر نہایت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے جو اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کی تجدید سلطان ناصر محمد بن قلاادون نے ۳۰۳ھ میں کی تھی۔

سلطان حسن کا مقبرہ اور مدرسہ بھی مصر میں اسلامی فن تعمیر کا زبردست شاہکار ہے جب دنیا کے مشہور ماہر فن تعمیر

فرائک لویدرائٹ نے اسے دیکھا تھا تو اس نے یہ کہا تھا:

”یہ مصر میں اسلامی فن تعمیر کی سب سے خوبصورت یادگار ہے۔“

ممالیک چراکسہ کے دور کی عمارتیں: ممالیک مصر کے دوسرے خاندان چراکسہ (برجیہ) کے دور میں بھی بے شمار خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں، ان میں سلطان برقوق الظاہر اور سلطان مرج بن برقوق کے مقبرے بھی شامل ہیں جو ممالیک کے قبرستان میں ایک ہی عمارت میں واقع ہیں ان میں مکتب، خانقاہ اور مساجد بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ مساجد کے منارے دور سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایک طرف صوفی درویشوں کے رہنے کے مکانات بھی تعمیر کئے گئے تھے۔

سلطان قاتجان نے بھی بہت سی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں جن میں مساجد مدارس، سرکاری عمارتیں اور پبل وغیرہ شامل ہیں۔ اس نے جنگی عمارتیں اور قلعے بھی تعمیر کرائے تھے۔ چنانچہ اس نے قلعہ اسکندریہ تعمیر کرایا تھا اور دوسرا قلعہ رشید میں تعمیر کرایا تھا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سلطان قاتجان نے ستر سے زائد عمارتوں کو یا تو خود تعمیر کرایا یا ان میں تجدید و ترمیم کرائی۔ اس طرح سلطان قاتجان کے عہد کی یہ عمارتیں فن تعمیر کا خوبصورت اور یادگار نمونہ ہیں۔

مصر کا سلطان غوری بھی چرکسی سے تھا وہ ۱۴۴۶ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے قلعہ الجبل اور اسکندریہ کے برجوں کی مرمت کرائی نیز قلعہ تک آب رسائی کا نظام درست کرایا۔ اس نے مصر کے مشہور بازار خان الخلیلی کو بھی درست کرایا اور وہاں پتھروں کے پھانگ لگوائے جو ابھی تک باقی ہیں۔

سلطان غوری کا مقبرہ اور مدرسہ بھی شارع الغوریہ میں اس کی خوبصورت یادگار ہیں۔ سلطان غوری نے سرکاری اور رہائشی عمارتیں فن تعمیر کے جن اصولوں کے مطابق تعمیر کرائی تھی اسی نظام کے مطابق موجودہ دور میں عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔